

آپ کے مسائل

اور اُن کا حل

جلد چہارم

حج و عمرہ کے مسائل
زیارتِ روضہ
اطہر مشہد نبویؐ، مدینہ
منورہ قرآنی، تفسیر
حلال اور حرام جانور
حکم کمانے کے مسائل

حضرت مولانا
محمد یوسف صاحب
مدظلہ العالی

آپ کے مسائل

اور

اُن کا حل

جلد چہارم

مولانا محمد یوسف لدھیانوی

منشیۃ لدھیانوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں!

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۱۹۷۱۱

قانونی مشیر اعزازی : ----- حشمت علی حبیب ایڈووکیٹ

اشاعت : ----- ستمبر ۱۹۹۷ء

قیمت : -----

ناشر : ----- مکتبہ لدھیانوی

18- سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن کراچی

برائے رابطہ : ----- جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ، کراچی

فون: 7780337-7780340

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله واصحابه اجمعين
 ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جس قبولیت سے نوازا
 اس کے شہدہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہر ماہ ہمارے شیخ و مربی سیدی و مرشدی امام الاتقیاء فقیہ ملت
 حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی مدظلہ کے نام اپنے دینی مسائل کے تشفی بخش جواب کے
 حصول کے لئے آتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ
 اس نے اس سلسلے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ہم سب اس عظیم نعمت پر اللہ رب العزت کے
 شکر گزار ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو تادیر قائم رکھے اور ہمارے شیخ
 و مربی کا یہ فیض اس مقبولیت کے ساتھ پھلتا پھولتا رہے۔

اخلاص جنگ کے اسلامی صفحہ میں تو صرف وہ خطوط شائع ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم اور
 ضروری ہوں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں افراد ہر ماہ براہ راست حضرت مولانا لدھیانوی صاحب
 کے اس فیض سے استفادہ کرتے ہیں۔

”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کی پہلی جلد فقہی ترتیب کے لحاظ سے عقائد کے
 مسائل پر مشتمل تھی جبکہ دوسری جلد طہارت کے مسائل، تیسری جلد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور
 تلاوت کلام پاک کے مسائل پر مشتمل تھی۔ موجودہ چوتھی جلد فقہی ترتیب کے لحاظ سے حج و
 عمرہ کی فرضیت و فضیلت، اقسام حج، حج بدل، عورتوں کیلئے حج کرنے کی شرائط، احرام کے
 مسائل، اہل مکہ کے حج کے مسائل، طواف، اعمال حج، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
 اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، قربانی، عید الاضحیٰ اور قربانی کے جانوروں کے
 مسائل، غیر مسلم کے ذبیحہ کے احکام، عقیقہ کے مسائل، حلال و حرام جانوروں کے مسائل،

دریائی جانوروں کے احکام، پرندوں اور ان کے انڈوں کے احکام، آنکھوں کے عطیہ اور ان کی وصیت کے احکام، اعضاء کی پیوند کاری کے مسائل، قسم (حلف) کے احکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل، الفاظِ قسم وغیرہ کے احکام اور ان کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔

انشاء اللہ یہ کتب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے صدقاتِ جاریہ میں اضافہ کے ساتھ ہم سب کے اکابرین قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ وقت محدث العصر عاشق رسول حضرت شیخ علامہ مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقہ، عرف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارنی، پیکر شیخ طریقت حضرت مولانا خیر محمد صاحب جاندھری، امام الہنت قائد قافلہ اہل حق فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناموں کو زندہ رکھنے کا باعث ہوگی۔

اس کتاب کی تکمیل و اشاعت پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہر اس شخص کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائے جس نے اس کتاب کی تدوین و اشاعت میں کسی طور پر حصہ لیا ہو۔ خصوصاً حضرت شیخ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی نظام الدین استاذِ حدیث و نگران تخصص فی الفقہ جنہوں نے حضرت کے حکم پر مسائل پر نظر ثانی کی۔ اور ادارہ جنگ کے چیف ایگزیکٹو میر جاوید رحمن، ایڈیٹر انچیف میر گلگیر الرحمن، جناب ڈاکٹر شمیم الدین علوی، رفیق محترم مولانا سعید احمد جلال پوری، مولانا نعیم امجد سلیمی، مولانا فضل حق، مولانا محمد رفیق، عبداللطیف، ارشد محمود، محمد وسیم غزالی، قادی ہلال احمد، محمد فیاض اور مظفر محمد علی کے شکر گزار ہیں کہ ان حضرات کی محنتوں و کوششوں سے یہ کتب آپ کے ہاتھوں تک پہنچی۔

آخر میں ایک درخواست ہے کہ ادارہ جنگ کے مالک و بانی میر خلیل الرحمن مرحوم کا بھی اس صدقہ جاریہ میں ایک معتدبہ حصہ ہے اور وہ اس دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ ان کی مغفرت کی دعا بھی فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔

محمد جمیل خان

مگران اسلامی صفحہ ”اقراء“ روزنامہ جنگ کراچی

۵ فہرست

- ۲۵ حج و عمرہ کی فضیلت
حج سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا
حج مقبول کی پہچان
- ۲۶ نفل حج زیادہ ضروری ہے یا غریبوں کی اعانت
حج و عمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہئے
- ۲۷ حج و عمرہ کے لئے طواف افضل ہے یا عمرہ
مکہ والوں کے لئے طواف افضل ہے یا عمرہ
- ۲۸ صرف امیر آدمی ہی حج کر کے جنت نہیں بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا مستحق ہو سکتا ہے
- ۲۹ حج اور عمرہ کی فرضیت
کیا صاحب نصاب پر حج فرض ہو جاتا ہے
حج کی فرضیت اور اہل و عیال کی کفالت
- ۳۱ پہلے حج یا بیٹی کی شادی
محدود آمدنی میں لڑکیوں کی شادی سے قبل حج
فریضہ حج اور بیوی کا مسر
- ۳۲ کلمہ و بلد کی نیت سے حج کرنا
غربت کے بعد والداری میں دو سراج
- ۳۳ عورت پر حج کی فرضیت
مستغنی شدہ لڑکی کا حج کو جانا
بیوہ حج کیسے کرے
بیٹی کی کفالت سے حج
حاملہ عورت کا حج
- ۳۴ استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا
والد کے نافرمان بیٹے کا حج
عمرہ ادا کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا جب تک دو شرطیں نہ پائی جائیں
- ۳۵ حج فرض ہو تو عورت کو اپنے شوہر اور لڑکے کو اپنے والد سے اجازت لینا ضروری نہیں
والدین کی اجازت اور حج
غیر شادی شدہ شخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا
- ۳۶
- ۳۷

- ۳۷ بلوغ کا حج
تابع حج نفل ہوتا ہے
- ۳۸ سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کا عمرہ و حج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر حج بھی کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا
سیاحت کے ویزے پر حج کرنا
- ۳۹ فوج کی طرف سے حج کرنے والے کا فرض حج ادا ہو جائے گا
حج کی رقم دوسرے مصرف پر لگا دینا
حج فرض کے لئے قرضہ لینا
قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا
- ۴۰ مقروض آدمی کا حج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے
ناجائز ذرائع سے حج کرنا
- ۴۱ غصب شدہ رقم سے حج کرنا
رشوت لینے والے کا حلال کی کھائی سے حج
حرام کھائی سے حج
- ۴۲ تحفہ یا رشوت کی رقم سے حج
سود کی رقم دوسری رقم سے ملنی ہوئی ہو تو اس سے حج کرنا کیسا ہے
- ۴۳ سعودی عرب سے زائد رقم دے کر ڈرافٹ منگوا کر حج پر جانا
حج کے لئے ڈرافٹ پر زیادہ دینا
- ۴۴ جگہ کے ملازمین سے زبردستی چندہ لے کر حج کا قرعہ نکالنا
بانہ کے انعام کی رقم سے حج کرنا
حج کے لئے جھوٹ بولنا
- ۴۵ بلا اجازت حج کے لئے عزت و ملازمت کا خطرہ
حج کے لئے چھٹی کا حصول
- ۴۶ حکومت کی اجازت کے بغیر حج کو جانا
رشوت کے ذریعہ سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا
خود کو کسی دوسرے کی بیوی ظہر کر کے حج کرنا
عمرہ
- ۴۷ عمرہ حج کا بدل نہیں ہے

- ۴۹ عمرہ اور قربانی کے لئے حقیقہ شرط نہیں
احرام باندھنے کے بعد اگر بیلہ کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذمہ عمرہ کی قضا اور دم
۵۰ واجب ہے
ذی الحجہ میں حج سے پہلے کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں
یوم عرفہ سے لے کر ۱۳ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے
۵۱ عمرہ کا ایصال ثواب
والدہ مرحومہ کو عمرہ کا ثواب کس طرح پہنچایا جائے
ملازمت کا سفر اور عمرہ
کیا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے والا اور عمرے کر سکتا ہے
۵۲ اقسام حج اور حج کی اصطلاحات
۵۹ حج کرنے والوں کے لئے ہدایات
۶۶ حج کے اقسام کی تفصیل اور اصل حج
عمرہ کے بعد حج کو ناسج کہلانے کا
حج تمتع کا طریقہ
حج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر
۶۷ حج
حج بدل
۶۸ حج بدل کی شرط
حج بدل کا جواز
حج بدل کون کر سکتا ہے
حج بدل کس کی طرف سے کرنا ضروری ہے
بغیر وصیت کے حج بدل کرنا
۷۰ میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں
حج بدل کے سلسلہ میں اشکالات کے جوابات
۷۲ مجبوری کی وجہ سے حج بدل
بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج
والدہ کا حج بدل
۷۳ معذور باپ کی طرف سے جدہ میں متیم بیٹا کس طرح حج بدل کرے
۷۴ دادا کی طرف سے حج بدل

- ۷۴ بیوی کی طرف سے حج بدل
- ۷۵ سر کی جگہ حج بدل
- ایسی عورت کا حج بدل جس پر حج فرض نہیں تھا
اپنا حج نہ کرنے والے کا حج بدل پر جانا
یعنی
- ۷۶ حج بدل کوئی بھی کر سکتا ہے غریب ہو چاہے امیر
تباہ حج بدل نہیں کر سکتا
- ۷۷ حج بدل میں قربانی لازم ہے یا نہیں
حج بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں
بغیر محرم کے حج
- ۷۹ محرم کے کہتے ہیں
- عورتوں کے لئے حج میں محرم کی شرط کیوں ہے نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر حج
عورت کو عمرو کے لئے تھامنا جائز نہیں لیکن عمرو ادا ہو جائے گا
کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر
بغیر محرم کے حج کا سفر
حج کے لئے غیر محرم کو محرم بنانا گناہ ہے
عورت کو محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں
بغیر محرم کے حج
- ۸۰
- ۸۱
- ۸۲ محرم کے بغیر بوزھی عورت کا حج تو ہو گیا لیکن گنہگار ہوگی
- ۸۳ ضعیف عورت کا ضعیف نامحرم مرد کے ساتھ حج
مہلنی کا بھانجے کے ساتھ حج کرنا
بہنوئی کے ساتھ حج یا سفر کرنا
- ۸۴
- جینہ یا دوسرے نامحرم کے ساتھ سفر حج
شہر کے سنگے چچا کے ساتھ سفر حج کرنا
- ۸۵ عورت کا بیٹی کے سر و ساس کے ساتھ سفر حج
بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج و عمرو
عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا
- ۸۶ عورت کا ایسی عورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

- ۸۶ ملازم کو محرم بنا کر حج کرنا
اگر عورت کو مرنے تک محرم حج کے لئے نہ ملے توجیح کی وصیت کرے
- ۸۷ احرام باندھنے کے مسائل
حاصل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے خوشبو اور سرمہ استعمال کرنا
میقات کے پورے اور تنعم میں فرق
- ۸۸ احرام کی حالت میں چہرے یا سر کا پینہ صاف کرنا
سردی کی وجہ سے احرام کی حالت میں سو ستر یا گرم چادر استعمال کرنا
عورتوں کا احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا
- ۸۹ عورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے اور وہ احرام کہاں سے باندھے
عورت کا احرام کے لیے سے سر کا رخ کرنا لفظ ہے
- ۹۰ عورت کا بلوری کی حالت میں احرام باندھنا
حج میں پرہ
طواف کے علاوہ کدھے ننگے رکھنا مکروہ ہے
لیک احرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں
- ۹۱ عیروہ کا احرام کہاں سے باندھا جائے
- ۹۲ کئی، حج یا عمرہ کا احرام کہاں سے باندھے گا
عمرہ کرنے والا شخص احرام کہاں سے باندھے
ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا احرام کہاں سے باندھے
- ۹۳ بحری جہاز کے ملازمین اگر حج کرنا چاہیں تو کہاں سے احرام باندھیں گے
- ۹۴ کراچی سے عمرہ پر جانے والا کہاں سے احرام باندھے
- ۹۵ جس کی طلاق تجنیبی نہ ہو وہ احرام کہاں سے باندھے
میقات سے بغیر احرام کے گزرنا
- ۹۶ بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں
بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے پر دم
میقات سے اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو دم واجب ہو گیا لیکن اگر واپس آکر میقات
۹۷ سے احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہو گیا
بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا
- ۹۸ شوہر کے پاس جہہ جانے والی عورت پر احرام باندھنا لازم نہیں

- ۹۹ حج و عمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے والے کا احرام
 کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں
 ۱۰۰ جدہ جا کر احرام باندھنا صحیح نہیں
 ۱۰۱ جدہ سے احرام کب باندھ سکتا ہے
 جدہ سے مکہ آنے والوں کا احرام باندھنا
 ۱۰۲ احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے
 عمرہ سے ظہر ہو کر حلق سے پہلے کپڑے پیننا
 ۱۰۳ احرام کھولنے کے لئے کتنے بل کاٹنے ضروری ہیں
 ۱۰۵ حج کا احرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا کیا جائے
 عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد حج کا احرام باندھنے تک پابندیاں نہیں ہیں
 ۱۰۶ احرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے
 احرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل
 کیا حالت احرام میں ناپاک ہونے والے پر دم واجب ہے
 ناپاکی کی وجہ سے احرام کی ٹھیلی چلور کا بدنا
 ۱۰۷ احرام کی حالت میں بال گریں تو کیا قربانی کی جائے
 کیا ہر مرتبہ عمرہ کے لئے احرام دھونا پڑے گا
 عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے احرام دھونا
 احرام کی چلور استعمال کے بعد کسی کو بھی دے سکتے ہیں
 ۱۰۸ احرام کو تکیہ کی جگہ استعمال کرنا
 احرام کے کپڑے کو بعد میں دوسری جگہ استعمال کرنا

طواف

- ۱۰۹ حرم شریف کی تحیت المسجد طواف ہے
 طواف سے پہلے سعی کرنا
 اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا
 طواف کے دوران ایذا رسانی
 حجر اسود کے استلام کا طریقہ
 حجر اسود لور رکھنے کی صحیح طریقہ کا بوسہ لینا
 ۱۱۰

- ۱۱۱ حجِ اسود کی توجین
طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا ضروری نہیں
- ۱۱۲ طواف کے چودہ چکر لگانا
بیت اللہ کی دیوار کو چومنا مکروہ اور خلاف ادب ہے
- ۱۱۳ طوافِ عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو دم واجب ہے
مقامِ ابراہیم پر نماز واجب الطواف ادا کرنا
- ۱۱۴ طواف کے دو رکعت نفل کیا مقامِ ابراہیم پر ادا کرنے ضروری ہیں
ہر طواف کے دو نفل غیر ممنوع اوقات میں ادا کریں
- ۱۱۵ دورانِ طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے
عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے
محذور شخص طوافِ لور دو گنا نفل کا کیا کرے
آب زم زم پینے کا طریقہ

حج کے اعمال

- ۱۱۷ حج کے ایام میں دوسرے کو تلبیہ کہلوانا
ان پڑھ ولدین کو حج کس طرح کر انہیں
حرم اور حرم سے باہر صفوں کا شرعی حکم
- ۱۱۸ حج کے دوران عورتوں کے لئے احکام
عورت کا ہڈیک دوپٹہ پہن کر حرمین شریفین آنا
- ۱۱۹ حج کے مہلک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ
۱۲۰ حج و عمرہ کے دوران ایام حیض کو دوا سے بند کرنا
- ۱۲۱ حلیٰ مکہ، منیٰ، عرفات، مزدلفہ میں مقیم ہو گا یا مسافر
آنٹھویں ذوالحجہ کو کس وقت منیٰ جانا چاہئے
- ۱۲۲ ۱۰ اور ۱۱ ذی الحجہ کی درمیانی رات منیٰ کے باہر گزرنے خلاف سنت ہے
منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو حج ہوا یا نہیں
حالیٰ منیٰ لور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے
حج اور عمرہ میں قصر نماز
- ۱۲۳ عرفات، منیٰ مکہ مکرمہ میں نماز قصر پڑھنا

- ۱۲۳ وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہئے
- ۱۲۵ عرفات کے میدان میں ظہر و عصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے
- ۱۲۶ عرفات میں نماز ظہر و عصر جمع کرنے کی شرط
- ۱۲۷ مزدلفہ اور عرفات میں نمازیں جمع کرنا اور ادا کرنے کا طریقہ
- ۱۲۸ مزدلفہ میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم
- ۱۲۹ مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے اور وادی محشر میں وقوف کرنا اور نماز ادا کرنا
- ۱۳۰ یوم النحر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے
- ۱۳۱ دم کہاں ادا کیا جائے
- ۱۳۲ رمی (شیطان کو کنکریاں ملانا)
- ۱۳۳ شیطان کو کنکریاں ملانے کی کیا علت ہے
- ۱۳۴ شیطان کو کنکریاں ملانے کا وقت
- ۱۳۵ رات کے وقت کنکریاں ملانا
- ۱۳۶ رمی جملہ میں ترتیب بدل دینے سے دم واجب نہیں ہوتا
- ۱۳۷ دسویں ذی الحجہ کو مغرب کے وقت رمی کرنا
- ۱۳۸ کسی سے کنکریاں مروانا
- ۱۳۹ کیا ہجوم کے وقت خواتین کی کنکریاں دوسرا مل سکتا ہے
- ۱۴۰ جمرات کی رمی کرنا
- ۱۴۱ بیلہ یا کمزور آدمی کا دوسرے سے رمی کروانا
- ۱۴۲ دس ذی الحجہ کو رمی جملہ کے لئے کنکریاں دوسرے کو دے کر چلے آنا جائز نہیں
- ۱۴۳ ۱۲ ذی الحجہ کو زوال سے پہلے رمی کرنا درست نہیں
- ۱۴۴ عورتوں اورضعفام کا بدھویں اور تیرھویں کی درمیانی شب میں رمی کرنا
- ۱۴۵ تیرھویں کو صبح صلوٰۃ سے پہلے منیٰ سے نکل جائے تو رمی لازم نہیں
- ۱۴۶ حج کے دوران قریبی
- ۱۴۷ کیا حلیٰ پر عید کی قریبی بھی واجب ہے
- ۱۴۸ کیا دوران حج مسافر کو قریبی معاف ہے
- ۱۴۹ حج افراد میں قریبی نہیں، چاہے پسا ہو یا دوسرا، تیسرا

- ۱۳۷ حج میں قرینہ کریں یا دم شکر
ری موخر ہونے پر بھی قرینہ بعد میں ہوگی
کسی ادارہ کو رقم دے کر قرینہ کروانا
- ۱۳۸ حلقی کا قرینہ کے لئے کسی جگہ رقم جمع کروانا
بک کے ذریعے قرینہ کروانا
- ۱۳۹ ایک قرینہ پر دو دعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شہد ہوگی
۱۴۰ حلقی کس قرینہ کا گوشت کھا سکتا ہے
- ۱۴۱ حلق (بل منڈوانا)
ری جلد کے بعد سر منڈانا
بد بد عمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے
حج و عمرہ میں کتنے بل کٹوائیں
- ۱۴۲ احرام کی حالت میں کسی دوسرے کے بل کٹانا
۱۴۳ شوہر یا باپ کا اپنی بیوی یا بیٹی کے بل کٹانا
- ۱۴۴ طواف زیارت و طواف وداع
طواف زیارت، رمی ذبح وغیرہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے
کیا ضعیف مرد یا عورت ۷ یا ۸ ذی الحجہ کو طواف زیارت کر سکتے ہیں
- ۱۴۶ کیا طواف زیارت میں رمل، اضطباع کیا جائے گا
طواف زیارت سے قبل میں بیوی کا تعلق قائم کرنا
طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اونٹ یا گائے کا دم دے
خواتین کو طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے
- ۱۴۷ عورت کا ایام خاص کی وجہ سے بغیر طواف زیارت کے آنا
۱۴۸ عورت ناپاکی اور کسی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے تو حج نہ ہوگا
طواف وداع کب کیا جائے
- ۱۴۹ طواف وداع کا مسئلہ
طواف وداع میں رمل، اضطباع اور سعی ہوگی یا نہیں
- ۱۵۰ زیارتِ روضہ اطہر، مسجد نبویؐ اور مدینہ منورہ
۱۵۱ زیارتِ روضہ اطہر اور حج

- ۱۵۲ مسجد نبویؐ کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست
مسجد نبویؐ میں چالیس نمازیں
- ۱۵۳ حج کے متفرق مسائل
حج و عمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو گویا اس کا حج مقبول نہیں ہوا
حج کے بعد اہل میں سستی آئے تو کیا کریں
جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے
- ۱۵۵ حج اکبر کی فضیلت
- ۱۵۶ حج کے ثواب کا ایصل ثواب
کیا حجر اسود جنت سے ہی سیلا رنگ کا آیا تھا
حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے
- ۱۵۷ حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے
کیا لڑکی کی رخصتی سے پہلے حج ہو جائے گا
حالی کو دریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے
- ۱۵۸ حدود حرم میں جانور ذبح کرنا
سانپ بچھو وغیرہ کو حرم میں اور احرام میں ملنا
حج کے دوران تصویر بنوانا
- ۱۵۹ بیہوشی کی زندگی گزارنے سے توبہ اور حرام رقم سے حج
حرم میں چھوڑے ہوئے جو توتوں اور چیلوں کا شرعی حکم
حج کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کر ایہ پر چلانا
- ۱۶۰ بغیر اجازت کے کہنی کی گلائی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا
حاجیوں کا تحفے تحائف دینا
- ۱۶۱ حج کرنے کے بعد حالی کھلوانا اور نام کے ساتھ لکھنا
حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے
- قربانی - (عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل)
- ۱۶۳ فضائل قربانی

قربانی حضرت امیر ایم علیہ السلام اور جنسہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ۱۶۱
قربانی کی شرعی حیثیت

۱۶۲ قربانی کس پر واجب ہے
چاندی کے نصاب بھر ملک ہو جانے پر قربانی واجب ہے
قربانی صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہے
۱۶۳ قربانی کے واجب ہونے کی چند اہم صورتیں
۱۶۶ عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے
۱۶۷ ہر سر روز گھر صاحب نصاب لڑکے، لڑکی سب پر قربانی واجب ہے چاہے ابھی من کی شلوی
۱۶۸ نہ ہوئی ہو

خاندان داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ لولاد کی طرف سے قربانی
کیا مقروض پر قربانی واجب ہے
۱۶۸ قربانی کے بدلہ میں صدقہ و خیرات کرنا
صاحب نصاب پر گزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے

۱۶۹ تبلیغ بچے کی قربانی اس کے مال سے جائز نہیں
گھر کا سرلوہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا ثواب اسی کو ملے گا
۱۷۰ کیا مرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے
۱۷۱ مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا
اگر کفایت کر کے جانور خرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں
فوت شدہ آدمی کی طرف سے کس طرح قربانی دیں
مرحوم والدین کی طرف سے قربانی دینا

۱۷۲ زکوٰۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا
جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ کرے تو اسے بھی ثواب ہوگا
قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا
۱۷۳

۱۷۴ کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دیں
قربانی کا جانور اگر فروخت کر دیا تو رقم کو کیا کرے
سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے
بقر عید پر جانور منگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں

ایام قربانی

۱۸۶

قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں

۱۸۷

قربانی دسویں، گیلہ ہویں اور پلہ ہویں ذی الحجہ کو کرنی چاہئے
شہر میں نماز عید سے قبل قربانی کرنا صحیح نہیں
قربانی کرنے کا صحیح وقت

۱۸۸

کس جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز

کس جانوروں کی قربانی جائز ہے

۱۸۹

قربانی کا بکرا ایک سل کا ہونا ضروری ہے دو دانت ہونا علامت ہے
کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے
گاجھن جانور کی قربانی کرنا

۱۹۰

اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے

کیا خصی جانور عیب دار ہو جاتا ہے

خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے

۱۹۱

خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث

۱۹۲

قربانی کے جانور کے بچے ہونے پر کیا کرے

قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا کرے

۱۹۳

قربانی کے حصے دار

پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں

مشترک خرید اہوا بکرا قربانی کرنا

۱۹۵

جانور ذبح ہو جانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں
ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے

۱۹۶

قربانی کے لئے دعا

جانور ذبح کرتے وقت کی دعا

جانور ذبح کرنے کے بعد کی دعا

۱۹۷

قربانی کے بعد کی دعا کا ثبوت

۱۹۸

قربانی کے ثواب میں دوسرے مسلمانوں کی شرکت

- ۲۰۰ ذبح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل
بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم
- ۲۰۱ مسلمان قصاصی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں: یہ شک غلط ہے
آداب قربانی
قربانی کا مسنون طریقہ
- ۲۰۲ قربانی کا جانور کس طرح لٹانا چاہئے
بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت ہے
بغیر دستے کی چھری سے ذبح کرنا
حورت کا ذبیحہ حلال ہے
- ۲۰۳ مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت صحیح نہیں
سرپرچوٹ مل کر مشین سے مرغی ذبح کرنا غلط ہے
غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے
- ۲۰۴ اگر مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق گوشت میانہ ہو تو کھانا جائز نہیں
سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال
- ۲۰۵ کیا مسلمان، غیر مسلم ممالک میں حرام گوشت استعمال کر سکتے ہیں
- ۲۰۷ قربانی کا گوشت
- قربانی کے گوشت کی تقسیم
قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا
- ۲۰۸ قربانی کا گوشت شلوی میں کھلانا
کیا سرد گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہو جاتی ہے
قربانی کے گوشت کا کھانا جائز ہے
- ۲۰۹ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا
سنت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں
- ۲۱۰ قربانی کی کھالوں کے مصارف
چرم ہائے قربانی مدارس عربیہ کو دینا
کھل کیسے اولاد کے کو دے سکتے ہیں
- ۲۱۱ قربانی کی کھل گوشت کی طرح ہر کسی کو دے سکتے ہیں

- ۲۱۱ امام مسجد کو چرم قریشی دینا کیسا ہے
- ۲۱۲ صاحب حیثیت امام کو قریشی کی کھلیں اور صدقہ فطر دینا
چرم قریشی یا صدقہ فطر اگر غریب آدمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسہ کو دے تو جائز ہے
- ۲۱۳ فلاحی کاموں کے لئے قریشی کی کھلیں جمع کرنا
قریشی کی کھلوں کی رقم سے مسجد کی تعمیر صحیح نہیں
اشاعت کتب میں چرم قریشی کی رقم لگانا
- ۲۱۴ مسجد سے متصل دکانوں میں چرم قریشی کی رقم خرچ کرنا
- ۲۱۵ طالب علم کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لئے چرم قریشی کی خطیر رقم دینا
- ۲۱۶ غیر مسلم کے ذبیحے کا حکم
مسلمان اور کتالی کا ذبیحہ جائز ہے، مرد، دہریے اور جھگے کا ذبیحہ جائز نہیں
- ۲۱۷ کن اہل کتب کا ذبیحہ جائز ہے
- ۲۱۸ یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط
یہودی کا ذبیحہ استعمال کریں یا عیسائی کا
روافض کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے
- ۲۲۰ قریشی کے متفرق مسائل
جانور ادا حد لے کر قریشی دینا
قسطوں پر قریشی کے بکرے
- ۲۲۱ غریب کا قریشی کا جانور اپنا بک بیلہ نہ بن جائے تو کیا کرے
قریشی کا بکر خریدنے کے بعد مر جائے تو کیا کرے
جس شخص کا حقیقہ نہ ہو یا ہو کیا وہ قریشی کر سکتا ہے
- ۲۲۲ لاطلی میں دنبہ کے بجائے بھیڑ کی قریشی
حلال خون اور حلال مردار کی تشریح
ذبح شدہ جانور کے خون کی چھینٹوں کا شرعی حکم
قریشی کے خون میں پاؤں ڈبونا
- ۲۲۳ قریشی کرنے سے خون آلود کپڑوں میں نماز جائز نہیں
قریشی کے جانور کی چربی سے صلن بنانا جائز ہے

عقیقہ

۲۲۴

عقیقہ کی اہمیت

عقیقہ کا عمل سنت ہے یا واجب

بالغ لڑکے کا عقیقہ ضروری نہیں اور نہ بل منڈانا ضروری ہے

۲۲۵

عقیقہ کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقہ کی سنت ادا نہیں ہوگی

بچوں کا عقیقہ میں اپنی تنخواہ سے کر سکتی ہے

اپنے عقیقہ سے پہلے بچی کا عقیقہ کرنا

۲۲۶

قرض لے کر عقیقہ اور قربانی کرنا

عقیقہ امیر کے ذمہ ہے یا غریب کے بھی

غریب کے بچے بغیر عقیقہ کے مرگے تو کیا کرے

دس کلو قیرہ منگوا کر دعوت عقیقہ کرنا

۲۲۷

غریب رشتہ دار کی خبر گیری پر خرچ کو ترجیح دی جائے

کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے

۲۲۸

لڑکے کے عقیقہ میں دو بکروں کی جگہ ایک بکرا دینا

لڑکے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے عقیقہ میں دیں

تحفہ کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ رکھنا

عقیقہ کے متعلق امرہ اربعہ کا مسلک

۲۲۹

بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں عقیقہ نہ کیا ہو تو بھی قربانی جائز ہے

۲۳۰

شوہر کا یہوی کی طرف سے عقیقہ کرنا

ساتویں دن عقیقہ دوسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

کئی بچوں کا ایک ساتھ عقیقہ کرنا

۲۳۱

مختلف دنوں میں پیدا شدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

اگر کسی کو پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ عقیقہ کیسے کرے

عقیقہ کے وقت بچے کے سر کے بل اتارنا

۲۳۲

عقیقہ کا گوشت والدین کو استعمال کرنا جائز ہے

عقیقہ کے گوشت میں ماہی، داوا، داری کا حصہ

سات دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے گوشت کا حکم

۲۳۹ عقیدہ کے سلسلہ میں بعض ہندوانہ رسوم کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہیں
حلال اور حرام جانوروں کے مسائل

شکار

۲۴۰

حلال و حرام جانوروں کا شکار کرنا
نشان بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا
کتے کا شکار کیا حکم رکھتا ہے

ہندوق سے شکار

ہندوق، غلیل، شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم

۲۴۳

خشکی کے جانوروں اور متعلقات کا شرعی حکم

گھوڑا، بچر، گدھے اور کبوتر کا شرعی حکم

خزگوش حلال ہے

گدھی کا دودھ حرام ہے

کم عمر جانور کا ذبح کرنا جائز ہے

دو تین ماہ کا بکری، بھیڑ کا بچہ ذبح کرنا

ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کرے

۲۴۵

حشرات الارض کا کھلنا

خارپشت نامی جانور کو کھلنا جائز نہیں

حشرات الارض کو ملنا

۲۴۶

موذی جانوروں اور حشرات کو ملنا

کھبوں اور پھمروں کو برتی رو سے ملنا جائز ہے

جانور کی کھل کی نوپا کا شرعی حکم

۲۴۷

کتے کے دانتوں کا ہار پیننا

سور کی ہڈی استعمال کرنا

حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھل کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خنزیر کے

۲۴۸

دریائی جانوروں کا شرعی حکم

دریائی جانوروں کا حکم

پانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں

- ۲۴۹ جینا کھانا اور اس کا کلوید کرنا
جینا حقیقے کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے
- ۲۵۰ سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلیوں کا حکم
کیکڑا حلال نہیں
- ۲۵۱ کھوے کے انڈے حرام ہیں
- ۲۵۲ پرندوں اور ان کے انڈوں کا شرعی حکم
چکال اور غیر شکری پرندے بھی حلال ہیں
کیوتز حلال ہے
بیخ حلال ہے
- ۲۵۳ مور کا گوشت حلال ہے
- ۲۵۴ کیا انڈا حرام ہے
انڈا حلال ہے
پرندے پالنا جائز ہے
حلال پرندے کو شوقیہ پالنا جائز ہے
- ۲۵۵ تلی، اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی حکم
حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں
کلیجی حلال ہے
تلی کھانا جائز ہے
حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے
- ۲۵۶ گردے، کپورے اور مڈھی حلال ہے یا حرام
بکرے کے کپورے کھانا اور خرید و فروخت کرنا
- ۲۵۷ کتا پالنا
کتا پالنا شرعاً کیسا ہے
کتا پالنا اور کتے والے گھر میں فرشتوں کا نہ آنا
- ۲۵۸ کیا کتا انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کا پالنا کیوں منع ہے
کتا کیوں نجس ہے جب کہ وہ وفادار بھی ہے
- ۲۶۰ مسلمان ملک میں کتوں کی نمائش
- ۲۶۳

- ۲۶۳ کتار کھنے کے لئے اصحاب کف کے کتے کا حوالہ غلط ہے
- ۲۶۶ آنکھوں کا عطیہ اور انسانی اعضاء کی پیوند کلری
- ۲۷۰ آنکھوں کے عطیے کی وصیت کرنا شرعاً کیسا ہے
- آنکھوں کا عطیہ کیوں ناجائز ہے جبکہ انسان قبر میں گل سڑ جاتا ہے

- ۲۷۲ ایش کی چیر پھاڑ کا شرعی حکم
- چھ ماہ کی حاملہ عورت کے بچے کو آپریشن کے ذریعہ نکالنا
- ۲۷۳ خون کے عطیہ کا اہتمام کرنا اور مرینوں کو دینا شرعاً کیسا ہے

قسم کھانے کے مسائل

- ۲۷۴ قسم کھانے کی مختلف صورتیں
- کون سی قسم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا
- نیک مقصد کے لئے سچی قسم کھانا جائز ہے
- ۲۷۵ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یا بار کھے قسم اٹھانا
- جانبین کا جھگڑا ختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر رقم اٹھالینا
- قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو گناہ ہو گا نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو
- ۲۷۶ لفظ "بجدا" کے ساتھ قسم ہو جائے گی
- ۲۷۷ رسول پاک کی قسم کھانا جائز نہیں
- یہ کر دوں تو حرام ہے کہنے سے قسم ہو جاتی ہے جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے
- کافر ہونے کی قسم کھانا

- ۲۷۸ جھوٹی قسم کا کفارہ استغفار ہے
- جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں
- کسی حقیقی مجرم کے خلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا
- جھوٹی قسم اٹھانا سخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے
- ۲۷۹ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے
- تہماً قرآن اٹھانے کا کفارہ
- سودا بیچنے کے لئے جھوٹی قسمیں کھانا
- ۲۸۰ زبردستی قرآن اٹھوانے والے بھلی سے قطع تعلق کرنا

- ۲۸۲ قسم توڑنے کا کفارہ
 قسم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگانا رکھنا ضروری ہے
 قسم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفہ وقفہ سے دے سکتے ہیں
- ۲۸۳ قسم کے کفارے کا کھانا بیس تیس مسکینوں کو اکٹھے کھلانا
 نابالغ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں
 مختلف قسمیں جن سے کفارہ واجب ہوا
 قسم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا
- ۲۸۴ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے
 ایک مہینے کی قسم کھائی اور مہینہ گزرنے کے بعد وہ کام کر لیا
 جھوٹی قسم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا
- ۲۸۵ قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قسم بھی ہو جاتی ہے
 قرآن پر ہاتھ رکھ کر خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا
 خدا تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سنگین غلطی ہے
 منگناہ نہ کرنے کی قسم کا توڑنا
 کسی کام کے باوجود نہ کرنے کی قسم کھانے کے عہد یا سہواً کر لینا
- ۲۸۶ کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا: واعد توڑنا
 کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنا
 تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا
- ۲۸۸ بیٹے کو گھر سے نکالنے کی قسم توڑنا شرعاً واجب ہے
 بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تو اب کیا کرے
- ۲۸۹ شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تو شادی کر کے کفارہ ادا کرے
 قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قسم کا کفارہ
- ۲۹۰ ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی قسم کھائی تو اب اس سے شادی کیسے کریں
 غلط قسمیں توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں
- ۲۹۱ صحیح قسم پر قائم رہنا چاہئے
 کہنی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے
- ۲۹۲ تہمداری چیز کھاؤں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں، کہنے سے قسم
- ۲۹۳ درزی سے کپڑے نہ سلوانے کی قسم کا کیا کروں

کن الفاظ سے قسم نہیں ہوتی

۲۹۴

غیر اللہ کی قسم کھانا سخت گناہ ہے

دل ہی دل میں قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی

تمہیں خدا کی قسم کہنے سے قسم لازم نہیں ہوتی

۲۹۵

کسی دوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے قسم نہیں ہوتی

بچوں کی قسم گناہ ہے اس سے توبہ کرنی چاہئے

۲۹۶

بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں

بیٹے کی قسم کھانا جائز نہیں

تھمیس میری قسم یا دودھ نہیں بخشوں گی کہنے سے قسم نہیں ہوتی

۲۹۷

قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی

”اگر خلاص کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں“ کے بیہودہ الفاظ سے قسم نہیں ہوتی

۲۹۸

غیر مسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھ نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ

حج و عمرہ کی فضیلت

حج سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا

س..... سنا ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد وہ انسان جس کا حج قبول ہو جائے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچہ، کیا یہ بات درست ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو کیا اس شخص نے جو اب تک نیکیاں کیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی؟

ج..... گناہوں کے معاف ہونے سے نیکیوں کا ختم ہونا کیسے سمجھ لیا گیا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر عبادت سے نیکیاں تو ضائع نہیں ہوا کرتیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ”گویا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔“ یہ گناہوں سے پاک ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے۔ کہ جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسی طرح ”حج مرور“ کے بعد آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔

حج مقبول کی پہچان

س..... اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے حج تو کر لیا ہے مگر معلوم نہیں خدا نے قبول کیا کہ نہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کر کے واپس آئے اور واپس آنے کے

بعد پھر سے برائی کی طرف مائل ہو جائے یعنی جھوٹ، چوری، غیبت دل دکھانا وغیرہ شروع کر دے تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدا نے قبول نہیں کی ہوتی۔ کیونکہ انسان جب حج کر کے آتا ہے تو خدا اس کا دل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے نیکی کے وہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ کہاں تک درست ہے؟

حج..... حج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے۔ آئندہ کے لئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو اور طاعات کی پابندی کی جائے۔ حج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوار انقلاب نہیں آتا اس کا معاملہ مشکوک ہے۔

نفل حج زیادہ ضروری ہے یا غریبوں کی استعانت

س..... حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوران حج اسلامی یکجہتی اور اجتماعیت کا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے جس کی افادیت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر جواب طلب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نفل حج جائز ہے یا نہیں؟ خاص طور پر ان ممالک کے باشندوں کیلئے جنہاں سے حج کیلئے جانے پر ہزار ہاروپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ جبکہ ایک مولانا صاحب نے روزنامہ جنگ کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ ”کیونہم“ اور ”سوشلزم“ یعنی لادینیت کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی روٹی کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ پاکستان اور دیگر بہت سے مسلم ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان محض پیٹ کی مجبوری کی خاطر عیسائیت اختیار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے غریب مسلمانوں میں اگر سوشلزم سے کوئی ہمدردی ہے تو محض پیٹ کی خاطر، ورنہ یہ لوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور ضرورت پڑنے پر اسلام کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ نفل حج پر خرچ کی جانے والی رقم اگر پاکستان کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے تو میراخیل ہے کہ ملک سے غربت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا اور اسلامی نظام کی راہ میں حاصل بہت سی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پچھلے سال اس سلسلہ میں میں نے دوسرے مولانا صاحب کو لکھا تھا تو انہوں نے میری تائید میں جواب دیا تھا کہ ”موجودہ حالات میں نفل حج کیلئے جانا گناہ ہے۔ اس رقم کو ملکی تیبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔“ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر مزید وضاحت فرمائیں اور پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اس حقیقت سے باخبر فرمائیں تاکہ اسلامی نظام کی راہ آسان سے آسان تر

ہو جائے۔

ج..... ایک مولانا کے زور دار فتویٰ اور دوسرے مولانا کی تائید و تصدیق کے بعد ہمارے لکھنے کو کیا بلی رہ جاتا ہے! مگر ناقص خیل یہ ہے کہ نفل حج کو تو حرام نہ کہا جائے البتہ زکوٰۃ ہی اگر ملد اوروں سے پوری طرح وصول کی جائے اور مستحقین پر اس کی تقسیم کا صحیح انتظام کر دیا جائے تو غربت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر کرے کون؟

حج و عمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہئے

س..... یہاں سعودیہ میں ہمارے گھروں میں وی سی آر پر مخرب اخلاق انڈین فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور ہر ماہ باقاعدگی سے عمرہ اور مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں حاضری بھی دی جاتی ہے۔ کیا اس سے عمرہ و مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حاضری کی افادیت ختم نہیں ہو جاتی؟ لوگ عمرہ ثواب کی نیت سے اور مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں۔ فلمیں دیکھنا برا بھی نہیں سمجھتے۔ عام خیل ہے کہ وطن سے دوری کی وجہ سے وقت کاٹنے کو دیکھتے ہیں اور یہاں تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

ج..... عمرہ اور مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، دین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ جو شخص ٹی وی جیسی حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے حج و عمرہ کی کیا ضرورت ہے۔ ایک عارف کا قول ہے۔

بطواف کعبہ رفتم زحرم ندا برآمد
کہ بروں در چہ کردی کہ درون خلدہ آئی

ترجمہ میں طواف کعبہ کو گیا تو حرم سے ندا آئی کہ تو نے باہر کیا کیا ہے، کہ دروازے کے اندر آتا ہے۔

لوگ خوب داڑھی منڈا کر روضہ اطہر پر جاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر شکل آپ کے دشمنوں جیسی بناتے ہیں۔ اس تحریر سے یہ مقصود نہیں کہ لوگوں کو حج و عمرہ نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ مقصد یہ

ہے کہ ان مقدس اعمال کو گناہوں اور غلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ ایسے حج و عمرہ ہی پر پورا ثواب مرتب ہوتا ہے۔

مکہ والوں کے لئے طواف افضل ہے یا عمرہ

س مکہ المکرمہ میں زیادہ طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ جو کہ مسجد عائشہؓ سے احرام باندھ کر کسا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے امام کا کہنا ہے طواف مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ افضل ہے اور دلیل بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے نہ کہ عمرہ کا۔ اس لئے مقیم مکہ مکرمہ کیلئے طواف افضل ہے عمرہ سے، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدینہ منورہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر ضرور آنا چاہئے۔ پوچھنا ہے کیا یہ باتیں امام کی ٹھیک ہیں یا نہیں؟

ج زیادہ طواف کرنا افضل ہے مگر شرط یہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اتنا وقت یا اس سے زیادہ طواف پر خرچ کرے۔ وزنہ عمرہ کی جگہ لیک دو طواف کر لینے کو افضل نہیں کہا جاسکتا۔

جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصد رکھتے ہیں ان کو ذوالحلیفہ سے (جو مدینہ شریف کی میقات ہے) احرام باندھنا لازم ہے اور ان کا احرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں اور اگر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جہہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے احرام باندھنے کا سوال ہی نہیں۔

صرف امیر آدمی ہی حج کر کے جنت کا مستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا مستحق ہو سکتا ہے

س حج کر کے صرف امیر آدمی ہی جنت خرید سکتا ہے، کہ اس کے پاس حج پر جانے کیلئے مناسب رقم ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ غریب محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل صرف امیروں پر ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کا حج بھی قبول نہیں ہو رہا کیونکہ میدان عرفات میں لاکھوں فرزندان توحید اندائے اسلام (خاص طور پر اسرائیل، امریکہ، روس) کے ٹاپوڈ ہونے کی دعا بڑے خشوع و خضوع سے کرتے ہیں اور ان کا بل بھی بیکا نہیں ہوتا۔ دنیا سے برائی ختم ہونے کی دعا کرتے ہیں، لیکن برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ گویا یہ ان

دعاؤں کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں؟

ج..... حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ مگر جنت صرف حج کرنے پر نہیں ملتی۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آدمی ان کے ذریعہ جنت کما سکتا ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ فقراء و مساکین امراء سے آدھادن پہلے جنت میں جائیں گے۔ حج کس کا قبول ہوتا ہے اور کس کا نہیں؟ یہ فیصلہ تو قبول کرنے والا ہی کر سکتا ہے، یہ کام میرے آپ کے کرنے کا نہیں۔ نہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ اس کی فلاں عبادت قبول ہوئی یا نہیں۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے شرائط کی پابندی کے ساتھ حج کے ارکان صحیح طور پر ادا کئے اس کا حج ہو گیا۔ رہا دعاؤں کا قبول ہونا یا نہ ہونا، یہ علامت حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی نہیں۔ بعض اوقات نیک آدمی کی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی اور برے آدمی کی دعا ظاہر میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برائی اور شر کے غلبہ کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آدمی عام لوگوں کے لئے دعا کرے گا، حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ تو اپنے لئے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں۔ کیونکہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے۔

(کتب الرقائق صفحہ ۱۵۵، ۳۸۴)

اور یہ مضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرو اور برائی کو روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب عام کی لپیٹ میں لے لیں۔ پھر تم دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں بھی نہ سنی جائیں۔ (ترمذی صفحہ ۳۹ جلد ۲)

اس وقت امت میں گناہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔ اس لئے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی امت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور ان نیک لوگوں کا یا ان کی دعاؤں کا نہیں بلکہ ہمدی شامت اعمال کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔

حج اور عمرہ کی فرضیت

کیا صاحب نصاب پر حج فرض ہو جاتا ہے

س..... ایک مولانا صاحب کہتے ہیں جس کے پاس ساڑھے سات ٹولہ سونا یا ۵۲ ٹولہ چاندی ہو وہ صاحب مل ہے اور اس پر حج فرض ہو جاتا ہے یعنی جو صاحب زکوٰۃ ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔

ج..... اس سے حج فرض نہیں ہوتا بلکہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس حج کا سفر خرچ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ مزید تفصیل ”معلم الحجج“ میں دیکھ لی جائے۔

حج کی فرضیت اور اہل و عیال کی کفالت

س..... الف ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا۔ دس ہزار روپے بقایا جلت یکمشت گورنمنٹ نے دیئے۔ اب یہ رقم حج کرنے کے لئے اور اس عرصہ تک اس کے اہل و عیال کے خرچ کے لئے کافی ہوتی ہے مگر جب حج سے واپس آنا ہو گا تو روز گلہ کے لئے الف کے پاس کچھ بھی نہ ہو گا۔ کیا ایسی حالت میں الف پر حج فرض ہو گا یا نہیں؟

۲..... قاسم کی دکان ہے اور اس میں آٹھ ہزار روپے کا سٹلن ہے جس کی تجارت سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور اگر قاسم دکان بیچ کر حج کرنے چلا جائے تو بیچے بچوں کے لئے اسی رقم سے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو گا یا نہیں اور اس کو حج کے لئے جانا چاہئے یا نہیں؟

ج..... دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ حج سے واپسی پر اس کے پاس اتنی پونجی ہونی چاہئے کہ جس سے اس کے اہل و عیال کی بقدر ضرورت کفالت ہو سکے۔
مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں حج فرض نہیں ہو گا، بہتر ہے کہ آپ دوسرے علماء کرام سے بھی دریافت فرمائیں۔

پہلے حج یا بیٹی کی شادی

س..... ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یا تو حج کر سکتا ہے یا اپنی جوان بیٹی کی شادی کر سکتا ہے۔ براہ کرم مطلع فرمائیں کہ وہ پہلے حج لے کرے یا پہلے اپنی بیٹی کی شادی کرے، اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو پھر وہ حج نہیں کر سکے گا؟
ج..... اس پر حج فرض ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گلہ ہو گا۔

محدود آمدنی میں لڑکیوں کی شادی سے قبل حج

س..... ایک شخص صاحب استطاعت ہے اور حج اس پر فرض ہے لیکن موصوف کی اولاد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے جن میں ۲ لڑکیاں جوان ہیں رقم اتنی ہے کہ اگر حج ادا کرے تو کسی ایک لڑکی کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آتی کیونکہ آجکل شادی بیلہ پر کم از کم تیس چالیس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے ایسی صورت میں کوئی شخص جس کے یہ حالات ہوں کیا فرض ہوتا ہے، حج یا شادی؟
ج..... فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہو کہ یا وہ اپنی شادی کر سکتا ہے یا حج کر سکتا ہے تو اگر حج کے ایام ہوں تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اسی سے اپنے مسئلہ کا جواب سمجھ لیجئے، اس سلسلہ میں دیگر علماء کرام سے بھی رجوع کر لیجئے۔

فریضہ حج اور بیوی کا مہر

س..... ایک دوست ہیں وہ اس سئل حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے والدین سے

اجازت لی ہے۔ مگر ان کے ذمہ بیوی کا امر ۵۰۰۰۰ کا قرضہ ہے۔ کیا وہ بیوی سے اجازت لیں گے یا معاف کر آئیں گے، کیونکہ ان کی بیوی پاکستان میں ہے اور وہ دوہنی میں ہیں۔ اب ان کا امر کیسے معاف ہو گا؟

ج..... آپ کا دوست حج ضرور کر لے۔ بیوی سے امر معاف کرنا حج کے لئے کوئی شرط نہیں۔

کلروہار کی نیت سے حج کرنا

س..... ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ موجودہ دور میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو تقریباً ہر سال حج پر جاتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ہر سال حج پر جاتے ہیں بلکہ ان کا حج ایک قسم کا ”کلروہار حج“ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ یہاں سے مختلف دوآئیں اور دیگر مسلمان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حج سے واپسی پر یہ لوگ وہاں سے شیپ ریکارڈر، وی سی آر اور کپڑا وغیرہ کثیر تعداد میں لاکر یہاں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح حج کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور کلروہار بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے؟ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس ”کلروہار حج“ کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہر سال خود حج پر جانے سے بہتر یہ نہ ہو گا کہ اپنے کسی ایسے غریب رشتے دار کو اپنے خرچ پر حج کرادیا جائے جو حج کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا؟

ج..... حج کے دوران کلروہار کی تو قرآن کریم نے اجازت دی ہے لیکن سفر حج سے مقصود ہی کلروہار ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ رہا یہ کہ اپنی جگہ دوسروں کو حج کرادیں یہ اپنے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے، اس کی فضیلت میں تو کوئی شبہ نہیں مگر ہم کسی کو اس کا حکم نہیں دے سکتے۔

غریت کے بعد مالداری میں دوسرا حج

س..... مجھ پر حج بیت اللہ فرض نہیں تھا اور کسی نے اپنے ساتھ مجھے حج بیت اللہ کرایا، اور جب وطن واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا اور غنی ہوا، اب بتائیے کہ دوبارہ حج کے واسطے جو نکات تو یہ حج میرا فرض ہو گا یا نقلی؟

ج..... پہلا حج کرنے سے فرضیت حج ساقط ہو جائے گی، دوسرا حج غنی ہونے کے بعد جو کریگا

وہ حج فرض نہیں کہلائے گا بلکہ نفلی سمجھا جائے گا۔

(فتاویٰ دارالعلوم ص ۵۳۱ ج ۶)

عورت پر حج کی فرضیت

س..... حج کیا صرف مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر بھی؟
ج..... عورت پر بھی فرض ہے جب کہ کوئی محرم میسر ہو اور اگر محرم میسر نہ ہو تو مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر دے۔

مستغنی شدہ لڑکی کا حج کو جانا

س..... اگر حج کی تیاری مکمل ہو اور لڑکی کی مستغنی ہو جائے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حج نہیں کر سکتی؟
ج..... ضرور جا سکتی ہے۔

بیوہ حج کیسے کرے

س..... خلوئہ کا انتقال اگر ایسے وقت ہو کہ حج کے وقت تک اس کی عدت پوری نہ ہوتی ہو تو وہ حج کی بابت کیا کرے؟
ج..... عدت پوری ہونے سے پہلے حج کا سفر نہ کرے۔

بیٹی کی کملائی سے حج

س..... اگر بیٹی اپنی کملائی سے اپنی ماں کو حج کرانا چاہے تو کیا یہ جائز ہے جب کہ اس کے بیٹے اس قائل نہیں؟
ج..... بلاشبہ جائز ہے لیکن عورت کا محرم کے بغیر حج جائز نہیں، حرام ہے۔

حاملہ عورت کا حج

س..... کیا حاملہ عورت حج کر سکتی ہے؟ اگر وہ حج کر سکتی ہے تو کیا وہ بچہ یا بچی جو کہ اس

کے بلن میں ہے اس کا بھی حج ہو گیا یا نہیں؟
 حج..... حلالہ عورت حج کر سکتی ہے۔ پیٹ کے بچے کا حج نہیں ہوتا۔

استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا

اس..... واپسی کے بعد سے کچھ حالات مناسب نہیں رہے اور عرصہ تین سال گزرنے پر بھی بے روزگار ہوں ایک بزرگوار نے ایک خاص بات فرمائی ہے جس کے لئے آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ کی شرائط یہ ہیں کہ اول تو حج سے پہلے عمرہ جائز نہیں۔ اور اگر کر لیا جائے تو اسی سال حج کرنا لازم ہو جاتا ہے اگر نہیں کیا تو گنہگار ہو گا۔ اور اسی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے مہربانی فرما کر جواب مرحمت فرمائیں کہ عمرہ بغیر حج کے نہیں ہو سکتا میرے کہنے پر کہ حضور اکرمؐ نے کئی عمرہ فرمائے اور حج صرف ایک مرتبہ آخر میں فرمایا جس کو وہ بزرگوار نہیں ملنے کہ حضورؐ نے کوئی عمرہ فرمایا ہے۔

ج..... جس شخص کو ایام حج میں بیت اللہ تک پہنچنے اور حج تک وہاں رہنے کی طاقت ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور یہ فرضیت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس لئے ایسے شخص کو جو صرف ایک بار بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے وسائل رکھتا ہے حج پر جلتا چاہئے۔ عمرہ کے لئے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجود حج نہ کرنا بہت غلط بات ہے، بہر حال آپ پر حج لازم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے حدیبیہ کے سال عمرہ کیا تھا۔ مگر کفہ مکہ نے بکہ جانے نہیں دیا۔ اگلے سال عمرۃ القضاء اور فرمایا۔

والد کے نافرمان بیٹے کا حج

اس..... میرا بڑا لڑکا مجھ کو بہت برا کہتا ہے۔ بات اس طرح سے کرتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں اور وہ میرا باپ ہے۔ میرا دل اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے اور مجھ کو سخت صدمہ ہے۔ میں اس کے لئے ہر وقت بد دعا کرتا ہوں اور خاص کر ہر لڑکی پر بد دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم اس پر قلعہ گرائے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس کے اس طرز عمل پر سخت پریشان ہوں۔ جو بھٹ بہت بولا ہے۔ جواب دیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا حال ہو گا؟ اور یہ حج کرنے کو بھی جانے کو ہے میں تو اس کو معاف کروں گا نہیں، باپ کے نڈا ہونے پر کیا اس کا حج ہو جائے

گا؟ سنا تو یہ ہے کہ بپ معاف نہ کرے تو حج نہیں ہوتا؟ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔

ج..... اگر اس کے ذمہ حج فرض ہے تو حج پر تو اس کو جلتا لازم ہے۔ اور اس کا فرض بھی سر سے اتر جائے گا۔ لیکن حج پر جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تمام اہل حقوق کے حقوق ادا کرے اور سب سے حقوق معاف کرائے۔ پس آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کو راضی کر لے۔ اور معافی مانگ لے۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اس سے اس کا نقصان ہو گا اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ اور اگر معاف کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے۔ اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔

عمرہ ادا کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا جب تک دو شرطیں نہ پائی جائیں

س..... ایک شخص نے پس انداز رقم مبلغ ۲۰ ہزار روپے اپنے والد مکرم کے حج کے لئے جمع کی تھی۔ حج پالیسی کے مطابق بحری جہاز کے ٹیک کا کرایہ ۲۳۹۸۰ روپے گویا ۲۵ ہزار روپے ہے۔ علماء سے مشورہ کیا کہ جتنی رقم کی کمی ہے وہ قرض لے کر فلام بھر دیا جائے؟ تو علماء کرام نے قرض سے حج کی ادائیگی کو منع کیا۔ بعدہ دریافت کیا گیا کہ عمرہ کر لیا جائے؟ تو اس پر جواب ملا کہ عمرہ کرنے کے بعد حج کا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر حج کی ادائیگی میں حکومتی قانون کی وجہ سے رکاوٹ ہے کہ رقم پوری نہیں، لیکن موجودہ رقم سے عمرہ کیا جاسکتا ہے تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد حج لازمی ہو گا، جبکہ فرضیت ہی میں کمی ہے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ زندگی مستعد کا کیا بھروسہ۔ لہذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کر لیا جائے تو حج تو لازم نہیں ہو گا؟ جیسا شریعت اجازت دے، جواب دے کر مشکور فرمائیں تاکہ آئندہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا جائے۔

ج..... اگر حج کے دنوں میں آدمی مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور حج تک وہاں ٹھہرنا ممکن بھی ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے اور اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو حج فرض نہیں ہوتا۔

س..... اگر کوئی شخص ماہ حج میں داخل ہو جائے یعنی رمضان المبارک میں عمرے کے لئے جائے اور شوال کا مینہ شروع ہو جائے تو کیا اس شخص پر حج لازم ہو گا؟ اگر اس شخص نے

پہلے حج کیا ہوا ہو تو کیا حکم ہے اور اگر حج نہ کیا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟
 حج..... اگر حج کر چکا ہے تو دوبارہ حج فرض نہیں اور اگر نہیں کیا تو اس پر حج فرض ہے۔ بشرطیکہ
 یہ حج تک وہاں رہ سکتا ہو یا واپس آکر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔
 دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس پر حج فرض نہیں۔

جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس پر حج فرض نہیں ہوتا

س..... کیا کوئی سعودی عرب میں رہ کر اپنے عزیزوں کے لئے جو کہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں کے
 لئے، ماں باپ کے لئے، بیوی بچوں کے لئے عمرہ کر سکتا ہے؟ سنا ہے جس کے نام سے عمرہ کیا
 ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صرف مرحومین کے نام کا عمرہ ہی ہو سکتا
 ہے؟

حج..... عمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ جن کی طرف سے کیا جائے ان پر حج فرض
 نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ صاحب استطاعت نہ ہو جائیں۔

حج فرض ہو تو عورت کو اپنے شوہر اور لڑکے کو اپنے والد سے
 اجازت لینا ضروری نہیں

س..... میرے والد صاحب فریضہ حج ادا کر چکے ہیں اور میں اور میری امی بہت عرصے سے
 والد صاحب سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے اجازت مانگتے ہیں مگر وہ اس لئے انکار کرتے ہیں
 کہ پیسے خرچ ہوں گے۔ اس لئے وہ ٹال دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے
 کہ ہم باپ سے پیسے مانگے بغیر حج کا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ صرف ان کی اجازت کی ضرورت
 ہے۔ کیا ہم حج کی تیاری کریں یا نہیں؟

حج..... حج آپ پر اور آپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ حج پر ضرور جائیں۔ حج فرض کے لئے
 عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا (بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی محرم جلد باہو) اور بیٹے کا
 باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں۔

والدین کی اجازت اور حج

س..... حج کرنے سے پہلے کیا والدین کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے؟

حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں، البتہ حج نفل والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہئے۔

غیر شادی شدہ شخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

س..... جو شخص غیر شادی شدہ ہو اور اس کے والدین زندہ ہوں اور والدین نے حج نہیں کیا ہو۔ اور یہ شخص حج کرنا چاہے تو کیا اس کا حج ہو سکتا ہے ؟

(۲) اگر والدین اس کو حج پر جانے کی اجازت دیں تو کیا وہ حج کر سکتا ہے ؟

حج..... اگر یہ شخص صاحب استطاعت ہو تو خواہ اس کے والدین نے حج نہ کیا، ہو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اور حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں۔

بلوغ کا حج

س..... کوئی شخص اگر اپنی بلوغ لڑکی یا لڑکے کو حج کروائے تو کیا وہ حج اس کا نفل ہو گا؟

حج..... اگر رقم لڑکے لڑکی کی ملکیت کر دی گئی تھی تو ان پر حج فرض بھی ہو گیا اور ان کا حج فرض ادا بھی ہو گیا۔

نابلغ کا حج نفل ہوتا ہے

س..... میں حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میرے ساتھ دو بچے عمر ۱۳ سال لڑکا، گیارہ سالہ لڑکی ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے بچے چونکہ نابلغ ہیں اس لئے ان کا حج فرض ہو گا یا نفل۔

حج..... نابلغ کا حج نفل ہوتا ہے۔ بلوغ ہونے کے بعد اگر ان کی استطاعت ہو تو ان پر حج فرض ہو گا۔

سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کا عمرہ و حج

س..... جو لوگ نوکری کیلئے جہہ یا سعودی عرب کی دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے ہو کر وہ حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں، حدیث کی رو سے اس کا ثواب کیا ہے؟ جب کہ دور سے لوگ

پاکستان سے ہو کر حج یا عمرہ ادا کرنے جلتے ہیں یا غریب آدمی جو پیسہ پیسہ جمع کرتا رہتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے کہ میں حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ دوسرا آدمی جب کہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے بھی یہ سعادت حاصل کی کیا دونوں صورتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟

حج..... جو لوگ ملازمت کے سلسلہ میں سعودی عرب گئے ہوں، اور حج کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں ان پر حج فرض ہے۔ اور ان کا حج و عمرہ صحیح ہے۔ اگر اخلاص ہو اور حج و عمرہ کے ارکان بھی صحیح ادا کریں تو انشاء اللہ ان کو بھی حج و عمرہ کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وطن سے جانے والوں کو۔ اور جو غریب آدمی پیسہ پیسہ جمع کر کے حج کی تیاری کرتا رہا مگر اتنا سرمایہ میسر نہ آسکا کہ حج کے لئے جائے انشاء اللہ اس کو اس کی نیت پر حج کا ثواب ملے گا۔

حج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر حج بھی کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا۔

ر..... میں یہاں ریاض سے ڈیوٹی دینے کیلئے مقلات حج پر حکومت کی طرف سے بھیجا گیا۔ میرے افسر نے کہا کہ تم ڈیوٹی کے ساتھ حج بھی کر سکو گے اس طرح میرے افسر کے ساتھ میں نے حج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیوٹی کے ساتھ حج نہیں ہوا۔ جبکہ ہمارے ساتھ بہت سے مولانا حضرات بھی تھے جنہوں نے ڈیوٹی بھی دی، جو کام حکومت نے ہمارے سپرد کیا تھا وہ بھی پورا کیا اور افسروں کی اجازت کے ساتھ مناسک حج بھی پوری طرح انجام دیئے۔ آپ کے خیال میں ایسے حج کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟

حج..... آپ کا حج ”ہم خرماد ہم ثواب“ کا مصداق ہے۔ آپ کو دو برابر ثواب ملا۔ حج کا بھی اور حجاج کی خدمت کرنے کا بھی۔

سیاحت کے ویزے پر حج کرنا

س..... ویدار حضرات اپنی بیگمات کو عمرے اور حج کی نیت سے سیاحی ویزہ (ویزٹ) کی حیثیت سے بلاتے ہیں کہ یہاں آج بھی جائیں گی اور عمرہ یا حج بھی کر لیں گی۔ بعض اوقات اس

ویزہ کے حصول کے لئے رشوت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔
ج..... سیاہی کے ویزے پر حج کرنا درست ہے مگر اس کے لئے رشوت دینا جائز نہیں۔

فوج کی طرف سے حج کرنے والے کا فرض حج ادا ہو جائے گا

س..... اگر کوئی شخص فوج کی طرف سے حج کرنے جائے تو کیا اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ (مسح
انوج کے دستے ہر سال حج کیلئے جاتے ہیں)۔
ج..... حج فرض ادا ہو جائے گا۔

حج کی رقم دوسرے مصرف پر لگا دینا

س..... میں نے اپنی والدہ کو دو سال قبل ان کے لئے لور و ولد صاحب کے لئے حج کی رقم دی جو
انہوں نے کسی لور مد میں لگا دی ہے وہاں سے یکمشت رقم کی واپسی لیک دو سال کے لئے ممکن
نہیں۔ میں نے ان سے حج کے لئے تقاضا کیا تو کہنے لگیں کہ قسمت میں ہو گا تو کر لیں گے، تمہارا
فرض ادا ہو گیا۔ مولوی صاحب یہ بتلائیے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت سے ان کو پیسہ دیا تھا
اس کا ثواب مجھے مل گیا اور یہ کہ کہیں خدا نخواستہ والدہ فی الوقت تک حج نہ کر سکنے کی بنا پر گنہہ گھر
تو نہیں ہیں؟

ج..... آپ کو تو ثواب مل گیا اور آپ کی والدہ پر حج فرض ہو گیا اگر حج کے بغیر مر گئیں تو گنہہ گھر
ہوں گی اور ان پر لازم ہو گا کہ وہ وصیت کر کے مریں کہ ان کی طرف سے حج بدل کر ادا
جائے۔

حج فرض کیلئے قرضہ لینا

س..... قرض لے کر زیور حج کر سکتا ہے یا نہیں اور قرضہ دینے والا خوشی سے خود کہتا ہے کہ آپ
حج کرنے جائیں میں پیسے دیتا ہوں، بعد میں پیسے دے دیتا۔

ج..... اگر حج فرض ہے اور قرض مل سکتا ہے تو ضرور قرض لینا چاہئے۔ اگر فرض نہ بھی ہو تو بھی
قرض لیکر حج کرنا جائز ہے۔

قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا

س..... میرا ارادہ عمرہ ادا کرنے کا ہے۔ میں نے ایک ”کیٹی“ ڈالی تھی۔ خیل تھا کہ اس کے پیسے نکل آئیں گے مگر وہ نہیں نکلی۔ امید ہے آئندہ مہینہ تک نکل آئے گی، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں کسی سے رقم لیکر عمرہ کر سکتا ہوں۔ واپسی پر ادا کر دوں گا تو آپ یہ بتائیے کہ قرض حسنہ سے عمرہ ادا ہو سکتا ہے ؟

ج..... اگر قرض بہ سہولت ادا ہو جانے کی توقع ہو تو قرض لیکر حج و عمرہ پر جانا صحیح ہے۔

مقروض آدمی کا حج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے

س..... ایک صاحب مقروض ہیں لیکن پیسہ آتے ہی بجائے قرضہ واپس کرنے کے وہ پاکستان سے اپنے والدین کو بلا کر ساتھ ہی خود بھی حج کرتے ہیں۔ ایسے حج کرنے کے بدلے میں شرمی حیثیت کیا ہے؟

ج..... حج تو ہو گیا مگر کسی کا قرضہ ادا نہ کرنا بڑی بری بات ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی مقروض ہو کر دنیا سے جائے اور اتنا مل چھوڑ کر نہ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔ میت کا قرض جب تک ادا نہ کر دیا جائے وہ محبوس رہتا ہے۔ اس لئے ادائے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔

نا جائز ذرائع سے حج کرنا

غصب شدہ رقم سے حج کرنا

س..... کسی کی ذلتی چیز پر دوسرا آدمی قبضہ کر لے، جس کی قیمت پچاس ہزار روپے ہو اور وہ اس کا مالک بن بیٹھے تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ لہذا تعالیٰ کالور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بدلے میں کیا فرمان ہے؟

ج..... دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ کر کے اس کا مالک بن بیٹھنا گناہ کبیرہ اور سنگین جرم ہے۔ ایسا شخص اگر حج پر جائے گا تو حج سے جو فوائد مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ حج پر جانے سے پہلے آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کا حق واجب ہو اس سے سبکدوش ہو جائے۔ کسی کی لائق اس کے پاس ہو تو اسے واپس کر دے۔ کسی کی چیز غصب کر رکھی ہو تو اس کو لوٹا دے، کسی کا حق دبا رکھا ہو تو اس کو ادا کر دے۔ اس کے بغیر اگر حج پر جائے گا تو شخص نام کا حج ہو گا حدیث میں ہے کہ لیک شخص دور سے (بیت اللہ کے) سفر پر جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میل کچیل سے اٹا ہوا ہے، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو ”یارب یارب“ کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی دعا کیسے قبول ہو!

رشوت لینے والے کا حلال کمالی سے حج

س..... میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ لوپڑ کی آمدنی بہت ہے۔ لیکن میں اپنی تنخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں اپنی اس آمدنی سے خود اور اپنی بیوی کو حج کروا سکتا ہوں جبکہ میری تنخواہ کے اندر ایک پیسہ بھی حرام نہیں۔

ج۔ جب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے حج کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ”اوپر کی آمدنی“ سے مراد اگر حرام کاروبار ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو پوچھنا چاہئے تھا کہ حلال کی کملٹی تو میں جمع کرنا ہوں اور حرام کی کملٹی کھاتا ہوں۔ میرا یہ طرز عمل کیسا ہے؟
حدیث شریف میں ہے کہ جس جسم کی غذا حرام کی ہو دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

لیک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے (حج پر) آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے یارب یارب کہہ کر گڑگڑا کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ الغرض حج پر جانا چاہتے ہیں تو حرام کملٹی سے توبہ کریں۔
حرام کملٹی سے حج

س۔ یہ تو متفقہ مسئلہ ہے کہ حج حرام کی کملٹی کا قبول نہیں ہوتا لیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگر یہ شخص کسی غیر مسلم سے قرض لیکر حج کے واجبات ادا کرے تو امید کی جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا حج قبول ہو جائے گا پوچھنا یہ ہے کہ غیر مسلم کامل تو ویسے بھی حرام ہے یہ کیسے حج ادا ہو گا بلکہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔

ج۔ غیر مسلم تو حلال و حرام کا قائل ہی نہیں اس لئے حلال و حرام اس کے حق میں یکساں ہے اور مسلمان جب اس سے قرض لے گا تو وہ رقم مسلمان کے لئے حلال ہوگی اس سے صدقہ کر سکتا ہے حج کر سکتا ہے بعد میں جب اس کا قرض حرام پیسے سے ادا کرے گا تو یہ گناہ ہو گا لیکن حج میں حرام پیسے استعمال نہ ہوں گے۔

تحفہ یار شوت کی رقم سے حج کرنا

س۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مقامی دفتر میں ملازم ہوں، میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں اپنی میری البیہ پس انداز کر کے رقم جمع کریں اور حج پر جا سکیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے بلکہ فرض ہے ہم حج فریضہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتے ہیں اگر میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے جو مجھے دفتر میں تموڑی تموڑی کر کے بطور تحفہ ملی ہو تو کیا ہم اس میں سے حج پر وہ رقم خرچ کر کے اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں؟ یقین جاننے کہ میں نے کبھی حکومت سے کوئی بے ایمانی یاد دھوکہ دیکر

رقم نہیں لی بلکہ زبردستی رقم دی گئی ہے بطور تحفہ۔ کبلاسی رقم سے حج ادا کرنا جائز ہے؟ برائے مہربانی مجھے اس مسئلے سے آگاہ کریں؟

ج..... حج ایک مقدس فریضہ ہے مگر یہ اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جو رقم تحفہ میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے کیا تب بھی یہ رقم آپ کو ملتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ تحفہ نہیں رشوت ہے اور اس سے حج کرنا جائز نہیں بلکہ جن لوگوں سے لی گئی ان کو لوٹانا ضروری ہے۔

سود کی رقم دوسری رقم سے ملی ہوئی ہو تو اس سے حج کرنا کیسا ہے
س..... ازراہ کرم شرعی اصول کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ ایک حلال اور جائز رقم کو سود کی رقم کے ساتھ (قصداً) ملا دیا جائے تو کیا اس پوری رقم سے حج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟
ج..... حج صرف حلال کی رقم سے ہو سکتا ہے۔

سعودی عرب سے زائد رقم دے کر ڈرافٹ منگوا کر حج پر جانا
س..... حج اسپنسر اسکیم ۱۹۸۷ء کی توسیع کیم معنی تک کر دی گئی ہے۔ لہذا حج کرام سعودی عرب سے ڈرافٹ منگوا رہے ہیں۔ جن حضرات کے عزیز و اقارب وہاں موجود ہیں وہ تو قواعد و ضوابط کے مطابق ڈرافٹ دستیاب کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی حج کرام دوسروں سے ۲۸ ہزار پاکستانی روپے کا ڈرافٹ منگواتے ہیں جس کے لئے انہیں ۳۲ ہزار یا اس سے زائد رقم دینی پڑتی ہے یعنی تقریباً ۴ ہزار روپے بلیک منی ادا کرنی پڑتی ہے اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ اس طرح زائد رقم دے کر ڈرافٹ منگوانا جائز ہے؟ اس طرح کے ڈرافٹ منگوا کر حج کے لئے جائے اور حج ادا کرے تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ اس میں کوئی نقص تو نہیں عموماً پاکستانی رجبے دیئے جاتے ہیں جو کہ ریال کی شکل میں وہاں ملتے ہیں پھر وہیں بینک میں دیئے جاتے ہیں اور پاکستانی روپے کا ڈرافٹ مل جاتا ہے۔ وہ یہاں حج کی درخواست کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ تو پھر حج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح بھی حج ہو جائے گا یا کوئی کراہت یا نقص باقی رہے گا؟

ج..... ۳۲ ہزار میں ۲۸ ہزار کا ڈرافٹ لینا دینا تو سودی کلر و بلڈ ہے۔ البتہ اگر ۳۲ ہزار کے بدلے میں ریالوں کا ڈرافٹ منگوا یا جائے تو وہ چونکہ دوسری کرنسی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی

ہے اور اگر کوئی ادارہ ڈرافٹ منگوا کر دیتا ہو اور زائد رقم حق محنت کے طور پر وصول کرنا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔

حج کے لئے ڈرافٹ پر زیادہ دینا

س..... آج کل حج کے واسطے ڈرافٹ منگواتے ہیں، کسی دلال کے ذریعے، وہ ہوتا ہے تیس ہزار کا لیکن اس منگوانے والے کو پانچ ہزار روپے دیتے ہیں یعنی ۳۵۰۰۰ کا پڑ جاتا ہے پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس کو یہ پانچ ہزار کمیشن یا اس کی مزدوری کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا یہ لین دین حلال ہے یا حرام اسی طرح اگر اس کو بجائے پاکستانی روپے کے ڈالر یا دوسرے ملک کی رقم دے دیں تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز کیونکہ اس میں توجنیت بدل چکی ہے۔

ج..... ڈرافٹ منگوانے کی جو صورت آپ نے لکھی ہے یعنی ۳۵ ہزار دے کر ۳۰ ہزار روپے لینا یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ اگر پانچ ہزار روپے لیجنٹ کو بطور اجرت دیئے جائیں تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے روپے کے بدلے ڈالر یا کوئی اور کرنسی لی جائے تو جائز ہے۔

بینک ملازمین سے زبردستی چندہ لے کر حج کا قرعہ نکالنا

س..... ہم مسلم کراشل بینک کے ملازم ہیں، ہماری یونین نے ایک حج اسکیم نکالی ہے اور ہر اشاف سے ۲۵ روپے ماہوار لیتے ہیں اس پیسے سے قرعہ اندازی کر کے دو اشاف کو حج پر جانے کو کہا ہے۔ کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵ روپے ماہوار ایک سال تک، اس پیسے سے حج جائز ہے؟ کافی اشاف دل سے چندہ دیتا نہیں چاہتا مگر یونین کے ڈر اور خوف سے ۲۵ روپے ماہوار دے رہا ہے۔ کیا اس طرح جب دل سے کوئی کام نہیں کرتا کسی کے ڈر اور خوف کے چندہ سے حج جائز ہے؟

ج..... جو صورت آپ نے لکھی ہے اس طرح حج پر جانا جائز نہیں۔ اول تو بینک سے حاصل ہونے والی تنخواہ ہی حلال نہیں اور پھر زبردستی رقم جمع کرانا اور اس کا قرعہ نکالنا یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔

بانڈ کی انعام کی رقم سے حج کرنا

س..... ٹی وی کے ایک پروگرام میں پروفیسر حسنین کاظمی صاحب میزبان کی حیثیت سے،

پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب اور مولانا صلاح الدین صاحب جرنلٹ سے چند مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ منجملہ چند سوالوں کے ایک سوال یہ تھا کہ آیا پرائز بونڈ پر انعام حاصل کردہ رقم سے ”عمرہ یا حج“ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب نے یہ دیا کہ پرائز بونڈ کی انعام حاصل کردہ رقم سے عمرہ اور حج جائز ہے۔ اس کی تشریح انہوں نے اس طرح فرمائی۔

”اگر ۱۰ روپے کا ایک پرائز بانڈ کوئی خریدتا ہے تو گویا اس کے پاس ۱۰ روپیہ کی ایک رقم ہے جس کو جب اور جس وقت وہ چاہے کسی بینک میں جا کر اس پرائز بونڈ کو دیکر مبلغ دس روپیہ حاصل کر سکتا ہے، مزید یہ تشریح فرمائی کہ مثلاً ایک ہزار اشخاص ۱۰ روپیہ کا ایک ایک پرائز بونڈ خریدتے ہیں قرعہ اندازی کے بعد کسی ایک شخص کو مقرر کردہ انعام ملتا ہے مگر بقیہ ۹۹۹ اشخاص اپنی اپنی رقم سے محروم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے پاس یہ رقم محفوظ رہتی ہے اور انعام وہ ادارہ دیتا ہے جس کی سرپرستی میں پرائز بونڈ اسکیم رائج ہے لہذا اس انعامی رقم سے عمرہ یا حج کرنا جائز ہے“ اس پروگرام کو کافی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہوگا۔ مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں کہ آیا پرائز بونڈ کی حاصل کردہ انعامی رقم سے ”عمرہ یا حج“ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

ج۔۔۔۔۔ پرائز بانڈ پر جو رقم ملتی ہے وہ جو ہے اور سود بھی، جو اس طرح ہے کہ بانڈ خریدنے والوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو اس بانڈ کے بدلے میں دس روپے ہی ملیں گے، یا مثلاً پچاس ہزار۔ اور سود اس طرح ہے کہ پرائز بانڈ خرید کر اس شخص نے متعلقہ ادارے کو دس روپے قرض دیئے اور ادارے نے اس روپے کے بدلے اس کو پچاس ہزار دس روپے واپس کئے۔ اب یہ زائد رقم جو انعام کے نام پر اس کو ملی ہے، خالص سود ہے۔ اور خالص سود کی رقم سے عمرہ اور حج کرنا جائز نہیں۔

حج کے لئے جھوٹ بولنا

س۔۔۔۔۔ سعودی گورنمنٹ نے پچھلے سال حج سے پہلے ایک قانون نفاذ کیا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جو سعودیہ میں ملازمت کر رہا ہے اگر اس نے ایک مرتبہ حج کر لیا تو وہ دوبارہ پانچ سال تک حج ادا نہیں کر سکتا۔

ہلری کہنی ہر اس شخص کو لیک ظلم پر کرنے کو دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے پانچ سال سے حج نہیں کیا ہے مجھے حج لودا کرنے کی اجازت دی جائے نیچے اس شخص کے دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ دو گواہوں کے نام اور دستخط بھی ہوتے ہیں۔

اب اگر میں اپنی والدہ یا بیوی کو اس سال حج کروانا چاہوں تو مجھے بھی ان کے ساتھ محرم کے طور پر حج کرنا ہو گا اور اس کے لئے مجھے درج بلا ظلم پر کر کے یعنی جھوٹ لکھ کر اپنے دفتر میں جمع کرانا ہو گا، چونکہ میں نے دو سال پہلے حج کیا تھا۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح جھوٹ لکھ کر حج کرنا جائز ہے؟ اور اس طرح حج لودا ہو جائے گا یا اس طرح حج کرنے والا گنہ گار ہو گا؟ حج..... آپ جھوٹ کیوں بولیں آپ یہ لکھ کر دیں کہ میں خود توجہ کر چکا ہوں لیکن اپنی والدہ یا بیوی کو حج کرانا چاہتا ہوں اس کی اجازت دی جائے۔۔۔

بلا اجازت حج کے لئے عزت و ملازمت کا خطرہ

س..... میرے والدین اس سال حج پر آرہے ہیں انشاء اللہ۔ سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اگر یہاں کام کرنے والے لیک دفعہ حج کریں تو پھر دوسرا حج پانچ سال کے بعد کریں۔ میں نے چل سال پہلے حج کیا ہے لہذا ایک سال باقی ہے۔ اب میرے والدین بوڑھے ہیں۔ کیا میں حج پر جاؤں تو گناہ نہیں ہو گا؟ میرا خیال ہے کہ میں بغیر اطلاع کے چلا جاؤں جبکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھے اجازت نہیں دے گی اس معاملہ میں سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی مگر دوسری طرف میرے والدین کی مجبوری ہے۔

ج..... آپ کا والدین کے ساتھ حج کرنا بلاشبہ صحیح ہے مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں عزت اور ملازمت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ آپ خود دیکھ لیں۔ اس کے بدلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ البتہ شرعاً اس طرح حج ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔

حج کیلئے چھٹی کا حصول

س..... میں حکومت قطر میں ملازمت کر رہا ہوں حج سے متعلق مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ قطر حکومت دوران ملازمت ہر ملازم کو حج کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع تنخواہ دیتی ہے اور پہلا ہی حج فرض ہوتا ہے۔ میں صاحب حیثیت ہوں اور حج پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا میں حکومت قطر کی حج چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیوں لے کر حج پر جاؤں؟ کیا ان دونوں چھٹیوں میں فرق سے ثواب

میں فرق پڑے گا؟ میرے دوست نے حکومت قطر کی چھٹیوں پر حج کیا ہے اگر ثواب میں فرق ہو تو دوبارہ حج کرنے کے لئے تیار ہوں؟

ج..... اگر قانون کی رو سے چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے لئے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا پڑتا ہے تو حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
حکومت کی اجازت کے بغیر حج کو جانا

س..... حکومت کی پابندی کے باوجود جو لوگ چوری یعنی غلط راستوں سے حج کرنے جاتے ہیں اور حج بھی نقلی کرتے ہیں ان کے بدلے میں کیا رائے ہے؟
ج..... حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک تو عزت کا خطرہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو بے عزتی ہوگی۔ دوسرے بعض اوقات احکام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات میقات سے بغیر احرام کے جانا پڑتا ہے جس سے دم لازم آتا ہے۔ اگر قانونی گرفت اور احکام شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہو تب تو مضائقہ نہیں ورنہ نقلی حج کے لئے وہاں سر لینا ٹھیک نہیں۔

رشوت کے ذریعہ سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا
س..... ایک شخص ملک سے باہر کلمنہ کے لئے کوشش کرتا ہے اور کسی (ریکروٹنگ ایجنسی) یا ادارے کو بطور رشوت ۱۰ یا ۱۲ ہزار روپے دے کر سعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک سال یا دو سال کے بعد اسپانسر شپ اسکیم کے تحت اپنے والد یا والدہ کو حج کراتا ہے، اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا حج اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ شخص محنت کر کے تو کمانا ہے مگر جس طریقے سے وہ باہر گیا ہے یعنی رشوت دے کر تو اس کے والدین کا حج قبول ہو گا یا نہیں؟

ج..... رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے، مگر ملازمت ہو جانے کے بعد اپنی محنت سے اس نے جو روپیہ کمایا وہ حلال ہے۔ اور اس سے حج کرنا یا اپنے والدین اور دیگر اعزہ کو حج کرانا جائز ہے۔

خود کو کسی دوسرے کی بیوی ظاہر کر کے حج کرنا

س..... میرا مسئلہ دراصل کچھ یوں ہے کہ میرا نام محمد اکرم ہے میرا ایک دوست جس کا نام محمد

اشرف ہے۔ لب میرے دوست یعنی محمد اشرف کا کچھ تھوڑا سا جھگڑا اپنے کفیل کے ساتھ تھا۔ لہذا اس نے اپنی بیوی کو یہاں حج پر بلانا تھا سو اس نے میرے نام پر اپنی بیوی کو حج پر بلایا یعنی اس نے نکل حاتمہ پر بھی میرا نام لکھوایا اور کٹھنی کلر والی میں وہ میری بیوی بن کر یہاں آئی۔ لب میں ہی اسے لینے ایئر پورٹ پر گیا۔ ایئر پورٹ سیکورٹی والوں نے میرا کلمہ دیکھ کر میری بیوی جان کر اس کو باہر آنے دیا (ایئر پورٹ سے) لب عورت اپنے اصل خولند کے پاس ہی ہے۔ اور اس نے حج بھی کیا ہے لب آپ یہ بتائیں کہ یہ حج صحیح ہے یا نہیں؟ اور کیا اگر یہ غلط ہے اور گنہ ہے تو میں کس حد تک مجرم ہوں؟

ج... فریضہ حج تو اس محترمہ کا ادا ہو گیا۔ مگر جعل سازی کے گنہ میں تینوں شریک ہیں، وہ دونوں میں بیوی بھی اور آپ بھی۔



عمرہ

عمرہ حج کا بدل نہیں ہے

س اسلام کا پانچواں رکن (صاحب استطاعت کے لئے) فریضہ حج کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ مگر اکثرزنس پیشہ حضرات جب وہ اپنا بززنس ٹرپ یورپ یا امریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ لوگ واپسی میں یا جاتے ہوئے مکہ المکرمہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں اور یہی حل پاکستان کے اعلیٰ افسران کا ہے جو حکومت کے خرچ پر یورپ وغیرہ برائے ٹرینگ یا حکومت کے کسی کام سے جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی واپسی میں عمرہ ادا کر کے آتے ہیں۔ مگر فریضہ حج ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غالباً ان کا خیال ہے کہ عمرہ ادا کرنا حج کا نعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا عمرہ ادا کرنا حج کا نعم البدل ہے؟

ج یورپ و امریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے تو عمرہ تو کر لینا چاہئے لیکن عمرہ حج کا بدل نہیں ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہو، اس کا حج کرنا ضروری ہے محض عمرہ کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔

عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں

س کیا وہ شخص عمرہ کر سکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ شخص قربانی کر سکتا ہے جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو؟ کیونکہ ہم گزشتہ چار سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کر رہے ہیں جبکہ ہم میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا۔ اور میرے بڑے بھائی پچھلے سال سعودی عرب نوکری پر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور خانہ کعبہ کی زیارت سے

مع عمرہ کے اسی عید الفطر پر مشرف فرمایا۔

حج..... عقیقہ کا ہونا قربانی اور عمرہ کے لئے کوئی شرط نہیں۔ اس لئے جس کا عقیقہ نہیں ہو اس کی قربانی اور عمرہ صحیح ہے۔

احرام باندھنے کے بعد اگر بیماری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذمہ عمرہ کی قضا اور دم واجب ہے

س..... عمرے کے لئے میں نے ۲۷ رمضان المبارک کو جدہ سے احرام باندھا لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا اور مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں ۲۷ رمضان المبارک کو عمرہ ادا نہ کر سکا اور میں نے وہ احرام عمرہ ادا کرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ ادا نہیں کیا۔ اس گناہ کی بخشش کس طرح ہو سکتی ہے؟

حج..... آپ کے ذمہ احرام توڑ دینے کی وجہ سے دم بھی واجب ہے اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔

ذی الحجہ میں حج سے قبل کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں

س..... ایام حج سے قبل (مراد یکم تا ۸ ذی الحجہ ہے) لوگ جب وطن سے احرام باندھ کر جانے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد فدرغ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس دوران مزید عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟

حج..... حج تک مزید عمرے نہیں کرنے چاہئیں۔ حج سے فدرغ ہو کر کرے۔ حج سے پہلے طواف جتنے چاہے کرتا رہے۔

یوم عرفہ سے لیکر ۱۳ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے

س..... میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ حج کے اہم رکن یوم عرفہ سے لیکر ۱۳ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا ممنوع ہے۔ اگر ممنوع ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

حج..... یوم عرفہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک پانچ دن حج کے دن ہیں۔ ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں۔ اس لئے عمرہ ان دنوں میں مکروہ تحریمی ہے۔

عمرہ کا ایصالِ ثواب

س..... اگر کوئی شخص عمرہ کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ اس عمرہ کا ثواب میرے فلاں دوست یا رشتے دار کو مل جائے، یعنی میرا یہ عمرہ میرے فلاں رشتے دار کے نام لکھ دیا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟

ج..... جس طرح دوسرے نیک کاموں کا ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے، عمرہ کا بھی ہو سکتا ہے۔

والدہ مرحومہ کو عمرہ کا ثواب کس طرح پہنچایا جائے

س..... شوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے کرنے کا ارادہ ہے، میں عمرہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو بخش دوں، یا عمرہ ان کی طرف سے کر دوں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہو گا اور نیت کس طرح کی جائے گی؟

ج..... دونوں صورتیں صحیح ہیں، آپ کے لئے آسان یہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو بخش دیں اور اگر ان کی طرف سے عمرہ کرنا ہو تو احرام باندھتے وقت یہ نیت کریں کہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں یا اللہ! یہ عمرہ میرے لئے آسان فرما۔ اور میری والدہ کی طرف سے اس کو قبول فرما۔

ملازمت کا سفر اور عمرہ

س..... ہم لوگ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب آئے اور جدہ میں اتنے اور پھر ایک ہزار میل دور کام کے لئے چلے گئے۔ اس میں ہمیں پہلے عمرہ کرنا چاہئے تھا، یا کہ بعد میں؟

ج..... چونکہ آپ کا یہ سفر عمرہ کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ ملازمت کے لئے تھا اس لئے آپ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں۔ پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا۔ خصوصاً جبکہ اس وقت آپ کو مکہ مکرمہ جانے کی اجازت ملنا بھی دشوار تھا۔

کیا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے والا اور عمرے کر سکتا ہے

س..... ایک شخص نے اشرفیہ میں جا کر عمرہ ادا کیا، اب وہ حج تک وہاں ٹھہرنا ہے تو کیا اس دوران وہ مزید عمرے کر سکتا ہے؟

ج..... متمتع کے لئے حج و عمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔

حج و عمرہ کی اصطلاحات

(حج کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیئے جائیں۔ اس لئے ”معلم الحجج“ سے نقل کر کے چند الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں)

استلام - حجرا سود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا یا حجرا سود اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا۔

اضطباع - احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکل کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔

آفاقی - وہ شخص ہے جو میقات کے حدود سے باہر رہتا ہو جیسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شاہی، عراقی اور ایرانی وغیرہ۔

ایام تشریق - ذوالحجہ کی گیلد ہوں، بارہویں اور تیرہویں تاریخیں ”ایام تشریق“ کہلاتی ہیں۔ کیونکہ ان میں بھی (نویں اور دسویں ذوالحجہ کی طرح) ہر نماز فرض کے بعد ”تکبیر تشریق“ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔

ایام ححر - دس ذی الحجہ سے بارہویں تک۔

افراد - صرف حج کا احرام باندھنا اور صرف حج کے افعال کرنا۔

تسبیح - سبحان اللہ کہنا۔

تمتع - حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھر اسی سال میں حج کا احرام باندھ کر حج کرنا۔

تلبیہ - لبیک پوری پڑھنا۔

تہلیل -- لا الہ الا اللہ پڑھنا۔

جمرات یا جمار - منیٰ میں تین مقام ہیں جن پر قدیم آدم ستون بنے ہوئے ہیں یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو جمرۃ الاوٰلیٰ کہتے ہیں اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بیچ والے کو جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد والے کو جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ العقبہ اور جمرۃ الاخریٰ کہتے ہیں۔

رمل - طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکثر کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا۔

رمی - کنکریاں پھینکنا۔

زمزم - مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اب کنوئیں کی شکل میں ہے۔ جس کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔

سعی - صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریق سے سات چکر لگانا۔

شوط - ایک چکر بیت اللہ کے چاروں طرف لگانا۔

صفا۔ بیت اللہ کے قریب جنوبی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔

طواف۔ بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر مخصوص طریق سے لگانا۔

عمرہ۔ حل یا میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنا۔

عرفات یا عرفہ۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً ۹ میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔

قرآن۔ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا۔

قارن۔ قرآن کرنے والا۔

قرن۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً ۴۲ میل پر ایک پہاڑ ہے نجد یمن اور نجد حجاز اور نجد تمامہ سے آنے والوں کی میقات ہے۔

قصر۔ بال کتروا بنا۔

محرم۔ احرام باندھنے والا۔

مفرد۔ حج کرنے والا۔ جس نے میقات سے اکیلے حج کا احرام باندھا ہو۔

میقات۔ وہ مقام جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کیلئے احرام باندھنا واجب ہے۔

جحفہ - رابع کے قریب مکہ مکرمہ سے تین منزل پر ایک مقام ہے شام سے آنے والوں کی میقات ہے۔

جنت المعلیٰ - مکہ مکرمہ کا قبرستان۔

جبلِ رحمت - عرفات میں ایک پہاڑ ہے۔

حجرِ اسود - سیاہ پتھر۔ یہ جنت کا پتھر ہے جنت سے آنے کے وقت دودھ کی مانند سفید تھا۔ لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی گوشہ میں قد آدم کے قریب اونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔

حرم - مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے اس کے حدود پر نشانات لگے ہوئے ہیں اس میں شکل کھیلانا، درخت کاٹنا، گھاس جانور کو چرانا حرام ہے۔

حلّ - حرم کے چاروں طرف میقات تک جو زمین ہے اس کو حل کہتے ہیں کیوں کہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم کے اندر حرام تھیں۔

حلق - سر کے بال منڈانا۔

حطیم - بیت اللہ کی شمالی جانب بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے کچھ حصہ زمین کا گھرا ہوا ہے اس کو حطیم اور خطیرہ بھی کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کھائی کا مال اس میں صرف کیا جائے لیکن سرمایہ کم تھا اس وجہ سے شمال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ میں سے تقریباً چھ گز شرعی جگہ چھوڑ دی۔ اس چھٹی ہوئی جگہ کو حطیم کہتے ہیں۔ اصل حطیم چھ

گزر شرعی کے قریب ہے اب کچھ احاطہ زائد بنا ہوا ہے۔

دوم۔ احرام کی حالت میں بعضے ممنوع انفل کرنے سے بکری وغیرہ ذبح کرنی واجب ہوتی ہے اس کو دوم کہتے ہیں۔

ذوالحلیفہ۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً چھ میل پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لئے میقات ہے اسے آج کل بیر علی کہتے ہیں۔

ذات عرق۔ ایک مقام کا نام ہے جو آجکل دیران ہو گیا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً تین روز کی مسافت پر ہے عراق سے مکہ مکرمہ آنے والوں کی میقات ہے۔

رکن یمانی۔ بیت اللہ کے جنوبی مشرقی گوشہ کو کہتے ہیں چونکہ یہ یمن کی جانب ہے۔

مطاف۔ طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے اور اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔

مقام ابراہیم۔ جنتی پتھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو بنایا تھا۔ مطاف کے مشرقی کنارے پر منبر اور زمزم کے درمیان ایک جالی دار قبہ میں رکھا ہوا ہے۔

ماتزم۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔

مسجد خیف۔ منیٰ کی بڑی مسجد کا نام ہے جو منیٰ کی شمالی جانب میں پہاڑ سے متصل ہے۔

مسجد نمرہ - عرفات کے کنڈے پر ایک مسجد ہے۔

مدعی - دعائے کی جگہ، مراد اس سے مسجد حرام اور مکہ مکرمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دعائے کی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے۔

مزدلفہ - منیٰ اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جو منیٰ سے تین میل مشرق کی طرف ہے۔

محسّر - مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے جہاں سے گزرتے وقت دوڑ کر نکلتے ہیں اس جگہ اصحاب نیل پر جنہوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہوا تھا۔

مروہ - بیت اللہ کے شرقی شمالی گوشہ کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔

میلین اخضرین - صفا اور مروہ کے درمیان مسجد حرام کی دیوار میں دو سبز میل لگے ہوئے ہیں، جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں۔

موقف - ٹھہرنے کی جگہ - حج کے افعال میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔

میقاتی - میقات کارہنے والا۔

وقوف - کے معنی ٹھہرنا، اور احکام حج میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص وقت میں ٹھہرنا۔

ہدی - جو جانور حاجی حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ لے جاتا ہے۔

یوم عرفہ - نوین ذی الحجہ جس روز حج ہوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔

یہ مسلم - مکہ مکرمہ کے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل مسجد یہ بھی کہتے ہیں، یہ یمن اور ہندوستان اور پاکستان سے آنیوالوں کی میقات ہے۔

حج کرنے والوں کیلئے ہدایات

س..... اسلام کے ارکان میں حج کی کیا اہمیت ہے؟ لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں پھر بھی ان کی زندگیوں میں دینی انقلاب نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موضوع پر روشنی ڈالئے۔

حج..... حج اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ اور حج ہی سے ارکان اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ احادیث طیبہ میں حج و عمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ :-

قال رسول الله ﷺ: «من حجَّ لله فلم

يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه

(مشكاة ص ۲۲۱)

”جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے حج کیا پھر اس میں نہ کوئی

نقص بات کی اور نہ نافرمانی کی وہ ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسا

ولادت کے دن تھا۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

سئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل،

«قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في

سبیل اللہ، قیل: ثم ماذا؟ قال: حجّ مبروراً متفق علیہ
(مشکاة ص ۲۲۱)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے
افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد
کرنا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد، فرمایا: حج مبرور۔“

قال رسول اللہ ﷺ: «العمرة إلى العمرة
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»
متفق علیہ (ایضاً)

”ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصہ کے گناہوں کا
کفارہ ہے۔ اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں
سکتی۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

وعن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: «تابعوا
بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي
الكبير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور
ثواب إلا الجنة» (مشکاة ص ۲۲۲)

”پے درپے حج و عمرے کیا کرو۔ کیونکہ یہ دونوں فقر اور
گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے
چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور کا ثواب صرف
جنت ہے۔“

حج عشق الہی کا مظہر ہے اور بیت اللہ شریف مرکز تجلیات الہی ہے۔ اس لئے بیت

اللہ شریف کی زیارت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری ہر مومن کی جانِ تمنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ آرزو چنگیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

وعن علیؑ قال قال رسول الله ﷺ: «من ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً الخ» (مشكاة ص ۲۲۲)

”جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کیلئے زاد وراحلہ رکھتا تھا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: «من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحجّ فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» (مشكاة ص ۲۲۲)

”جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تھی، نہ سلطان جائز اور نہ بیلہری کا عذر تھا تو اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“

ذرائع مواصلات کی سہولت اور مال کی فراوانی کی وجہ سے سال بہ سال حجاج کرام کی مردمِ شہری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہت ہی رنج و صدمہ کی بات ہے کہ حج کے انوار و برکات مدہم ہوتے جا رہے ہیں اور جو فوائد و ثمرات حج پر مرتب ہونے چاہئیں ان سے امت محروم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جو فریضہ حج کو اس کے شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک بجالانے ہوں، ورنہ اکثر حاجی صاحبان

اپنا حج غلت کر کے ”نیکی برباد گناہ لازم“ کا مصداق بن کر آتے ہیں۔ نہ حج کا صحیح مقصد ان کا مطمح نظر ہوتا ہے نہ حج کے مسائل و احکام سے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ یہ سیکھتے ہیں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور نہ ان پاک مقامات کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں۔ بلکہ اب تو ایسے مناظر دیکھنے میں آرہے ہیں کہ حج کے دوران محرمات کا ارتکاب ایک فیشن بن گیا ہے۔ اور یہ امت گناہ کو گناہ ماننے کے لئے بھی تیار نہیں۔ ”انا للہ وانا الیہ راجعون۔“ ظاہر ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بغاوت کرتے ہوئے جو حج کیا جائے، وہ انوار و برکات کا کس طرح حامل ہو سکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کو کس طرح متوجہ کر سکتا ہے؟

سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے درخواست حج پر فوٹو چسپاں کرنے کی بیخ لگا دی گئی ہے۔ اور غضب پر غضب اور ستم بلائے ستم یہ کہ پہلے پردہ نشین مستورات اس قید سے آزاد تھیں لیکن ”نفاذ اسلام“ کے جذبہ نے اب ان پر بھی فوٹوؤں کی پابندی عائد کر دی ہے۔ پھر حجاج کرام کی تربیت کے لئے حج فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ جس عبادت کا آغاز فوٹو اور فلم کی لعنت سے ہو، اس کا انجام کیا کچھ ہو گا یا ہو سکتا ہے؟ اور چونکہ حاجی صاحبان بزم خود حج فلمیں دیکھ کر حج کرنا سیکھ جاتے ہیں اس لئے نہ انہیں مسائل حج کی کسی کتاب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی عالم سے مسائل سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ جس کے جی میں جو آتا ہے کرتا ہے۔

حاجی صاحبان کے قافلے گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہننا پہنانا گویا حج کا لازمہ ہے کہ اس کے بغیر حاجی کا جانا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت و تقویٰ، حقوق کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آداب کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اس کا دور دور کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مبلکہ کا آغاز ہی آداب کے بغیر محض نمود و نمائش اور ریاکاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت، گورنر یا اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے۔ اس موقع پر بینڈ باجے، فوٹو گرائی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر اہتمام ہوتا ہے۔ غور فرمایا جائے کہ یہ کتنے محرمات کا مجموعہ ہے۔

سفر حج کے دوران نماز باجماعت تو کیا ہزاروں میں کوئی ایک آدھ حاجی ایسا ہوتا ہو گا

جس کو اس کا پورا پورا احساس ہوتا ہو کہ اس مقدس سفر کے دوران کوئی نماز قضا نہ ہوئے پائے۔ ورنہ حجاج کرام تو گھر سے نماز میں معاف کرنا چلتے ہیں اور بہت سے وقت بے وقت جیسے بن پڑے پڑھ لیتے ہیں۔ مگر نمازوں کا اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو حرمین شریفین پہنچ کر بھی نمازوں کے اوقات میں بازاروں کی رونق دوہلا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حج کے سلسلہ میں جو اہم ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے:

○ ”حج کے دوران نہ نفس کلامی ہو، نہ حکم عدولی اور نہ لڑائی جھگڑا۔“

اور احادیث طیبہ میں بھی حج مقبول کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ ”وہ نفس کلامی اور نافرمانی سے پاک ہو“۔ لیکن حلی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوں اور اپنے حج کو عذرت ہونے سے بچاتے ہوں۔ گناہ بچانا اور داڑھی منڈانا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ لیکن حاجی صاحبان نے ان کو گویا گناہوں کی فرست ہی سے خارج کر دیا ہے۔ حج کا سفر ہو رہا ہے اور بڑے اہتمام سے داڑھیاں صاف کی جا رہی ہیں اور ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر سے نغے سے جا رہے ہیں۔ ”انا للہ وانا الیہ راجعون۔“

اس ٹوہمت کے بیسیوں گناہ کبیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ حاجی صاحبان کی یہ حالت دیکھ کر ایسی اذیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ اسی طرح سفر حج کے دوران عورتوں کی بے جلابی بھی عام ہے۔ بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر برہنہ سر نظر آتی ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ بہت سی عورتیں شرعی محرم کے بغیر سفر حج پر جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کو محرم لکھوا دیتی ہیں۔ اس سے جو گندگی پھیلتی ہے وہ ”اگر گویم زباں سوزد“ کی مصداق ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہئے، اس کا نشانہ یہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ ہجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے اس لئے دوران سفر ایک دوسرے سے ناگواریوں کا پیش آنا اور آپس کے جذبات میں تصادم کا ہونا یقینی ہے۔ اور سفر کی ناگواریوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کی لذتوں پر روبرو خستہ نہ ہونا بلکہ تحمل سے کام لینا یہی اس سفر کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہر حاجی اپنے رفقا کے جذبات کا احترام کرے، دوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ دل کو صاف و

شفاف رکھے اور اس راستے میں جو ناگولری بھی پیش آئے، اسے ختمہ پیشانی سے برداشت کرے۔ خود اس کا پورا اہتمام کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرا بھی اذیت نہ پہنچے اور دوسروں سے جو اذیت اس کو پہنچے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ دوسروں کیلئے اپنے جذبات کی قربانی دینا اس سفر مبارک کی سب سے بڑی سعادت ہے اور اس دولت کے حصول کے لئے بڑے مجاہدہ و ریاضت اور بلند حوصلہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

عازمین حج کی خدمت میں بڑی خیر خواہی اور نہایت دل سوزی سے گزارش ہے کہ اپنے اس مبارک سفر کو زیادہ سے زیادہ برکت و سعادت کا ذریعہ بنانے کیلئے مندرجہ ذیل معروضات کو پیش نظر رکھیں۔

○ چونکہ آپ محبوب حقیقی کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس لئے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

○ جس طرح سفر حج کے لئے ساز و سامان اور ضروریات سفر مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر حج کے احکام و مسائل سیکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اور اگر سفر سے پہلے اس کا موقع نہیں ملا تو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کر لیا جائے کہ کسی عالم سے ہر موقع کے مسائل پوچھ پوچھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل کتابیں ساتھ رہنی چاہئیں اور ان کا بالدرجہ مطالعہ کرنا چاہئے۔ خصوصاً ہر موقع پر اس سے متعلقہ حصہ کا مطالعہ خوب غور سے کرتے رہنا چاہئے۔ کتابیں یہ ہیں:-

۱..... ”فضائل حج“ - از حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ۔

۲..... ”آپ حج کیسے کریں؟“ از مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ۔

۳..... ”معلم الحجاج“ - از مولانا مفتی سعید احمد مرحوم۔

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پرہیز کریں اور عمر بھر کے لئے گناہوں سے بچنے کا عزم کریں اور اس کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے خصوصی دعائیں بھی مانگیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہئے کہ حج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آجائے۔ جو شخص حج کے بعد بھی بدستور فرائض کا تدارک اور

ناجائز کاموں کا مرکب ہے، اس کا حج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چاہئے۔ اور سوائے اشد ضرورت کے بازاروں کا گشت قطعاً نہیں ہونا چاہئے۔ دنیا کا ساز و سلن آپ کو منگاستا، اچھا برا اپنے وطن میں بھی مل سکتا ہے لیکن حرم شریف سے میسر آنے والی سعادتیں آپ کو کسی دوسری جگہ میسر نہیں آئیں گی۔ وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں۔ خصوصاً وہاں سے ریڈیو، ٹیلیوین، ایسی چیزیں لانا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں حج و عمرہ اور کھجور اور آب زم زم، حرمین شریفین کی سوغات تھیں۔ اور اب ریڈیو، ٹیلیوین ایسی ناپاک اور گندی چیزیں حرمین شریفین سے بطور تحفہ لائی جاتی ہیں۔

چونکہ حج کے موقع پر اطراف و اکناف سے مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس لئے کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کر وہ عمل شروع نہ کر دیں۔ بلکہ یہ تحقیق کر لیں کہ آیا یہ عمل آپ کے حنفی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یا نہیں؟۔ یہاں بطور مثال دو مسئلے ذکر کرتا ہوں۔

۱..... نماز فجر سے بعد اشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک دو گانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

۲..... احرام کھولنے کے بعد سر کا منڈوانا افضل ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دعا فرمائی ہے۔ اور قینچی یا شین سے بال اتروالینا بھی جائز ہے۔ احرام کھولنے کے لئے کم از کم چوتھائی سر کا صاف کرانا یا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا۔ لیکن بیشتر لوگ جن کو صحیح مسئلہ کا علم نہیں، وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کانوں کے اوپر سے چند بال کٹوا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے احرام کھول لیا۔ حالانکہ اس سے ان کا احرام نہیں کھلتا اور کپڑے پہننے اور احرام کے منافی کام کرنے سے ان کے ذمہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ الغرض صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کر لیا کریں۔

حج کے اقسام کی تفصیل اور اسل حج

س..... میں نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ حج کی اقسام تین ہیں۔ نمبر ۱ قرآن، نمبر ۲ تمتع، نمبر ۳ افراد۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے؟ یہ کس قسم کے حج ہوتے ہیں اور ان میں افضل و اسل حج کون سا ہے؟ جس پر حج فرض ہے وہ کونسا ادا کرے؟ براہ مہربانی تفصیل سے تینوں کے احکام بھی واضح فرمائیں۔

حج..... حج قرآن یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کئے جائیں پھر حج کے ارکان ادا کئے جائیں، اور ۱۰ ذوالحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔

حج تمتع یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دیا جائے اور آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھا جائے اور ۱۰ ذوالحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد احرام کھول دیا جائے۔

حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور ۱۰ ذوالحجہ کو رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے۔ (اس صورت میں قربانی واجب نہیں) پہلی صورت افضل ہے اور دوسری اسل ہے، اور دوسری صورت، تیسری سے افضل بھی ہے اور اسل بھی۔ جس شخص پر حج فرض ہو اس کے لئے بھی یہی ترتیب ہے۔

عمرہ کے بعد حج کونسا حج کہلائے گا

س..... میں شوال میں ہی ایک عمرہ اپنی طرف سے کروں گا، اس کے بعد حج کرنے کا ارادہ ہے، اس کی نیت کس طرح ہوگی اور یہ حج کون سی قسم سے ہوگا؟
حج..... نیت تو جس طرح لگے عمرے کی اور لگے حج کی ہوتی ہے اسی طرح ہوگی، مسائل بھی وہی ہیں۔ البتہ یہ حج تمتع بن جائے گا اور دس ذوالحجہ کو سرمنڈانے سے پہلے قربانی لازم ہوگی جس کو ”دم تمتع“ کہتے ہیں۔

حج تمتع کا طریقہ

س..... ہم دونوں بہت پریشان ہیں جب سے آپ کا مشورہ مسئلہ کے ماتحت آیا تھا کہ حاجی حضرات کو چاہئے کہ علمائے دین سے سیکھ کر حج کریں۔ اس لئے آپ سے ہم پوچھ

رہے ہیں کہ آپ ذرا بتادیں تمتع کا طریقہ کہ وہ پانچ دن حج کے کیسے گزاریں مع مسنون طریقے کے اور کون سے عمل کو چھوڑنے پر دم آتا ہے اس کو بھی وضاحت سے بتلائیں۔

حج..... تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے) صرف عمرہ کا احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان (طواف اور سعی) ادا کر کے احرام کھول دیں۔ اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ ۸ ذوالحجہ کو منیٰ جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آکر ۱۰ ذوالحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں پھر قرینہ کریں پھر بل صاف کرا کر (اور عورت انگلی کے پورے کے برابر سر کے بل کٹ لے) احرام کھول دیں، پھر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ شریف جائیں اور طواف کے بعد حج کی سعی کریں اور اگر منیٰ جانے سے پہلے احرام باندھ کر نقلی طواف کر لیا اور اس کے بعد حج کی سعی پہلے کر لی تو یہ بھی جائز ہے۔

حج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر حج

س..... شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ، اشراج میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی شخص عمرہ ادا کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حج بھی ادا کرے۔ اگر ہم شوال یا ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کر کے واپس الریاض آجائیں (یعنی حدود حرم سے باہر آجائیں) اور دوبارہ حج کے موقع پر جائیں تو اس وقت نیت حج تمتع کی ہوگی یا کہ حج مفرد کی، حج تمتع کے لئے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا پہلا عمرہ ہی کافی ہوگا ؟

ج۔۔۔ آفتلی شخص اگر اشراج میں عمرہ کر کے اپنے وطن کو لوٹ جائے تو دوبارہ اس کو حج یا عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں اور اگر وہ اسی سال حج بھی کرے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ سے تمتع نہیں ہوگا۔ نہ اس کے ذمہ تمتع کا دم لازم ہوگا۔ اگر ایسا شخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کر آنا ہوگا۔

حج بدل

حج بدل کی شرائط

س..... حج بدل کی کیا شرائط ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ملازم شخص، کسی پاکستانی کی طرف سے حج کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟

ج..... جس شخص پر حج فرض ہو اور اس نے ادائیگی حج کیلئے وصیت بھی کی تھی تو اس کا حج بدل اس کے وطن سے ہو سکتا ہے سعودی عرب سے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے حج بدل کرتا ہے تو وہ حج نفل برائے ایصال ثواب ہے۔ وہ ہر جگہ سے صحیح ہے۔

حج بدل کا جواز

س..... میں ایک بہت ضروری بات کے لئے ایک مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کا حج بدل کیا تھا، ایک صاحب نے فرمایا کہ حج بدل تو کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں حج بدل کا کہیں ذکر نہیں ہے، جب سے ان صاحب سے یہ بات سنی ہے میرا دل بہت پریشان ہے کہ میرا روپیہ ضائع ہوا اور میں بہت بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی بے چینی سے خطر ہوں تاکہ میری فکر دور ہو۔

ج..... حج بدل صحیح ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں چونکہ حج بدل نہیں، اس لئے حج بدل ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی بات لغو اور بیکار ہے۔ حج بدل پر صحیح احادیث موجود ہیں اور امت کا اس کے صحیح ہونے پر اجماع

حج بدل کون کر سکتا ہے؟

س..... حج بدل کون شخص ادا کر سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج بدل صرف وہ آدمی کر سکتا ہے۔ جس نے اپنا حج ادا کر لیا ہو۔ اگر کسی کے ذمہ حج فرض نہیں تو کیا وہ شخص حج بدل ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟

ج..... حنی مسلک کے مطابق جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا کسی کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے۔ مگر مکروہ ہے۔

حج بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے

س..... حج بدل جس کے لئے کرنا ہے آیا اس پر یعنی مرحوم پر حج فرض ہو، تب حج بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر حج فرض نہ ہو اس کی طرف سے بھی کرنا ہوتا ہے؟

ج..... جس شخص پر حج فرض ہو اور اس نے اتنا مل چھوڑا ہو کہ اس کے تملکی حصہ سے حج کرایا جاسکتا ہے اور اس نے حج بدل کرانے کی وصیت بھی کی ہو تو اس کی طرف سے حج بدل کرانا اس کے وارثوں پر فرض ہے۔

جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا، مگر اس نے اتنا مل نہیں چھوڑا یا اس نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی، اس کی طرف سے حج بدل کرنا وارثوں پر لازم نہیں۔ لیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حج بدل کرے یا کسی دوسرے کو حج بدل کے لئے بھیج دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔

اور جس شخص کے ذمہ حج فرض نہیں اگر وارث اس کی طرف سے حج بدل کریں یا کرائیں تو یہ نقلی حج ہو گا اور مرحوم کو اس کا ثواب انشاء اللہ ضرور پہنچے گا۔

بغیر وصیت کے حج بدل کرنا

س..... حج بدل میں کسی کی وصیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرحوم مل، باپ، بیٹا، استاد یعنی کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے۔ استطاعت بھی ہے۔ آیا وہ صرف حج ادا کر سکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ وضاحت فرما کر منکھور فرمائیں۔

ج..... اگر وصیت نہ ہو تو جیسا حج چاہے کر سکتا ہے۔ وہ حج بدل نہیں ہو گا۔ بلکہ برائے

ایصال ثواب ہو گا جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا جس کی طرف سے وہ کیا گیا ہے۔
 قربانی بھی اسی طرح برائے ایصال ثواب کی جاسکتی ہے۔

میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں

س..... ایک متوفی پر حج فرض تھا مگر وہ حج ادا نہ کر سکا۔ اب اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص حج ادا کر سکتا ہے؟

ج..... میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے وصیت کی تھی تو اس کے تہلیٰ ترکہ سے اس کا حج بدل ادا کیا جائے گا۔ اور اگر تہلیٰ سے ممکن نہ ہو تو پھر اگر سب ورثاء بالغ اور حاضر ہوں اور کل مال سے حج بدل کی اجازت دے دیں تو کل مال سے بھی اس صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء کی صوابدید اور رضامندی پر۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی اس کا حج قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔

حج بدل کے سلسلہ میں اشکالات کے جوابات

س..... ہمارے ہاں عام طور پر حج بدل سے جو ممنوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج بدل اس میت کی طرف سے ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اتنا مال جمع تھا کہ جس کی بنا پر وہ باسنانی حج کر سکتا ہو۔ اس نے حج کا ارادہ بھی کر لیا لیکن حج سے پہلے ہی اسے موت نے آن گھیرا۔ اب اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کوئی عزیز یا بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے اسی طرح زندوں کی طرف سے حج بدل کا یہ ممنوم پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیلری یا بڑھلپے کی اس حالت میں پہنچ چکا ہو جس کی بنا پر چلنے پھرنے یا سواری کرنے سے معذور ہے، تو وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو یا کسی قریبی عزیز کو پورا خرچہ دے کر حج کے لئے روانہ کرے۔ اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ حج بدل کرنے والا شخص وہاں سے ہی آئے جنہاں پر حج بدل کروانے والا شخص رہ رہا ہے۔

اس تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جو تعفیہ طلب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والا ایک شخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ حج کر سکے یا یوں کہہ

لیجئے کہ اس کے لوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عمدہ بر آ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور سرمایہ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس کی موت سے عرصہ ۲۰ سال کے بعد اس کی اولاد اس قاتل ہو جاتی ہے اور اس میں اتنی استطاعت بھی ہے کہ ہر فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنا حج بھی کر سکے اور اپنے باپ کا بھی۔ تو اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولاد کی طرف سے اپنے باپ کے لئے کیا جانے والا یہ حج، حج بدل ہو سکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ اپنی موت کے وقت اس قاتل نہیں تھا کہ حج کر سکے) اور کیونکہ حج بدل کے لئے یہ دلیل مستحکم سمجھی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے موت سے پہلے اس پر حج فرض ہو چکا ہو تو کیا مذکورہ بلا شخص اپنے باپ کی طرف سے حج نہیں کر سکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ پر حج فرض نہیں تھا۔

اب زندوں کی طرف آئیے، زندوں کی طرف سے بھی حج بدل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود اس قاتل نہ ہو کہ حج کر سکے۔ یعنی سرمایہ ہونے کے باوجود جسمانی معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تو وہ حج کا خرچہ دے کر اپنی کسی اولاد یا اپنے کسی عزیز کو حج بدل کروانے بھیج سکتا ہے۔ اب اگر باپ کے پاس سرمایہ نہ ہو، جسمانی طور پر معذور بھی ہو، یعنی اس پر حج کی فرضیت لازم نہیں آتی تو اس کا بیٹا جو کہ اس سے الگ رہتا ہو (یہ ذہن میں رہے کہ ناچلتی کی بنا پر الگ نہیں رہتا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے الگ رہنے پر مجبور ہے) صاحب استطاعت ہے، خود حج کر چکا ہے تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہے؟ جناب اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا باپ کام کاج نہیں کرتا (جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے کہ بیٹا کسی قاتل ہو جائے تو احرام کے پیش نظر وہ باپ کو کام کرنے نہیں دیتا) جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں۔ تو کیا وہ اپنے بیٹے کے خرچ سے حج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ حج میں ان کا سرمایہ بالکل نہیں لگے گا۔

اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بیٹے کے خرچے سے ماں باپ کا حج ہو گا کہ نہیں؟ برائے میرانی ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر مجھے ذہنی پریشانی سے نجات دلائیں۔ نیز یہ کہ اولاد صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زندہ یا مردہ ماں باپ کی طرف سے حج بدل نہ کرے تو اس پر کوئی گنہگار ہو گا کہ نہیں؟ یہ بھی کہ ”عمرہ بدل“ کی بھی کیا وہی شرائط ہیں جو حج بدل کی ہیں؟

ج..... جس زندہ یا مردہ پر حج فرض نہیں، اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے۔ مگر یہ نقلی

حج ہو گا۔

۲..... اگر باپ کے پاس رقم نہ ہو اور بیٹا اس کو حج کی رقم دے دے تو اس رقم کا مالک بنتے ہی۔ بشرطیکہ اس پر کوئی قرض نہ ہو، اس پر حج فرض ہو جائے گا۔

۳..... اولاد کے ذمہ ماں باپ کو حج کرانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو تو ماں باپ کو حج کرانا بڑی سعادت ہے۔

۴..... اگر ماں باپ نادار ہیں اور ان پر حج فرض نہ ہو تو اولاد کا ان کی طرف سے حج بدل کرنا ضروری نہیں۔

۵..... عمرہ بدل نہیں ہوتا۔ البتہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا صحیح ہے۔ زندہ کی طرف سے بھی اور مرحوم کی طرف سے بھی۔ اس کا ثواب ان کو ملے گا جن کی طرف سے ادا کیا جائے۔

مجبوری کی وجہ سے حج بدل

س..... میں دل کا مریض ہوں۔ عرصہ سے بیت اللہ کی زیارت کی خواہش ہے۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی ہے، کمزوری بے حد ہے اور میری عمر ۶۵ سال ہے، خونی بوا سیر بھی ہے۔ چند وجوہات سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی حالت کی مجبوری کے باعث اپنے عزیز کو حج بدل کے لئے بھیج رہا ہوں، کیا میرے ثواب میں کمی ہوگی؟ کیا میری آرزو کے مطابق مجھے ثواب حاصل ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ حج پر جانے سے پیشتر جو فرض واجب ہوتے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میرے ذمہ بھی فرض ہے یا نہیں مثلاً رشتے داروں سے ملنا، کما سنا معاف کرانا وغیرہ اور دیگر شرعی کیا فرائض میرے اوپر واجب ہوتے ہیں حج..... اگر آپ خود جانے سے معذور ہیں تو کسی کو حج بدل پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا حج ہو جائے گا۔ کما سنا معاف کرانا ہی چاہئے۔

بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج

س..... اگر زید کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہوں تو زید بغیر اپنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے حج و عمرہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے، تو وہ حج کے تینوں اقسام میں سے کون سا حج ادا کرے گا؟

حج..... اگر والدین کے ذمہ حج فرض تھا اور انہوں نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی تو اگر زید ان کی طرف سے حج کرا دے یا خود کرے تو امید ہے کہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تینوں اقسام میں سے جو حج بھی کر لے صحیح ہے۔

س..... مذکورہ ”عازم“ حج سے پہلے عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے یا صرف حج ہی ادا کرے گا؟ حج..... بغیر وصیت کے جو حج کیا جا رہا ہے اس سے پہلے عمرہ بھی کر سکتا ہے۔

س..... اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، یعنی صاحب استطاعت نہیں تھے۔ بیٹا صاحب استطاعت ہے تو والدین کیلئے حج و عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو حج فرض ہو گا یا نفلی؟

حج..... حج کر سکتا ہے لیکن یہ نفلی حج ہو گا۔

والدہ کا حج بدل

س..... میری والدہ محترمہ کا انتقال گزشتہ سال ہو گیا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ جبکہ میں نے اس سے قبل حج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف سے حج کرنا پڑے گا یا پہلے صرف والدہ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟

حج..... بہتر یہ ہے کہ حج بدل ایسا شخص کرے جس نے اپنا حج کیا ہو۔ جس نے اپنا حج نہ کیا، اس کا حج بدل پر جانا مکروہ ہے۔

معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹا کس طرح حج بدل کرے

س..... دس سال قبل میرے بیٹے متعینہ جدہ نے مجھے اپنے ساتھ کراچی سے لے جا کر عمرہ کرا دیا تھا۔ ہنوز حج کی سعادت سے محروم ہوں۔ بیٹے نے بارہ چودہ حج کئے ہیں۔ اگر وہ ایک حج مجھے بخش دے تو کیا میری طرف سے وہ حج ہو جائے گا؟ میری عمر ۸۷ سال ہے دوسرا بیٹا بھی دو تین حج کر چکا ہے۔ جدہ میں ملازم ہے۔ کراچی رخصت پر آنے کا ادا وہ ہے واپسی پر کراچی سے جدہ پہنچ کر ایام حج میں وہ میری طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟ چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ حج بدل کیلئے بہتر ہے کہ وہ اپنا حج

کر چکا ہو اور پھر اسی مقام یعنی کراچی سے ہی سفر کر کے جہہ پہنچے اور حج بدل کرے۔ میں چلنے پھرنے کے قتل نہیں رہا ہوں۔

ج..... اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج بدل کیلئے کسی کو کراچی سے بھیجنا ضروری ہے۔ خواہ آپ کا بیٹا جائے یا کوئی اور۔ اور اگر حج آپ پر فرض نہیں تو آپ کا بیٹا جہہ سے بھی آپ کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اور وہ اپنا ایک حج آپ کو بخش دے تب بھی آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو پھر ادا شدہ حج کے ثواب بخشنے سے وہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بیٹا جو کراچی سے جہہ جدا ہے اگر وہ آپ کے خرچے سے یہاں سے احرام باندھ کر آپ کی طرف سے حج کی نیت کر کے حج کے مہینوں میں جائے اور حج ادا کر لے تو آپ کا حج بدل عذر کی وجہ سے ادا ہو جائے گا۔

دادا کی طرف سے حج بدل

س..... میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے حج کے فلام بھر دیئے تھے اور ان کا نمبر بھی آگیا تھا لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یعنی میری دادی کو کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم حج پر چلی جانا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری دادی عدت کے دوران جاسکتی ہے؟

ج..... آپ کی دادی صاحبہ کو عدت کے دوران حج پر جانا ہائز نہیں۔ عدت کے بعد اگر محرم کے ساتھ جاسکتی ہو تو جائے اور اگر کوئی محرم ساتھ جانے والا نہیں تو حج بدل کی وصیت کر دے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ کی دادی صاحبہ پر حج فرض ہو اور اگر آپ کے دادا جان نے مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے حج بدل کر دانا لازم ہے، خواہ خود جائیں یا کسی اور کو بھیجیں۔

بیوی کی طرف سے حج بدل

س..... میری امی کو حج کا بڑا ارمان تھا۔ (اللہ انہیں جنت نصیب کرے) اب اس سال میرا ارادہ حج کرنے کا ہے انشاء اللہ۔ تو کیا میں یہ نیت کر لوں کہ اس کا ثواب میرے ساتھ ساتھ میری امی کو بھی پہنچے؟ اس کے لئے کیا نیت کروں؟ نیز میرے ساتھ ابو جائیں گے جنہوں نے پہلے ہی سے حج کیا ہوا ہے تو کیا وہ حج بدل کی نیت (امی کے لئے) کر سکتے ہیں؟

ج..... آپ اپنی طرف سے حج کریں اور ان کی طرف سے عمرہ کر دیں۔ آپ کے والد

صاحب ان کی طرف سے حج بدل کر دیں تو ان کی طرف سے حج ہو جائے گا۔

سرکی جگہ حج بدل

س..... کیا داماد اپنے سرکی جگہ حج بدل کر سکتا ہے؟ جبکہ سر بیہدی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ ویسے وہ صاحب حیثیت ہے اور اس کا لڑکا بھی صاحب حیثیت ہے۔
ج..... خسر کے حکم سے داماد حج بدل کر سکتا ہے۔

ایسی عورت کا حج بدل جس پر حج فرض نہیں تھا

س..... میری پھوپھی مرحومہ (جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا اور ان کا کوئی حق میں ادا نہ کر سکا۔ کیونکہ جب اس قابل ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔) کے مالی حالات اور دیگر حالات کی بنا پر ان پر حج فرض نہیں تھا۔ کیا میں ان کے ایصال ثواب کے لئے ان کی طرف سے کسی خاتون کو ہی حج بدل کروا سکتا ہوں؟ کیا یہ حج کوئی مرد بھی کر سکتا ہے؟

ج..... آپ مرحومہ کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، مگر چونکہ آپ کی پھوپھی پر حج فرض نہیں تھا، نہ ان کی طرف سے وصیت تھی اس لئے ان کی طرف سے آپ جو حج کر آئیں گے وہ نفل ہو گا۔

۲۔ کسی خاتون کی طرف سے حج بدل کرانا ہو تو ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی حج بدل کرے۔ عورت کی طرف سے مرد بھی حج بدل کر سکتا ہے اور مرد کی طرف سے عورت بھی کر سکتی ہے۔

اپنا حج نہ کرنے والے کا حج بدل پر جانا

س..... میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم اپنے والد کا حج بدل کرانا چاہتے ہیں۔ ہم جس آدمی کو حج بدل کرانا چاہ رہے ہیں اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے۔ کیا ہم اس شخص سے حج بدل کر سکتے ہیں، جس نے اپنا حج نہیں کیا؟ یا حج بدل کیلئے پہلے اپنا حج کرنا لازمی ہے یا کوئی اور صورت ہو حج بدل کرانے کی؟ اس کا تفصیلی جواب دیں۔

ج..... جس شخص نے اپنا حج نہ کیا ہو اس کا حج بدن پر جانا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ

ہے۔ تاہم اگر چلا جائے تو حج بدل ادا ہو جائے گا۔

س..... دو بھائی ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ دونوں بھائی الگ الگ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جن میں ایک بھائی امیر ہے اور دوسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ (ماں) کے ساتھ حج کر چکا ہے اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا حج بدل کروانا چاہتا ہے۔ بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بد بھی حج نہیں کیا ہے چھوٹا بھائی اپنے پیسے (رقم) سے اپنے بڑے بھائی کو مرحوم والد کے نام سے حج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک حج نہیں کیا ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کے نام پر حج بدل کر سکتا ہے؟

ج..... جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر بھیجنا مکروہ تزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے۔

س..... دوسروں کے پیسے (رقم) سے حج بدل کیا جاسکتا ہے؟

ج..... وہ حج بدل جو بغیر وصیت میت کے ہو جس کو عوام حج بدل کہتے ہیں جیسے کہ سوال میں مذکور ہے دوسروں کے پیسے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

س..... بڑا بھائی جو کہ حج بدل کر کے واپس آئے، وہ ”حاجی“ کہلائے گا؟

ج..... جی ہاں! اپنے حج کے بغیر ”حاجی“ کہلائے گا۔

حج بدل کوئی بھی کر سکتا ہے غریب ہو یا امیر

س..... حج بدل کا کیا طریقہ ہے؟ کون شخص حج بدل کے لئے جاسکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کو حج بدل پر نہیں بھیجنا چاہئے کیونکہ غریب آدمی پر حج فرض ہی نہیں ہوتا تو حج بدل کے لئے بھی نہیں جاسکتا۔ امیر کا بھیجنا بہتر ہے یا غریب کا؟

ج..... جس شخص نے اپنا حج نہیں کیا ہے اس کو حج بدل کے لئے بھیجنے سے حج بدل ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے شخص کو حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے، لہذا ایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو، خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔ غریب یا امیر کی بحث اس مسئلہ میں نہیں ہے۔

نابالغ حج بدل نہیں کر سکتا

س..... میرے لڑکے کی عمر ۱۳ سال ہے۔ کیا یہ اپنے باپ کا حج بدل کر سکتا ہے؟

حج..... نابالغ حج بدل نہیں کر سکتا۔

حج بدل میں قربانی لازم ہے یا نہیں

س..... حج بدل میں قربانی لازم ہے یا نہیں؟

حج..... قربانی تمتع اور قرآن میں واجب ہوتی ہے۔ حج مفرد میں قربانی لازم نہیں۔ کسی جنائیت (غلطی) کی وجہ سے لازم ہو جائے تو دوسری بات ہے۔

حج کی تین قسمیں ہیں۔ مفرد، قرآن، تمتع۔

حج مفرد۔ حج مفرد یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے۔

اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ باندھا جائے۔ حج سے فدرغ ہونے تک یہ احرام رہے گا۔

حج قرآن۔ حج قرآن یہ ہے کہ میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا جائے۔ مکہ

مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کے ارکان ادا کئے جائیں، اس کے بعد حج کے ارکان ادا کر کے دس ذوالحجہ کو رومی اور قربانی سے فدرغ ہو کر احرام کھولا جائے۔

حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ حج کے موسم میں میقات سے گزرتے وقت صرف عمرہ کا احرام

باندھا جائے اور اس کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ پھر ۸ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ

کر حج کے ارکان ادا کئے جائیں اور دس ذوالحجہ کو رومی اور قربانی کے بعد حج کا احرام کھولا جائے۔

حج بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں

س..... حج بدل کرنے والا اگر قربانی کرتا ہے تو ایک کرے یا دو؟ یعنی آمر اور ماسور دونوں کی طرف سے؟

س..... ہم لوگ نقلی حج بدل کرتے ہیں۔ اس صورت میں قربانی کریں یا نہ کریں؟ اگر کریں تو کس طرح؟

س..... جو لوگ پاکستان یا دیگر ملکوں سے آکر حج بدل کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں پھر احرام

کھول کر دوبارہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ان کے بدلے میں تفصیل سے تحریر کریں

حج..... حج بدل کرنے والے کو حج مفرد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا چاہئے۔ اور حج

مفرد میں حج کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ اس لئے آمر کی طرف سے قربانی کی ضرورت

نہیں۔ مامور اگر مقیم اور صاحب استطاعت ہو تو اپنی طرف سے (عام قربانی) کرے

اور مسافر اور غیر مستطیع پر عام قربانی واجب نہیں۔

۲..... اس کا مسئلہ بھی وہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔

۳..... جیسا کہ اوپر لکھا گیا، حج بدل کرنے والوں کو حج مفرد یعنی صرف حج کا احرام

باندھنا چاہئے۔ اگر وہ تمتع کریں (یعنی میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں اور

عمرہ سے فداغ ہونے کے بعد پھر آٹھ ذوالحجہ کو حج احرام باندھیں) تو تمتع کی قربانی خود

ان کے مال سے لازم ہے۔ آمر کے مال سے نہیں۔ لہذا یہ کہ آمر نے اس کی اجازت

دے دی ہو تو اس کے مال سے قربانی کر سکتے ہیں۔

بغیر محرم کے حج

محرم کے کتے ہیں

ان..... ایک میں بیوی اکٹھے حج کے لئے جا رہے ہیں، میں مرد صلح و پرہیز گار ہے۔ بیوی کی ایک رشتہ دار عورت ان میں بیوی کے ہمراہ حج کے لئے جانا چاہتی ہے اور وہ رشتہ دار عورت ایسی ہے جس کا نکاح بیوی کی زندگی میں یا دور ان نکاح اس کے میں سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی سگی بہن۔

حج..... محرم وہ ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے۔ بیوی کی بہن، بھانجی اور بھتیجی شوہر کے لئے نامحرم ہیں ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔

عورتوں کیلئے حج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر حج

س..... ایک لڑکی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کیا۔ کیا یہ اس کا محرم ہے؟ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر عورتوں کیلئے حج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟

حج..... کرا، اجنبی آدمی کو بھائی بنانے سے وہ محرم نہیں بن جاتا اس لئے نکاح جائز ہے۔ میں شریعی مسئلہ بتاتا ہوں ”کیوں“ کا جواب نہیں دیا کرتا۔ مگر آپ کے اطمینان کیلئے لکھتا ہوں کہ بغیر محرم کے عورت کو تین دن یا اس سے زیادہ کے سفر کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ کیونکہ ایسے طویل سفر میں اس کا اپنی عزت و عصمت کو بچانا ایک مستقل مسئلہ ہے اور اس ناکلہ کے علم میں ہے کہ بعض عورتیں محرم کے بغیر حج پر گئیں اور گندگی میں

جتلا ہو کر واپس آئیں۔ علاوہ ازیں ایسے طویل سفر میں حوادث پیش آسکتے ہیں اور عورت کو اٹھانے، بٹھانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہو گا تو عورت کے لئے یہ دشواریاں پیش آئیں گی۔

عورت کو عمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں لیکن عمرہ ادا ہو جائے گا

س..... میں عمرہ کے ارادے سے نکلنا چاہتی ہوں، ایئرپورٹ تک میرے شوہر ساتھ ہیں، جدہ ایئرپورٹ پر میرے بھائی موجود ہیں، پھر ان کے ساتھ عمرہ ادا کرتی ہوں، پھر جدہ سے بھائی جہاز میں سوار کرادیتے ہیں، یہاں پر شوہر اتار لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں عمرہ ادا ہو جائے گا؟
ج..... عمرہ ادا ہو جاتا ہے مگر آپ کا ہوائی جہاز کا تنہا سفر کرنا جائز نہیں۔

کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر

س..... اگر کوئی عورت حج کیلئے مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتی ہو جبکہ اس کا محرم ساتھ نہیں آسکتا مگر یہ کہ کراچی سے سوار کرا سکتا ہے جبکہ اس عورت کا بھائی جدہ ایئرپورٹ پر موجود ہے ایسی عورت کے بدلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
ج..... کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

بغیر محرم کے حج کا سفر

س..... بغیر محرم کے حج کیلئے جانے کے بدلے میں مشروع حکم کیا ہے؟ محرم کے بغیر عورت کا حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حکومت وقت نے حج کی درخواستیں قبول کرنے کے لئے عورت کیلئے محرم کا نام وپتہ وغیرہ لکھنے کی ضروری شرط عائد کر رکھی ہے جو عورتیں غیر محرم کو محرم دکھا کر حج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟
ج..... محرم کے بغیر حج کا سفر جائز نہیں اور نامحرم کو محرم دکھا کر حج کا سفر کرنا دہرا گناہ ہے۔

حج کیلئے غیر محرم کو محرم بنانا گناہ ہے

س..... ایک خاتون جو دو مرتبہ حج کر چکی ہیں اور جن کی عمر بھی ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی

ہے۔ تیسری مرتبہ حج بدل کی نیت سے جانا چاہتی ہیں، اس صورت میں گروپ لیڈر کو جو شرعی محرم نہیں ہے، اس کو اپنا محرم قرار دے کر جبکہ اسی گروپ میں پندرہ بیس دیگر خواتین بھی گروپ لیڈر ہی کو محرم بنا کر (جو ان کا شرعی محرم نہیں ہے) حج پر جلد ہی ہیں۔ ایسی خواتین کا حج درست ہو گا یا نہیں؟

ج..... محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں۔ گوج ادا ہو جائے گا لیکن جھوٹ اور بغیر محرم کے سفر کا گناہ سر پر رہے گا۔

عورت کو محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں

س..... میں حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنا حج کا خرچہ اٹھا سکوں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ میرے چل بیٹے ہیں جن میں دو شادی شدہ ہیں اور اپنی کلر و بڈی اور گھریلو زندگی میں مصروف ہیں اور ایک گورنمنٹ سروس میں ہے جنہیں چھٹی ملنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اور چوتھا بیٹا بھی تیرہ سال کا ہے اور قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ کیا میں گروپ کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہوں یا اور کوئی طریقہ ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر مشکور و ممنون فرمائیں۔

ج..... عورت کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا جائز نہیں۔ آپ کے صاحب زادوں کو چاہئے کہ ان میں سے کوئی اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے آپ کے ساتھ حج پر جائے۔ کل تیس پینتیس دن تو خرچ ہوتے ہیں۔ آپ کے صاحب زادوں کیلئے آپ کے حج کی خاطر اتنی قربانی دینا کیا مشکل ہے۔

بغیر محرم کے حج

س..... میرے والد صاحب کا انتقال ۱۹۷۶ء میں ہوا۔ میں گھر کا بڑا فرد ہوں، ان کی وفات کے بعد میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں جو کہ کلنی تھیں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے میں نے اس عرصے میں والد صاحب کی وفات کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، سابقہ سال میں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دی ہے، اب مجھ پر کوئی ایسی ذمہ داری نہ تھی اور نہ ہی ہے۔ میری والدہ صاحبہ جو کہ کراچی میں مقیم ہیں، اس سال حج اسکیم کے تحت لوگ حج پر جا رہے تھے تو میرے دوست اور ان کی والدہ بھی جلد ہی تھیں، انہوں نے ڈرافٹ بنوایا جو کہ کل ۲۵۱۲۰ روپیہ فی فرد

کے حساب سے ہوتی ہے میں نے اپنی والدہ کے لئے حج ڈرافٹ بنوایا اور ان کے ساتھ ہی ارسال کر دیا جو کہ تینوں ڈرافٹ لیک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ سے منظوری بھی آگئی ہے کہ حج پر جاسکتی ہیں جبکہ والدہ اور جن کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ صاحب دین دار ہیں یعنی نماز وغیرہ کے کھل پابند ہیں، میں گورنمنٹ ملازم ہوں کیونکہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹی مل جانے پر میں یہاں ریاض سے کلر کے ذریعے جاسکوں گا اور جدہ ایئرپورٹ پر ان سے ملاقات کر لوں اور ساتھ حج بھی کر لوں، لیکن میں نے ایک دن نماز کے بعد پیش امام صاحب سے پوچھا جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حنفی مذہب میں بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہیں، حج تو بہت دور رہا۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کیا میری والدہ کا حج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں دوسرے عالم جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے جبکہ ان کی تاریخ پیدائش ۱۹۳۶ء ہے جو کہ عمر ۵۸ سال بنتی ہے۔ میں نے یوں بھی کوشش کی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور حالات بھی کل کیا ہوں، کل سروس رہے یا نہ رہے، اس وقت میرے حالات اچھے ہیں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کو حج کرا دوں اور یہی دعا کرتا ہوں اور کرتا تھا کہ تمام بہنوں اور بھائیوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو پھر والدہ کو حج بھی کرا دوں گا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں۔ خدا تعالیٰ میری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دے تو اچھا ہے، بہر حال مجھے جواب دیں تو میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں گا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔

حج..... حنفی مذہب میں عورت کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا جائز نہیں۔ لیکن اگر چلی جائے گی تو حج ہو جائے گا گو تم سفر کرنے کا گناہ ہو گا۔ شافعی مذہب میں بھروسے کی عورتوں کے ساتھ عورت کا حج پر جانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی مذہب کے ہوں گے۔

محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیا لیکن گنہگار ہوگی

س..... ہمارے ایک دوست کی بوڑھی عبادت گزار نانی بغیر محرم کے بغرض ادائے فریضہ حج بذریعہ ہوائی جہاز کراچی سے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کراچی سے جدہ تک کا سفر بغیر محرم کے قہل قبول ہے یا اس طرح حج نہیں ہو گا یا اس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محترمہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی ان کا شوہر حیات ہے اور ان کو حج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام

میں اس کیلئے کوئی رعایت ہے؟ نیز ہزاروں عورتیں جن کا کوئی محرم نہیں ہوتا کیا وہ حج نہ کریں؟

ج..... بغیر محرم کے عورت اگر جائے توج تو اس کا ہو جائے گا مگر سفر کرنا بغیر محرم کے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں تو اس ناجائز سفر کا گناہ الگ ہو گا۔ مگر چونکہ بوڑھی املاں کا سفر زیادہ فتنہ کا موجب نہیں، اس لئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو رعایت مل جائے، تاہم انہیں اس ناجائز سفر کرنے پر خدا تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہئے۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ ہزاروں عورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا کیا وہ حج نہ کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک محرم میسر نہ ہو عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے نہ کریں اور اگر بہت ہی شوق ہے تو نکاح کر لیا کریں۔ میرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج پر گئی اور وہاں منہ کالا کر کے آئی۔ دیکھنے میں ماشاء اللہ ”حجین“ ہے لیکن اندر کی حقیقت یہ ہے۔ اس لئے خدا کے قانون کو محض اپنی رائے اور خواہش سے ٹھکرا دینا اور ایک پہلو پر نظر کر کے دوسرے سارے پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لینا دانشمندی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مذاق عام ہو گیا ہے۔

ضعیف عورت کا ضعیف نامحرم مرد کے ساتھ حج

س..... کیا ۵۰ سال، ۶۰ سال یا ۷۰ سال کی نامحرم عورت ۷۰ سال کے نامحرم مرد کے ساتھ حج، عمرہ کر سکتی ہے؟ اگر عمرہ عورت نے کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہو گا؟

ج..... نامحرم کے ساتھ حج و عمرہ کا سفر بوڑھی عورت کیلئے بھی جائز نہیں۔ اگر کر لیا تو حج کی فرضیت تو ادا ہو گئی لیکن گناہ ہوا۔ توبہ و استغفار کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔

ممانی کا بھانجے کے ساتھ حج کرنا

س..... مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ اس سال حج پر جانا چاہتی ہیں اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے پھوپھی زاد بھائی اپنی والدہ، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ جلد ہی ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں، میری والدہ رشتہ میں میرے پھوپھی زاد بھائی کی سگی ممانی ہوتی ہیں۔ شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ممانی بھی بھانجے کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہو سکتی ہے؟

ج..... مملی شرعاً محرم نہیں، اس لئے وہ شوہر کے حقیقی بھانجے کے ساتھ حج پر نہیں جاسکتی۔

بہنوئی کے ساتھ حج یا سفر کرنا

س..... اگر بہنوئی کے ساتھ حج یا کسی اور ایسے سفر پر جہاں محرم کے ساتھ جانا ہوتا ہے جاسکتے ہیں یا نہیں جبکہ بہن بھی ساتھ جا رہی ہو؟
ج..... بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً درست نہیں۔

س..... مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی حج کو جانا چاہتے ہوں تو کیا ان کے ہمراہ بیوی کی بہن بھی بطور محرم جاسکتی ہے؟ شرعی طور پر ایک بیوی کی موجودگی میں اس کی ہمشیرہ سے نکلح جائز نہیں، اس لحاظ سے تو سالی محرم ہی ہوتی۔ بہر حال اگر حکومت پاکستان اس مسئلہ کی وضاحت اخلاہوں میں شائع کرادے تو بہت سے لوگ ذہنی پریشانی سے بچ جائیں گے۔

ج..... محرم وہ ہے جس سے نکلح کسی حل میں بھی جائز نہ ہو۔ سالی محرم نہیں، چنانچہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو سالی کے ساتھ نکلح ہو سکتا ہے اور نا محرم کو ساتھ لے جانے سے حاجی مجرم بن جاتا ہے۔

جیٹھ یا دوسرے نا محرم کے ساتھ سفر حج

س..... الف و ب د بھائی ہیں۔ چھوٹے بھائی الف کی البیہ ب (شوہر کے بڑے بھائی) کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہے؟ شرعاً کیا حکم ہے؟
ج..... عورت کا جیٹھ نا محرم ہے اور نا محرم کے ساتھ سفر حج پر جانا جائز نہیں۔

شوہر کے سگے چچا کے ساتھ سفر حج کرنا

س..... میری بیوی میرے حقیقی چچا کے ساتھ میری رضامندی سے حج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کاغذات وغیرہ داخل کر دیئے ہیں، کیا میرے چچا کی حیثیت غیر محرم کی تو نہ ہو جائے گی؟
شرعاً ان کے ساتھ میری بیوی جاسکتی ہے یا نہیں؟

ج..... اگر آپ کی بیوی کی آپ کے چچا سے اور کوئی قربت نہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے نا محرم ہیں اور آپ کی بیوی کا اس کے ساتھ حج پر جانا جائز نہیں۔

عورت کا بیٹی کے سروساں کے ساتھ سفر حج

س..... میں اور میری بیوی کا اس سال حج پر جانے کا مقصد ارادہ ہے۔ میرے ہمراہ میرے سالے کی بیوی جو کہ میرے لڑکے کی ساس بھی ہے، وہ بھی حج پر جانا چاہتی ہے اور اس کی عمر ۶۰ سال ہے جبکہ میرے سالے کے انتقال کو دو سال گزر چکے ہیں۔ وہ بھند ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا میرا ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے حد خواہش ہے کہ دیار حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کر سکوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرا قدم بھی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کس صورت سے حج پر جاسکتی ہے؟

ج..... آپ اس کے محرم نہیں اور محرم کے بغیر سفر حج جائز نہیں۔ اگر چلی جائے گی توج ادا ہو جائے گا، مگر گنہگار ہوگی۔

بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج و عمرہ

س..... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حج نہیں کیا۔ کیا میں عمرہ کر سکتی ہوں؟ میری بہن کا دیور اس مرتبہ حج پر جا رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے کیونکہ مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جوان لڑکی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں جاسکتی۔ کیا میں اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہوں؟

ج..... بہن کا دیور محرم میں ہوتا۔ اور محرم کے بغیر حج یا عمرہ کے لئے جانا جائز نہیں۔

عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا

س..... نا محرم کے ساتھ حج پر جانا کیسا ہے؟ اگر عورت بغیر محرم کے حج پر جائے یا کسی نا محرم کو محرم بنا کر اس کے ہمراہ جائے تو اس کا یہ عمل کیسا ہوگا؟ ہلری پھوپھی اس سال حج پر گئی ہیں انہوں نے حج کا سفر اپنے ایک منہ بولے بھائی کے ہمراہ کیا اور انہیں محرم ظاہر کیا، حالانکہ ان کے بیٹے بیٹیل بھی ہیں مگر وہ اکیلی منہ بولے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا منہ بولے بھائی کو محرم بنایا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکان حج ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا حج ہو گیا؟

ج..... عورت کا بغیر محرم کے سفر پر جانا گنہگار ہے۔ حج تو ہو جائے گا، لیکن عورت گنہگار ہوگی۔ منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا اس کو محرم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔

عورت کا ایسی عورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

س..... ایک خاتون بغرض حج جانا چاہتی ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی اور محرم کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کیا یہ خاتون کسی ایسے مرد کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو یا کسی ایسی خاتون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کا محرم ہو؟
ج..... عورت کے لئے محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں ہے اور نہ مذکورہ صورت کے تحت جانا جائز ہے۔

ملازم کو محرم بنا کر حج کرنا

س..... میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری بیوی حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی مصروفیت کی بنا پر بطور محرم اس کے ساتھ جانے سے قاصر ہوں۔ کیا میں اپنے ملازم کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر ملا ہوا ہے) محرم کی حیثیت سے اپنی بیوی کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟

ج..... محرم ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتہ کی وجہ سے نکل جائز نہیں ہوتا۔ جیسے عورت کا باپ، بھائی، بھتیجا، بھانجا۔ گھر کا ملازم محرم نہیں اور بغیر محرم کے حج پر جانا حرام ہے۔ آپ خود بھی گنہگار ہوں گے اور آپ کی بیگم اور وہ ملازم بھی۔

اگر عورت کو مرنے تک محرم حج کیلئے نہ ملے تو حج کی وصیت کرے

س..... ہمدی والدہ صاحبہ پر حج فرض ہو چکا ہے جبکہ ان کے ساتھ حج پر جانے کیلئے کوئی محرم نہیں ملتا۔ تو کیا اس صورت میں وہ کسی غیر محرم کے ساتھ حج کیلئے جاسکتی ہیں؟ نیز ان کی عمر تقریباً ۶۳ سال ہے۔

ج..... عورت بغیر محرم کے حج کیلئے نہیں جاسکتی۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر محرم میسر نہ ہو تو اس پر حج کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں نامحرم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، اگر چلی گئی تو حج تو ادا ہو جائے گا البتہ گنہگار ہوگی۔ اگر آخر حیات تک اسے جانے کیلئے محرم میسر نہ ہو تو اسے چاہئے کہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج بدل کرایا جائے۔

احرام باندھنے کے مسائل

غسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے خوشبو اور سرمہ استعمال کرنا

س..... کیا غسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے بدن پر اور احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتے ہیں؟ اور تیل اور سرمہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

ج..... احرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمہ لگانا جائز ہے۔ اور خوشبو لگانے میں یہ تفصیل ہے کہ بدن کو خوشبو لگانا تو مطلقاً جائز ہے اور کپڑوں کو ایسی خوشبو لگانا جائز ہے جس کا جسم باقی نہ رہے، اور جس خوشبو کا جسم باقی رہے، وہ کپڑوں کو لگانا ممنوع ہے۔

میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

س..... مکہ کی حدود سے پہلے جہاں میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم آگے داخل نہیں ہو سکتے، وہاں سے احرام باندھے یا تنعیم جا کر مسجد عائشہ سے احرام باندھے؟ میقات کے بورڈ اور تنعیم میں کیا فرق ہے؟

ج..... یہ میقات کا بورڈ نہیں، بلکہ حدود حرم کا بورڈ ہے،

تنعیم بھی حدود حرم سے باہر ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اہل مکہ مسجد تنعیم سے جو احرام باندھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے جو حد حرم سے باہر ہے۔ نیز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر آئی تھیں اور بعض حضرات عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے مکہ مکرمہ سے جعرانہ جاتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کے لئے تشریف

لائے تھے۔ اہل مکہ کے احرام عمرہ کے لئے ان دو جگہوں کی کوئی تخصیص نہیں، وہ حدود حرم سے باہر کیسے سے بھی احرام باندھ کر آجائیں، صحیح ہے۔

احرام کی حالت میں چہرے یا سر کا پسینہ صاف کرنا

س آیا احرام کی حالت میں چہرے یا سر کا پسینہ پونچھ سکتے ہیں، کپڑے سے یا ہاتھ سے؟

ج مکروہ ہے۔

س کیا احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا ملتزم پر کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟

ج حجر اسود یا ملتزم پر اگر خوشبو لگی ہو تو محرم کو اس کا چھونا جائز نہیں۔

سردی کی وجہ سے احرام کی حالت میں سوئٹر یا گرم چادر استعمال کرنا

س اگر مکہ مکرمہ میں سردی ہو اور کوئی آدمی عمرے کے لئے جائے تو وہ احرام کی دو چادروں کے علاوہ گرم کپڑا مثلاً سوئٹر وغیرہ یا گرم چادر استعمال کر سکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

ج گرم چادریں استعمال کر سکتا ہے مگر سر نہیں ڈھک سکتا اور جو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے بنائے جاتے ہیں جیسے جرابیں، ان کا استعمال جائز نہیں۔

عورتوں کا احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا

س میں نے سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا احرام چہرے میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہئے حالانکہ قرآن و حدیث میں عورت کو چہرہ کھولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے لہذا ایسی کیا صورت ہوگی جس سے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور چہرہ بھی ڈھکا رہے کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس کی کوئی صورت شریعت مطہرہ میں ضرور بتائی گئی ہوگی۔

ج یہ صحیح ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھکنا جائز نہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پردے کی چھوٹ ہوگئی، نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو پردہ

ضروری ہے یا تو سر پر کوئی چھچھاسا لگایا جائے اور اس کے اوپر سے کپڑا اس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہو جائے مگر کپڑا چہرے کو نہ لگے یا عورت ہاتھ میں پنکھا وغیرہ رکھے اور اسے چہرے کے آگے کر لیا کرے، اس میں شبہ نہیں کہ حج کے طویل اور پر ہجوم سفر میں عورت کے لئے پردہ کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے پردہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور جو اپنے بس سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔

عورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے اور وہ احرام کہاں سے باندھے

س..... مردوں کیلئے احرام دو چادروں کی شکل میں ہوتا ہے عورتوں کیلئے احرام کی کیا شکل ہوگی؟ اور کیا احرام مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے باندھنا ہوگا، جبکہ میں برقعہ کی حالت میں ہوں؟

ج..... مردوں کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں۔ اس لئے وہ احرام باندھنے سے پہلے دو چادریں پہن لیتے ہیں، عورتوں کو احرام باندھنے کیلئے کسی خاص قسم کا لباس پہننا لازم نہیں۔ اس لئے وہ معمول کے کپڑوں میں احرام باندھ لیتی ہیں البتہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے، اس لئے احرام کی حالت میں وہ چہرے کو اس طرح نہ ڈھکیں کہ کپڑا ان کے چہرے کو لگے۔ مگر نامحرموں سے چہرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے ان کو چاہئے کہ سر پر کوئی چیز ایسی باندھ لیں جو چھجھک کی طرح آگے کو بڑھی ہوئی ہو۔ اس پر نقاب ڈال لیں تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ حج کا احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، گھر سے باندھنا ضروری نہیں۔

عورت کا احرام کے اوپر سے سر کا مسح کرنا غلط ہے

س..... آج کل دیکھا ہے کہ عورتیں جو احرام باندھتی ہیں تو بال بالکل ڈھک جاتے ہیں اور اس کا سر سے بال بدلتا عورتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے تو آیا سر کا مسح اسی کپڑے کے اوپر ٹھیک ہے یا نہیں؟

ج..... عورتیں جو سر پر رومالی باندھتی ہیں شرعاً اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ رومالی صرف اس لئے پابندی جاتی ہے کہ بال بکھریں اور ٹوٹیں نہیں۔ عورتوں کو اس رومالی پر مسح کرنا

صحیح نہیں۔ بلکہ روملی اتار کر سر پر مسح کرنا لازم ہے۔ اگر روملی پر مسح کیا اور سر پر مسح نہیں کیا تو نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ عمرہ۔ کیونکہ یہ افعال بغیر وضو جائز نہیں اور سر پر مسح کرنا فرض ہے بغیر مسح کے وضو نہیں ہوتا ہے۔

عورت کا ماہواری کی حالت میں احرام باندھنا

س..... جبہ روانگی سے قبل ماہواری کی حالت میں احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟
ج..... حیض کی حالت میں عورت احرام باندھ سکتی ہے، بغیر دو گانہ پڑھے حج یا عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے۔

حج میں پردہ

س..... آج کل لوگ حج پر جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے۔ حالت احرام میں یہ جو اتڑیا جاتا ہے کہ اگر پردہ کرایا جائے تو منہ کے اوپر کپڑا لگے گا تو اس کے لئے کیا کیا جائے؟

ج..... پردہ کا اہتمام توجح کے موقع پر بھی ہونا چاہئے۔ احرام کی حالت میں عورت پیشانی سے اوپر کوئی چھجا سالگئے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے کو لگے بھی نہیں۔

طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے

س..... حج یا عمرہ میں احرام باندھتے ہیں۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھتے ہیں۔ اس کیلئے شرعی مسئلہ کیا ہے؟

ج..... شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کے جس طواف کے بعد صفا عمرہ کی سعی ہو اس طواف میں رمل اور اضطباع کیا جائے، رمل سے مراد ہے پہلو انوں کی طرح کندھے ہلا کر تیز تیز چلنا اور اضطباع سے مراد داہنا کندھا کھولنا ہے۔ ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے۔

ایک احرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں

س..... خدائے بزرگ و برتر کے فضل و کرم سے میں اس سال حج و زیارت کے لئے جاؤں گا۔

قیام مکہ معظمہ کے دوران میں اپنے والدین کی جانب سے پانچ عمرے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان عمروں کے لئے حدود حرم کے باہر تنعیم یا جعرانہ جا کر نفلی عمرہ کا احرام باندھا جائے گا۔ کیا پانچ مرتبہ یعنی ہر عمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ یا ایک مرتبہ احرام باندھ کر ایک دن میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جائے یا اسی احرام میں ایک دن میں دو یا تین مرتبہ عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

ج..... ہر عمرے کا الگ احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام باندھ کر طواف وسعی کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر تنعیم یا جعرانہ جا کر دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ ایک احرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمرے نہیں ہو سکتے اور عمرہ (یعنی طواف اور سعی) کرنے کے بعد جب تک بل اتد کر احرام نہ کھولا جائے، دوسرے عمرے کا احرام باندھنا بھی جائز نہیں۔

عمرہ کا احرام کہاں سے باندھا جائے

س..... عمرہ کیلئے احرام باندھنے کا مسئلہ دریافت طلب ہے۔ ایک معتبر کتاب میں ”حج اور عمرہ کافرک“ کے عنوان سے تحریر ہے کہ عمرہ کا احرام سب کیلئے ”حل“ (حدود حرم سے باہر کی جگہ) سے ہے البتہ اگر آفتلی باہر سے ”بارادہ حج“ آئے تو اپنے میقات سے احرام باندھنا ہوگا۔

الف:- اگر کوئی شخص ”بارادہ حج“ نہیں بلکہ صرف عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور بلوجود آفتلی ہونے کے حدود حرم سے باہر مثلاً جدہ میں احرام باندھ سکتا ہے یا نہیں؟
ب:- جدہ میں ایک دو یوم قیام کرنے کے بعد عازم عمرہ ہو تو اس پر ”اہل حل“ کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟

ج..... جو شخص بیرون ”حل“ سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں بلکہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنا اس پر لازم ہے۔ اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کر میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر واپس نہ لوٹا تو دم لازم ہوگا۔ جو شخص مکہ مکرمہ کے قصد سے گھر سے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دو روز ٹھہرنا لائق اعتبار نہیں اور وہ اس کی وجہ سے ”اہل حل“ میں شلد نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا ہی تھا وہاں پہنچ کر مکہ مکرمہ جانے کا قصد ہوا تو اس پر ”اہل حل“ کا اطلاق ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کیلئے چند اصطلاحات ذہن میں رکھیے

میقات :- مکہ مکرمہ کے اطراف میں چند جگہیں مقرر ہیں۔ باہر سے مکہ مکرمہ جانے والے شخص کو ان جگہوں سے احرام باندھنا لازم ہے۔ اور بغیر احرام کے ان سے آگے بڑھنا ممنوع ہے۔

آفتاب :- جو شخص میقات سے باہر رہتا ہو۔

حرم :- مکہ مکرمہ کی حدود، جہاں شکل کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ ممنوع ہے۔

حل :- حرم سے باہر اور میقات کے اندر کا حصہ ”حل“ کہلاتا ہے۔

مکی، حج یا عمرہ کا احرام کہاں سے باندھے گا

س..... ہم مکہ مکرمہ کی حدود میقات کے اندر مقیم ہیں۔ ہم فریضہ حج یا عمرہ کے لئے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ سکتے ہیں یا میقات جانا ہوگا؟

ج..... جو لوگ میقات اور حدود حرم کے درمیان رہتے ہیں ان کے لئے حل میقات ہے۔ وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ میں یا حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ حج کا احرام حدود حرم کے اندر سے باندھیں اور عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر نکل کر حل سے باندھیں۔ چنانچہ اہل مکہ حج کا احرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے تنعیم مسجد عائشہ جاتے ہیں یا جعرانہ جاتے ہیں۔ نوٹ۔ میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر کے علاقہ کو ”حل“ کہا جاتا ہے۔

عمرہ کرنے والا شخص احرام کہاں سے باندھے

س..... عمرہ کے لئے گھر سے احرام باندھنا فرض ہے یا جدہ جا کر؟

ج..... میقات سے پہلے فرض ہے۔ سفر ہوائی جہاز سے ہو تو ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیا جائے۔ جدہ تک احرام کے مؤخر کرنے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ احتیاط کی بات یہی ہے کہ احرام کو جدہ تک مؤخر نہ کیا جائے۔

ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا احرام کہاں سے باندھے

س..... ریاض سے جب عمرہ یا حج ادا کرنے کیلئے بذریعہ ہوائی جہاز جدہ جاتے ہیں تو دوران سفر ہوائی جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئی ہے، احرام باندھ لیں۔ بعض لوگ جہاز میں ہی

وضو کر کے احرام باندھ لیتے ہیں جبکہ بعض لوگ جدہ میں اتر کر ایئرپورٹ پر غسل یا وضو کر کے احرام باندھتے ہیں اور احرام کے نفل پڑھ کر پھر مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو راستے میں بھی میقات آتی ہیں، جن لوگوں نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا تھا وہ جدہ والی میقات پر احرام باندھ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جو میقات آنے کا اعلان ہوتا ہے وہاں اگر احرام نہ باندھا جائے تو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ جہاز تو مکہ مکرمہ کے بجائے جدہ جائے گا، بہت سے لوگ اس شبہ میں رہتے ہیں کہ احرام ضروری جہاز میں ہی باندھنا چاہئے، میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرنا چاہئے جبکہ جہاز میں احرام کے نفل بھی نہیں پڑھے جاسکتے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں۔

ج..... ایسے لوگ جو میقات سے گزر کر جدہ آتے ہیں، ان کو میقات سے پہلے احرام باندھنا چاہئے۔ احرام باندھنے کیلئے نفل پڑھنا سنت ہے، اگر موقع نہ ہو تو نفلوں کے بغیر بھی احرام باندھنا صحیح ہے۔ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستہ میں کوئی میقات نہیں آتی البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جدہ میقات کے اندر ہے یا خود میقات ہے۔ جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہوں ان کو چاہئے کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں یا کم از کم چادر ہی پہن لیں اور جب میقات کا اعلان ہو تو جہاز میں احرام باندھ لیں، جدہ پہنچنے کا انتظار نہ کریں۔

بحری جہاز کے ملازمین اگر حج کرنا چاہیں تو کہاں سے احرام باندھیں گے

س..... بحری جہاز کے ملازمین جن کو حج کیلئے اجازت ملتی ہے، یسلمہ کی پہاڑی (میقات) کو عبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے احرام باندھنے سے معذور ہوتے ہیں۔

۱۔ اگر ملازمین حج (جہاز کے ملازمین) کی نیت پہلے سے مکہ مکرمہ جانے کی ہو تاکہ وہ عمرہ و حج ادا کر سکیں۔

۲۔ وقت کی کمی کے باعث پہلے مدینہ منورہ جانے کی نیت ہو۔

مندرجہ بالا امور میں غلطی سرزد ہونے کی صورت میں کفادہ کی ادائیگی کی صورت کیا

ہوگی؟

ج..... یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ احرام فرائض منصبی سے کیسے مانع ہے؟ بہر حال مسئلہ یہ ہے

۱۔ اگر یہ ملازمین صرف جدہ تک جائیں گے اور پھر واپس آجائیں گے ان کو مکہ مکرمہ نہیں

جانا تو وہ احرام نہیں باندھیں گے۔

۲۔ اگر من کارادہ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ جانے کا ہے تب بھی ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

۳۔ اور اگر وہ حج کا قصد رکھتے ہیں اور جدہ پہنچتے ہی ان کو مکہ مکرمہ جانا ہے تو ان کو بلعلم سے احرام باندھنا لازم ہے۔ اس لئے جو ملازمین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں۔ وہاں پہنچ کر جب ان کو مکہ مکرمہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے احرام باندھ لیں۔

کراچی سے عمرہ پر جانے والا کہاں سے احرام باندھے

س..... ہم لوگ اگلے ماہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا کراچی سے احرام باندھنا ضروری ہے یا جدہ جا کر باندھ سکتے ہیں۔ (مردوں کیلئے)

ج..... چونکہ پرواز کے دوران جہاز میقات سے (بلکہ بعض اوقات حدود حرم سے) گزر کر جدہ پہنچتا ہے۔ اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہو کر احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ بہر حال میقات کی حد عبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لینا لازم ہے، جدہ جا کر نہیں۔ اور اگر جدہ پہنچ کر احرام باندھنا تب بھی بعض اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔

جس کی فلائٹ یقینی نہ ہو وہ احرام کہاں سے باندھے

س..... میں بی آئی اے کا ملازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایئر لائن کے ملازمین کو فری ٹکٹ ملتا ہے مگر ان کی سیٹ کا تعین نہیں ہوتا۔ جس دن اور جس طیارے میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس وقت ملازم جا سکتا ہے۔ لہذا اکثر دو تین دن تک ایئر پورٹ جانا آنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کراچی سے احرام باندھ کر چلنا محال ہے۔ ایسی مجبوری کی حالت میں کیا یہ درست ہے کہ جدہ پہنچ کر وہاں ایک دن قیام کرنے کے بعد احرام باندھ لیا جائے؟

ج..... جب منزل مقصود جدہ نہیں۔ بلکہ مکہ مکرمہ ہے، تو احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ ایئر لائن کے ملازمین کو چاہئے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہو جائے اور ان کو بورڈنگ کارڈ مل جائے تب احرام باندھیں۔ اگر انتظار گاہ میں احرام باندھنے کا وقت ہو تو وہاں باندھ لیں ورنہ جہاز پر سوار ہو کر باندھ لیں۔

میقات سے بغیر احرام کے گزرنا

س..... عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کیں اور واپس جدہ آگئے۔ میقات سے گزر کر آئے اور رات جدہ میں گزری اور صبح پھر مکہ مکرمہ عمرہ کیلئے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے قریب میقات سے احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کیا میقات سے گزر کر جو ہم نے عمرہ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟

ج..... اگر میقات سے گزرتے وقت آپ کا قصد مکہ مکرمہ جانے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ احرام باندھنا لازم تھا۔ اور اس کے کفارہ کے طور پر دم واجب ہے اور اگر اس وقت جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا، یہاں آ کے عمرہ کا ارادہ ہوا تو آپ کے ذمہ کچھ لازم نہیں۔

س..... یہ بتائیں کہ جو پاکستانی حضرات سعودی عرب میں جدہ اور طائف میں ملازم ہیں، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص خلی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام باندھنا لازمی ہے؟ کیونکہ یہاں مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکہ چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو آپ ہمیں اس کا صحیح مسئلہ بتائیں۔

ج..... آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں چند مسئلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔

۱۔ مکہ شریف کے چاروں طرف کا کچھ علاقہ ”حرم“ کہلاتا ہے۔ جہاں شکار کرنا اور درخت کاٹنا ممنوع ہے۔ ”حرم“ سے آگے کم و بیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو ”میقات“ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں سے حاجی لوگ احرام باندھا کرتے ہیں۔

۲۔ جو لوگ ”حرم“ کے علاقہ میں رہتے ہوں یا میقات سے اندر رہتے ہوں، وہ تو جب چاہیں مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر جاسکتے ہیں۔ لیکن جو شخص میقات کے باہر سے جائے، اس کے لئے میقات پر حج یا عمرہ کا احرام باندھنا لازم ہے۔ گویا ایسے شخص پر حج یا عمرہ لازم ہو جاتا ہے۔ خواہ اس شخص کا مکہ مکرمہ جانا حج و عمرہ کی نیت سے نہ ہو، بلکہ محض کسی ضروری کام سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو یا صرف حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کیلئے جانا چاہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقصد کیلئے بھی مکہ مکرمہ جائے وہ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جاسکتا۔

۳۔ اگر کوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر گیا تو اس پر لازم ہے کہ مکہ شریف میں

داخل ہونے سے پہلے پہلے میقات پر واپس لوٹے اور وہاں سے احرام باندھ کر جائے۔

۴۔ اگر وہ واپس نہیں لوٹا تو اس کے ذمہ ”دم“ واجب ہوگا۔

۵۔ جو شخص میقات سے بغیر احرام مکہ مکرمہ چلا جائے، اس پر حج یا عمرہ لازم ہے۔ اگر کئی

بار بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو ہر بار ایک حج یا عمرہ واجب ہوگا۔ ان مسائل سے معلوم

ہوا کہ جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کیلئے مکہ مکرمہ نہیں جاسکتے بلکہ

ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر جایا کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ

وہ جتنی بار بغیر احرام کے چلے گئے ہیں ان پر اتنے دم اور اتنے ہی عمرے واجب ہو گئے۔

۶۔ جدہ میقات سے باہر نہیں۔ لہذا جدہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آنا صحیح ہے۔ جبکہ

طائف میقات سے باہر ہے، لہذا وہاں سے بغیر احرام کے آنا صحیح نہیں۔

بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں

س..... بعض لوگ جموٹ بول کر بغیر احرام کے حدود حرم میں چلے جاتے ہیں اور پھر مسجد عائشہ

سے احرام باندھتے ہیں، کیا اس صورت میں دم لازم آتا ہے؟

ج..... بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہونا گناہ ہے اور ایسے شخص کے ذمہ لازم ہے کہ

واپس میقات پر جا کر احرام باندھ کر آئے۔ اگر یہ شخص دوبارہ میقات پر گیا اور وہاں سے احرام

باندھ کر آیا تو اس کے ذمہ سے دم ساقط ہو گیا۔ اگر واپس نہ گیا تو اس پر دم واجب ہے اور یہ

دم اس کے ذمہ ہمیشہ واجب رہے گا، جب تک اسے ادا نہ کرے اور اس ترک واجب کا گناہ

بھی اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ نقلی حج کے لئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا عبادت نہیں بلکہ

خواہش نفس کی پیروی ہے۔

نوٹ۔ جو لوگ میقات کے باہر سے آئے ہوں ان کے لئے مسجد عائشہ سے احرام باندھ لینا

کافی نہیں، بلکہ ان کو دوبارہ بیرونی میقات پر واپس جانا ضروری ہے۔ اگر بیرونی میقات پر دوبارہ

واپس نہیں گئے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیا تو دم لازم آئے گا۔

بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے پر دم

س..... ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شخص حج کی نیت سے سعودی عرب گیا۔ لیکن پہلے

اس نے ریاض میں قیام کیا پھر مدینہ منورہ آ گیا۔ اس کے بعد احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جا کر

عمرہ ادا کیا اور پھر ریاض واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حج سے ایک ہفتہ پہلے بغیر احرام کے پھر مکہ مکرمہ آیا۔ کسی نے اسے بتلایا کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں یہاں بغیر احرام کے نہیں آنا چاہئے تھا، لہذا اس نے تنعیم جا کر احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کیا یہ صحیح ہوا اور غلطی کا ازالہ ہو گیا؟ یا اس پر دم واجب ہوگا؟

ج..... صورت مسئلہ میں چونکہ اس شخص نے اپنے میقات سے گزرنے کے وقت نبی الحلال مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منورہ جا کر وہاں سے احرام باندھنے کا ارادہ تھا اس لئے اس پر بغیر احرام کے میقات سے گزرنے کا دم واجب نہیں۔ دوسری دفعہ جو یہ شخص ریاض سے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو چکا ہے۔ تنعیم پر آکر عمرہ کا احرام باندھنے سے اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوا۔ اور دم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگر یہ شخص میقات پر واپس لوٹ جاتا اور وہاں سے حج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کر آتا تو دم ساقط ہو جاتا۔

میقات سے اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو دم واجب ہو گیا لیکن اگر واپس آکر میقات سے احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہو گیا

س..... میں ۷ ار مضان الہدک کو ریاض سے مکہ المکرمہ کو روانہ ہوا تھا، میری وہاں پر چند دن ڈیوٹی تھی، لیکن سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اس لئے میں میقات پر احرام نہ باندھ سکا۔ دو دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ روڈ پر میقات سے آگے جا کر میں نے عمرہ کیلئے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ احرام لازمی پہلے دن باندھنا چاہئے تھا۔ اس کے متعلق آپ صحیح جواب دیں میرے سے جو غلطی ہوئی ہو اس کا کیا کفارہ ہے؟

ج..... آپ پر میقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہ سے دم لازم ہو گیا تھا اگر آپ دوبارہ میقات سے باہر جا کر احرام باندھ کر آئے تو آپ سے دم ساقط ہو گیا۔ لیکن آپ کے سوال سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کا احرام باندھنے کیلئے آنکھوں کی میقات پر نہیں گئے بلکہ صرف حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ آئے اور اسی کو آپ نے میقات سمجھ لیا کیونکہ مدینہ روڈ پر میقات یا تو رابغ ہے یا ذوالحلیفہ۔ غالباً آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی

نہیں پہنچے ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ کے ذمہ سے دم سلفظ نہیں ہوا اور اگر واقعی آپ آفتوں کی کسی میقات سے باہر جا کر احرام باندھ کر آئے تھے تو دم آپ سے سلفظ ہو گیا۔

بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا

س..... میں یہاں طائف میں سرور کرتا ہوں۔ میں نے ایک حج کیا ہے اور عمرے بہت کئے ہیں، ابھی آٹھ مہینے ہوئے ہیں ہر جمعہ کو مکہ مکرمہ جاتا ہوں، وہاں جمعہ کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں، میرا بڑا بھائی مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہے اس سے ملاقات بھی کرتا ہوں، میرا ایک ساتھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے دم دینا پڑتا ہے۔ یعنی آپ جتنی مرتبہ گئے ہیں اتنی بار دم دینا پڑے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے دم دینا پڑے گا؟ کیونکہ میں یہی ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جاؤں گا، طواف کروں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا پھر بھائی سے ملاقات کروں گا۔

ج..... جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، اگر وہ مکہ مکرمہ آئیں خواہ ان کا آنا کسی ذوقی کام ہی کے لئے ہو، ان کے ذمہ میقات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھنا لازم ہے۔ اگر وہ احرام کے بغیر مکہ مکرمہ چلے گئے اور واپس آکر میقات پر احرام نہیں باندھا تو وہ گنہگار ہوں گے اور ان کے ذمہ حج یا عمرہ بھی واجب ہو گا۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جو حج و عمرہ کی نیت سے میقات سے گزریں۔ دوسرے لوگوں پر احرام باندھنا لازم نہیں۔ حنفی مذہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ گئے، آپ کے ذمہ اتنے عمرے لازم ہیں اور جو کوتاہی ہو چکی ہے اس پر استغفار بھی کیا جائے۔

شوہر کے پاس جدہ جانے والی عورت پر احرام باندھنا لازم نہیں

س..... میں عرصہ ساڑھے چار سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ ہر سال ایک مہینہ چھٹی پر جاتا ہوں، گزشتہ رمضان میں حسب معمول چھٹی پر پاکستان چلا گیا لیکن جانے سے پہلے میں نے بیوی کیلئے ویزٹ ویزا ارسال کیا تھا۔ ویزا ارسال کرتے وقت میرے دو مقصد تھے۔

۱- وزٹ-

۲- حج۔ یعنی میرا خیال تھا کہ بچے حج بھی کر لیں گے اور میرے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزار لیں گے اور کچھ توسیع بھی کر لوں گا کیونکہ وزٹ دیرا صرف تین مہینے کا ہوتا ہے۔ بہرحال ۲۹ شوال کو پاکستان سے میری مع اہل و عیال روانگی ہوئی۔ میں چونکہ ملازمت کے سلسلے میں رہتا تھا لیکن گھر والوں کو توجہ اور وزٹ مقصود تھا کہ اپنی ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا تھا۔ ۲۹ شوال کو جدہ پہنچ گیا۔ ۳۰ شوال کا دن بھی جدہ میں گزار دیا یعنی تیسرے دن، میں بچوں کو عمرہ پر لے گیا اور پھر حج بھی ادا کیا اور پھر وہ تین مہینے کے بعد واپس پاکستان چلے گئے۔ چونکہ میری بیوی ان پڑھ تھی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں تو جدہ میں مقیم ہوں، بیوی وزٹ ویزے پر آ رہی ہے، احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیال میں حج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ تر حج کا مقصد تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ وزٹ ویزے پر آئی تھی اور یہاں حج کا ارادہ ہو گیا یعنی پاکستان سے بھی حج کا ارادہ ضرور تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری بیوی پر دم واجب ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہے تو اب تک جتنی دیر ہو گئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے دم کی قربانی یہاں (مکہ مکرمہ) میں کر سکتا ہوں، جبکہ ان کو پتہ بھی نہیں؟

حج..... مندرجہ بالا صورت میں چونکہ آپ کا قیام جدہ میں ہے اور آپ کی اہلیہ آپ کے پاس اصلاً جدہ گئی تھیں اور ویزے کا مدعا بھی یہی تھا کہ اصل مقصود حج کرنا ہی تھا اس لئے میرے خیال میں اس کو میقات سے احرام باندھنا لازم نہیں تھا۔ اور نہ اس پر دم لازم ہوا۔

حج و عمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے والے کا احرام

س..... اگر کوئی شخص پاکستان، امریکہ، انگلینڈ یا کسی بھی ملک سے حج و عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوا اور جدہ بغیر احرام کے پہنچا تو

۱- اب وہ کس مقام پر لوٹ کر احرام باندھے؟

ب- اگر اس نے جدہ ہی سے احرام باندھا تو کیا ہوگا؟

ج..... ۱- جو شخص بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے اس کیلئے افضل تو یہ ہے کہ اپنے میقات پر واپس آکر احرام باندھ لے البتہ کسی بھی میقات پر جا کر احرام باندھنے سے دم ساقط

ہو جائے گا۔

ب۔ اگر جدہ سے احرام باندھا تب بھی اس پر دم لازم نہیں آئے گا۔

کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں

س..... عمرہ کے احرام کے سلسلے میں ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کو عمرہ کے لئے مفت ٹکٹ ملتا ہے۔ لیکن یہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتا بلکہ جہاز کی روانگی سے چند منٹ پہلے اگر کچھ نشہ میں بقی بیچ جائیں تو اس ٹکٹ پر سیٹ ملتی ہے۔ اس وقت اتنا موقع نہیں ہوتا کہ احرام باندھا جاسکے۔ بعض اوقات کئی روز تک سیٹ نہیں ملتی اور ملازمین کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ عمرہ پر نہیں جاسکتے۔ ایسی صورت میں کیا وہ جدہ جا کر احرام باندھ سکتے ہیں؟ جہاز کی ٹائلٹ واش رووم میں بھی اتنا گنجائش نہیں ہوتی کہ غسل کر کے احرام باندھا جاسکے۔ اگر کراچی سے احرام باندھیں اور سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے؟ ملازمین بلکہ تمام لوگ جدہ جا کر احرام باندھتے ہیں۔

ج..... احرام باندھنے کے لئے غسل کرنا اور نوافل پڑھنا شرط نہیں مستحب ہے لہذا عذر کی صورت میں صرف سلسلے ہوئے کپڑے اتار کر چادریں پہن لیں اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں بس احرام باندھ گیا۔ اور یہ کام جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور جہاز پر سوار ہو کر بھی ہو سکتا ہے، جدہ جا کر احرام باندھنا درست نہیں کیونکہ بعض اوقات جہاز حرم کے اوپر آتا ہے۔ اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہو کر احرام باندھ لینا ضروری ہے اور اس کا طریقہ اوپر عرض کر دیا ہے۔

جدہ جا کر احرام باندھنا صحیح نہیں

س..... کئی مرتبہ عمرہ پر دیکھا گیا کہ پاکستان سے جانے والے احباب جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھتے ہیں۔ آیا جدہ پر احرام باندھنے سے عمرہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کا بدل کیا ہے؟ آیا دم یا صدقہ جس سے ناقص عمرہ صحیح ہو جائے۔

ج..... اگر پاکستان سے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے ہیں تو پھر جدہ میں احرام نہیں باندھنا چاہئے۔ بلکہ کراچی سے احرام باندھ کر جانا چاہئے یا جہاز میں احرام باندھ لیا جائے۔ اگر کسی نے

جہ سے احرام باندھنا اس کے ذمہ دم لازم ہے یا نہیں؟ اس میں اکابر کا اختلاف رہا ہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر چکا ہو تو دم دیدیا جائے اور آئندہ کے لئے اس سے پرہیز کیا جائے۔

جہ سے احرام کب باندھ سکتا ہے

س..... اگر کسی کا عمرے کا ارادہ ہو لیکن اس کو جہ میں بھی کوئی کام ہو۔ مثلاً رشتہ داروں سے ملنا یا اور کوئی کاروباری کام ہو تو کیا یہ شخص بغیر احرام کے جہ جاسکتا ہے، جبکہ پہلے جہ کا اور اس کے بعد عمرے کا ارادہ ہو؟

ج..... اگر وہ کراچی سے جہ کا سفر عزیزوں سے ملنے کے لئے کر رہا ہے اور کراچی سے اس کی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کو میقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، جہ پہنچ کر اگر اس کا عمرہ کا ارادہ ہو جائے تو جہ سے احرام باندھ لے، عمرہ ہی کے لئے سفر کر رہا ہو تو اس کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لہذا مذکورہ صورت میں جب پہلے جہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں اس کے بعد پھر جب جہ سے عمرہ کا ارادہ کر لے تو وہاں سے احرام باندھ لے۔

جہ سے مکہ آنے والوں کا احرام باندھنا

س..... کیا جہ میں مستقل مقیم یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہو یا اس سے کم مدت ٹھہرے، جہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آسکتا ہے یا نہیں؟

ج..... جہ میں رہنے والوں کو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آنا جائز ہے جبکہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ نہ جائیں۔ یہی حکم ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی کام سے جہ آئے تھے پھر وہاں آنے کے بعد ان کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہو گیا۔ ان کو بھی احرام کے بغیر آنا جائز ہے۔

س..... ایک شخص جہ گیا، وہاں چند دن قیام کیا، پھر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کی نیت سے گیا، لیکن احرام نہیں باندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوٹل میں کمرہ لیا اور پھر تنعمیم جا کر احرام باندھا۔ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا؟

ج..... غلط ہوا۔ کیونکہ جب یہ شخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کو چلا تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو عمرہ کا احرام باندھنا لازم تھا اور حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا اس

کے لئے جائز نہیں تھا، اس لئے بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ تاہم جب اس نے حرم سے باہر آکر تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو دم تو ساقط ہو گیا، مگر گناہ باقی رہا۔ توبہ استغفار کرے۔

س..... اگر یہ شخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کو نہ جائے بلکہ یونسی جائے یا طواف کی نیت سے جائے اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں کمرہ لے لے اور طواف کر کے واپس ہو جائے تو؟ یا ہوٹل میں قیام کے بعد عمرہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا اور تنعیم جا کر احرام باندھا تو کیا اس صورت میں بھی گنہگار ہوا؟

ج..... اس صورت میں گنہ گار نہیں۔ کیونکہ یہ شخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ نہیں آیا تھا۔ بلکہ مکہ شریف پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ عمرہ بھی کر لوں۔ اس لئے بغیر احرام کے حرم میں آنے کا گناہ اس کے ذمہ نہیں۔ اب اگر یہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اہل مکہ کی طرح حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آئے۔

احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے

س..... حج یا عمرہ کا جب احرام باندھتے ہیں جس طرح احرام باندھنے کی شرائط ہیں اسی طرح احرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں۔ بل کٹوانا ہے تو بال کٹوانے کا طریقہ اور اصل مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

ج..... احرام کھولنے کیلئے حلق (یعنی استرے سے سر کے بال صاف کر دینا) افضل ہے اور قصر جائز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک احرام کھولنے کیلئے یہ شرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ دیئے جائیں، اگر سر کے بال چھوٹے ہوں اور ایک پورے سے کم ہوں تو استرے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا۔

عمرہ سے فداغ ہو کر حلق سے پہلے کپڑے پہننا

س..... دو سال قبل عمرہ کے لئے گیا تھا، تقریباً دس دن مکہ مکرمہ میں گزارے۔ آخری دن جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں تھا کیونکہ میری فلائٹ میں صرف چل گھنٹہ رہ گئے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں فلائٹ نہ نکل جائے۔ اسی جلدی میں عمرہ سے فداغ ہو کر پہلے حلق کرانے کے بجائے

پہلے احرام کھول کے کپڑے پہن کے حلق (بال کٹوائے) کرایا۔

اس وقت جلدی میں تھا تو یاد نہیں رہا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ جب یہاں پہنچا تو ایک دوست سے باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کہ میں نے احرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مرہانی مجھے بتائیں کہ کیا مجھ پر جزا (دم) واجب ہے یا نہیں؟ اگر جزا واجب ہے تو کیا میں مکہ مکرمہ سے باہر دم دے سکتا ہوں یا اس کے لئے مکہ مکرمہ میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ انشاء اللہ اس سلجج کارادہ ہے کیا حج سے پہلے دم دینا ہو گا یا کہ حج کی قربانی کے ساتھ یہ جزا (دم) کے طور پر ایک بکرا ذبح کر دوں۔ امید ہے کہ آپ جلدی جواب دیں گے۔

ج..... اس غلطی کی وجہ سے آپ کے ذمہ دم لازم نہیں آیا بلکہ صدقہ فطری مقدار صدقہ آپ پر لازم ہے اور یہ صدقہ آپ کسی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔

احرام کھولنے کے لئے کتنے بال کاٹنے ضروری ہیں

س..... حج یا عمرہ کے موقع پر سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، کچھ لوگ چند بال کٹواتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کے مقلد ہیں، کیا اس طرح بال کٹوانے سے ان کا احرام کھل جاتا ہے؟ احرام کے ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں؟

ج..... حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک احرام کھولنے کے لئے کم سے کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کاٹنا شرط ہے۔ اس لئے جو لوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام نہیں کھلتا اور اسی حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم آتا ہے۔ (یہاں واضح رہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال کاٹنا احرام کھولنے کی شرط ہے۔ لیکن سر کے کچھ بال کاٹ لینا اور کچھ چھوڑ دینا جائز نہیں۔ حدیث میں اس عمل کی ممانعت آئی ہے۔ اس لئے اگر کسی نے چوتھائی سر کے بال کاٹ لئے تو احرام تو کھل جائے گا مگر باقی بال نہ کاٹنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا)۔

س..... اس مرتبہ عمرہ پر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے بعد بال کاٹنے بغیر احرام کھول لیتے ہیں یا بعض لوگ چاروں طرف سے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی کاٹنے کا حکم ہے جو کہ اس طرح پورا ہو جاتا ہے اور بعض لوگ مشین سے کاٹتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا احرام کا اٹلانا آیا دم وغیرہ کو

واجب کرتا ہے یا نہیں اور مسنون طریقہ کیا ہے؟
 حج و عمرہ کا احرام کھولنے کے لئے چلہ صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ لکھتا ہوں:

اول یہ کہ حلق کرایا جائے یعنی استرے سے سر کے بال اتار دیئے جائیں، یہ صورت سب سے افضل ہے اور حلق کرانے والوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے جو شخص حج وغیرہ پر جا کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت سے محروم رہے، اس کی محرومی کا کیا ٹھکانا؟ اس لئے حج و عمرہ پر جانے والے تمام حضرات کو مشورہ دوں گا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم نہ رہیں، بلکہ حلق کرنا اگر احرام کھولیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ قینچی یا مشین سے پورے سر کے بال اتار دیئے جائیں، یہ صورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔

تیسری یہ ہے کہ کم سے کم چوتھلی سر کے بال کاٹ دیئے جائیں، یہ صورت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے کیونکہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، مگر اس سے احرام کھل جائے گا۔ اب یہ خود سوچئے کہ حج و عمرہ جیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجائز فعل سے کرتے ہیں ان کا حج و عمرہ کیا قبول ہوگا۔

چوتھی صورت میں جبکہ ادھر ادھر سے چند بل کاٹ دیئے جائیں جو چوتھلی سر سے کم ہوں، اس صورت میں احرام نہیں کھلے گا بلکہ آدمی بدستور احرام میں رہے گا اور اس کو ممنوعات احرام کی پابندی لازم ہوگی اور سلاہوا کپڑا پہننے اور دیگر ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر دم لازم ہوگا۔ آج کل بہت ناواقف لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی اسی چوتھی صورت پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں، اسی احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند بل کاٹ کر احرام کھول دیا حالانکہ ان کا احرام نہیں کھلا اور احرام کی حالت میں خلاف احرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو مول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آدمہ ہوگا جس کا حج و عمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہو باقی لوگ میر سپانا کر کے آجاتے ہیں اور حاجی کہلاتے ہیں، عوام کو چاہئے کہ حج و عمرہ کے مسائل اہل علم سے سیکھیں اور ان پر عمل کریں، محض دیکھا

دیکھی سے کام نہ چلائیں۔

حج کا احرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا کیا جائے

س..... میں نے کراچی سے ہی سب کے ساتھ حج کا احرام باندھ لیا تھا۔ مکہ شریف میں طواف کرنے کے بعد کھول دیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟

ج..... آپ پر حج کا احرام توڑنے کی وجہ سے دم لازم ہو اور حج کی قضا لازم ہوئی، حج تو آپ نے کر لیا ہوگا، دم آپ کے ذمہ رہا اور اس فعل پر ندامت کے ساتھ توبہ استغفار بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگئے۔

عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد حج کا احرام باندھنے تک پابندیاں نہیں ہیں

س..... پاکستان سے حج تمتع کیلئے احرام باندھ کر چلے، مگر مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کیا اور احرام کھول دیئے۔ اب سوال یہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد جہاں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں تھیں، وہاں کیا یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ بیوی شوہر پر حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھی۔ ابھی حج کیلئے عمرہ کے بعد دس دن باقی ہیں اور اگر ایسا کسی نے کیا تو کیا اس کا حج قبول ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے؟ اگر دوبارہ آئندہ سل حج کرنے کا حکم ہے اور وہ آئندہ سل حج نہ کر سکے، وجہ مجبوری ہے پیسہ نہ ہونے کی؟

ج..... عمرہ کے احرام سے فدرغ ہونے کے بعد سے حج کا احرام باندھنے تک جو وقفہ ہے، اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کی بھی پابندی نہیں۔ اس لئے عمرہ سے فدرغ ہو کر حج کا احرام باندھنے سے پہلے بیوی سے ملنا جائز ہے۔ اس سے حج کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، نہ آئندہ سل حج کرنا لازم آتا ہے۔

احرام والے کیلئے بیوی کب حلال ہوتی ہے

س..... کیا یہ صحیح ہے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ بحوالہ

تحریر فرمائیں۔ اور کیا قربانی سے پہلے طواف زیارت کیا جاسکتا ہے؟
ج..... جب تک طواف زیارت نہ کرے بیوی حلال نہیں ہوتی۔ گویا بیوی کے حق میں احرام
باقی رہتا ہے۔ قربانی سے پہلے طواف زیارت جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ بعد میں کرے۔

احرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل

س..... ہوائی جہاز سے جانے والے حنفی عازمین حج گھر سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ اگر اتفاق
سے کوئی حادثی (جو احرام باندھے گھر سے چلا ہو) کسی مجبوری کے سبب ایئرپورٹ سے واپس
ہو جائے اور حج پر نہ جائے تو کیونکہ احرام نہیں اتار سکتا تو قنیکہ قربانی کے جانور کی رقم حدود حرم میں
نہ بھیج دے اور وہاں سے قربانی ہو جانے کی اطلاع نہ مل جائے، خواہ اس میں دس پندرہ دن لگ
جائیں؟

ج..... گھر سے احرام کی چادریں پہن لینی چاہئیں۔ مگر احرام نہ باندھا جائے۔ احرام اس وقت
باندھا جائے، جب سیٹ پکی ہو جائے، احرام باندھنے کا مطلب ہے حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ
پڑھ لینا۔ اور اگر احرام باندھ چکا تھا اس کے بعد نہیں جاسکا، تو جیسا کہ آپ نے لکھا وہ قربانی کی
رقم کسی کے ہاتھ مکہ مکرمہ بھیج دے اور آپس میں یہ طے ہو جائے کہ فلاں دن قربانی کا جانور ذبح
ہوگا۔ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، تب یہ احرام کھولے اور آئندہ اس حج کی قضا
کرے۔

کیا حالت احرام میں ناپاک ہونے والے پردم واجب ہے

س..... حالت احرام میں عورت یا مرد کسی عذر کی بنا پر ناپاک ہو گئے تو ان کی پائی کا کیا طریقہ ہوگا
آیا ان پردم وغیرہ ہوگا یا کچھ بھی نہیں؟
ج..... کوئی دم وغیرہ نہیں۔

ناپاکی کی وجہ سے احرام کی مٹھی چادریں کا بدلنا

س..... مجھ کو اکثر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور میں کراچی سے احرام باندھ کر جاتا
ہوں۔ مگر وضعی کی وجہ سے مجھے پیشاب جلدی جلدی آتا ہے اور ہوائی جہاز کے چار گھنٹہ کے سفر

میں تین مرتبہ غسل خانہ جانا پڑتا ہے۔ غسل خانہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ احرام کا پاک رہنا قطعی ناممکن ہے۔ کیا اسی حالت میں عمرہ کھولوں یا نیچے کا احرام بدل سکتا ہوں۔ دوسری صورت کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جدہ میں میری ایک بیٹی رہتی ہے، اس کے ہاں ایک شب قیام کروں اور وہاں سے احرام باندھوں؟

ج..... احرام تو سولہ ہونے سے پہلے یا بعد میں باندھ لینا چاہئے۔ احرام کی نیچے والی چادر بدل لیا کریں۔

احرام کی حالت میں بال گریں تو کیا قربانی کی جائے

س..... میرے سر اور داڑھی کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ سنا ہے کہ احرام کی حالت میں جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حج کی صورت میں، جبکہ میں معذور ہوں، مسئلہ واضح فرمائیں؟

ج..... جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینے کا مسئلہ غلط ہے۔ البتہ وضو احتیاط سے کرنا چاہئے تاکہ بال نہ گریں اور اگر گریں تو صدقہ کر دینا کافی ہے۔

عمرہ کرنے کے بعد حج کیلئے احرام دھونا

س..... حج سے قبل تمتع کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جائے گا۔ ۸ ذوالحجہ کو اس احرام کو دھو کر باندھنا چاہئے یا بغیر دھوئے ہوئے استعمال کر لیں؟

ج..... تمتع کا عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادروں کو دھونا ضروری نہیں۔ اگر وہ پاک ہوں تو انہی چادروں میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔

کیا ہر مرتبہ عمرہ کے لئے احرام دھونا پڑے گا

س..... ہر مرتبہ عمرہ کرنے کیلئے احرام دھونا پڑے گا یا اسی احرام کو دوسری، تیسری مرتبہ پانچ دن تک بغیر دھلے استعمال کریں؟

ج..... احرام کی چادروں کا ہر مرتبہ دھونا کوئی ضروری نہیں۔

احرام کی چادر استعمال کے بعد کسی کو بھی دے سکتے ہیں
س..... کیا ہم حج کے بعد احرام کسی غریب کو دے دیں کہ وہ اپنی ضرورت کیلئے استعمال

کرے؟

ج..... احرام کی چادر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کو دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔

احرام کو تولیہ کی جگہ استعمال کرنا

س..... احرام جو کہ تولیہ کے کپڑے کا ہے اس کو عام استعمال میں تولیہ کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

ج..... کر سکتے ہیں۔

احرام کے کپڑے کو بلخدا میں دوسری جگہ استعمال کرنا

س..... حج اور عمرہ کے دوران جو کپڑا بطور احرام استعمال کرتے ہیں، کیا اس کو عام کپڑوں کی طرح گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی تولیہ کو تولیہ کی جگہ اور لٹھے کو شلووار قمیص بنا کر پہن سکتے ہیں یا نہیں؟

ج..... احرام کے کپڑوں کا عام استعمال جائز ہے۔

طواف

حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے

س کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیا عمرہ کے لئے جانے والے شخص کو حرم شریف میں تحیۃ المسجد کے نفل پڑھنا ضروری ہیں؟

ج طواف وداع صرف حج میں واجب ہے، عمرہ میں نہیں، حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے۔

طواف سے پہلے سعی کرنا

س حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا دولتی وغیرہ کا استعمال کرنا ماہولری کو روکنے کے لئے آیا یہ عمل بغیر کراہت کے درست ہے یا نہیں؟

ج کوئی حرج نہیں۔

س دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے ایام خاص میں سعی کو مقدم (طواف پر) کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتی تو کس طرح عمرے کو ادا کرے گی آیا وہ تاخیر کرے گی حالت طہارت تک یا احرام کو اتار دے گی؟

ج اس صورت میں سعی طواف سے پہلے کرنا صحیح نہیں، پاک ہونے کے بعد طواف سعی کر کے احرام کھولے اس وقت تک احرام میں رہے۔

اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا

س کیا اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے؟

ج..... اگر اذان اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ طواف کر سکتا ہے تو نواہن کے وقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

طواف کے دوران ایذا رسانی

س..... دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اور سامنے آنے والوں کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟

ج..... طواف کے دوران لوگوں کو دھکے دینا بہت برا ہے۔

حجر اسود کے استلام کا طریقہ

س..... کچھ حاجی صاحبان طواف کا ایک چکر پورا ہونے پر حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اگلا چکر شروع کرتے ہیں جس سے طواف میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟

ج..... سات مرتبہ ہاتھ اٹھانا غلط ہے، ایک مرتبہ استلام کافی ہے۔

"استلام" طواف شروع کرنے سے پہلے اور طواف کے ہر چکر کے بعد حجر اسود کو چومنا اور اگر حجر اسود کا چومنا دشوار ہو تو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو چوم لینا۔

حجر اسود اور رکنِ یمانی کا بوسہ لینا

س..... مسئلہ یہ ہے کہ اکثر طواف کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں رکنِ یمانی اور حجر اسود کا بوسہ بہت اہتمام سے ادا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ اس عمل کو ادا کرتے وقت کثرتِ جھوم اور رش کی بنا پر وہ حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا یعنی کھلم کھلا مرد اور عورتوں کا اختلاط پایا جاتا ہے اس کے باوجود اس عمل کو ترک نہیں کیا جاتا۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ عمل سنت ہے یا واجب؟ جس پر اتنا اہتمام ہوتا ہے اگر ادا کرنا مشکل ہو (یعنی حجر اسود وغیرہ کا بوسہ) تو اس کا بدل کیا ہے؟ بر لو مہربانی تفصیل سے جواب دیں۔

ج..... حجر اسود کا استلام سنت ہے بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو ایذا نہ ہو، اگر اس میں دھکم پیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچے تو یہ فعل حرام ہے اور طواف میں فعل حرام کا ارتکاب کرنا اور اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا بہت ہی بے عقلی کی

بات ہے۔ اگر آدمی آسانی سے حجر اسود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے ورنہ دور سے اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف بڑھا کر یہ تصور کرے کہ گویا میں نے ہاتھ حجر اسود پر رکھ دیئے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چوم لے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاء اللہ۔

اور رکن یمنی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے بلکہ اگر چلتے چلتے اس کو داہنا ہاتھ لگانے کی گنجائش ہو تو ہاتھ لگا دے۔ (ہاتھ کو بھی نہ چومے) ورنہ بغیر اشارہ کئے گزر جائے۔

حجر اسود کی توہین

س..... جناب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ کہ ایک سرمایہ دار خاتون حج کرنے کے لئے گئی اور واپس آکر انہوں نے بتایا کہ دوران حج سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لئے جب میں گئی تو وہاں پر لوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر مجھے گھن آئی، میں نے بوسہ نہیں دیا، اس سلسلہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ شریعت میں ایسی عورت کے لئے کیا حکم ہے آیا وہ دائرہ اسلام میں ہے یا اس سے خارج ہے؟

ج..... اگر اس عورت نے حجر اسود کی توہین و بے عزتی کے ارتکاب کی نیت سے یہ گفتگو کی ہو اور اس کا مقصد حجر اسود ہی کی توہین ہو اور اس بوسہ دینے کے عمل سے نفرت ہو تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اس پر تجدید ایمان واجب ہے اور اس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ گیا اور اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ چونکہ اس پر لوگوں کا لعاب و تھوک پڑتا ہے جو قاتل نفرت ہے یا اس کا مقصد تکبر کی بنا پر لوگوں کی اہانت ہے تو کفر کا حکم تو نہیں ہو گا لیکن بدترین قسم کے فسق (گناہ) ہونے میں کلام نہیں ہے، اس عورت پر توبہ واجب ہے۔ اور اگر اس خاتون کو اس بات سے گھن آئی کہ سب مرد، عورتیں اکٹھے بوسے دے رہے ہیں اور ان کو حیا مانع آئی کہ وہ مردوں کے مجمع میں گھس کر بوسہ دے تو اس کا یہ فعل بلاشبہ صحیح ہے اور کسی مسلمان کے قول و عمل کو حتی الوسع اچھے معنی پر ہی محمول کرنا چاہئے۔

طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا ضروری نہیں

س..... طواف میں سلت چکر ہوتے ہیں۔ ہر چکر میں نئی دعا پڑھنی ضروری ہے یا کوئی سی دعا پڑھی جاسکتی ہے؟

ج..... ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ بلکہ جس دعا یا ذکر میں خشوع زیادہ ہو اس کو پڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ”ربنا اتقانی اللدینا حسنة“ والی دعا منقول ہے۔ طواف کے سات چکروں کی جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بعض بزرگوں سے منقول ہیں۔ عام لوگ نہ تو ان کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں نہ ان کے معنی و مفہوم سے واقف ہیں۔ اور پھر طواف کے دوران چلا چلا کر پڑھتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی تشویش ہوتی ہے اور بعض قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں، ایسا کرنا نامناسب ہے۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف یا کوئی دعا جس میں دل لگے، زیر لب پڑھتے رہنا چاہئے۔

طواف کے چودہ چکر لگانا

س..... ہم عمرہ کے لئے گئے اور طواف کے سات شوط یعنی سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگا دیئے۔ اس کے بعد سعی وغیرہ کی۔ کیا یہ عمل درست ہوا؟
ج..... طواف تو سات ہی شوط کا ہوتا ہے۔ گویا آپ نے مسلسل دو طواف کر لئے، ایسا کرنا نامناسب تھا مگر اس پر کوئی کفارہ یا جرمانہ نہیں۔ البتہ آپ کے ذمہ دو طوافوں کے دو دو گانے لازم ہو گئے تھے، یعنی چار رکعتیں۔ اگر آپ نے نہ پڑھی ہوں تو اب پڑھ لیں۔

بیت اللہ کی دیوار کو چومنا مکروہ اور خلاف ادب ہے

س..... بیت اللہ کی دیوار کو بوسہ دے سکتا ہے اگر بوسہ لیا ہے گنہگار ہوا یا نہیں؟
ج..... صرف حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے کسی اور جگہ کا چومنا مکروہ ہے۔ اور ادب کے خلاف ہے۔

طواف عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو دم واجب ہے

س..... میں اور میرا دوست اس مرتبہ حج کیلئے گئے تھے، ہم نے حج قرآن کا احرام باندھا تھا، جب ہم عمرے کا طواف کر رہے تھے تو چونکہ جم غفیر تھا اس لئے ہم تیسرے یا چوتھے شوط میں حطیم کے اندر سے گزر گئے۔ پہلے ہمیں علم نہیں ہوسکا جب حطیم کی دوسری طرف سے نکلے

تو معلوم ہوا کہ یہ حطیم تھا۔ اس طرح ہذا یہ شوط ناکمل ہوا لیکن ہم نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ بس اس وقت ذہن سے بات نکل گئی۔ اب اس بارے میں مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا۔ چونکہ ہم نے اکثر اشواط ادا کئے لہذا فرض ادا ہو گیا۔ اب اگر عمرے کا ہر شوط واجب ہے تو پھر ترک واجب ہوا۔ لہذا دم آئے گا اور قرآن والے کیلئے دو دم ہوں گے۔ بہر حال یہ تحقیق آپ کی ہے، الغرض مجھ پر دم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ امید ہے اولین فرصت میں جواب دے کر تشفی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو تاحیات جاری و ساری رکھے۔ آمین۔

ج..... آپ پر اور آپ کے رفیق پر عمرہ کے طواف کا ایک چکر ادھورا چھوڑنے کی وجہ سے ایک لیک دم واجب ہے، یہ جو قاعدہ ہے کہ قرآن والے کے ذمہ دو دم ہوتے ہیں وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ دم ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی مکہ مکرمہ جانے والے کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں جس سے بکرا خریدا جاسکے وہ صاحب بکرا خرید کر حدود حرم میں ذبح کرادیں اور گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ غنی اور ملدار لوگ اس گوشت کو نہ کھائیں۔

مقام ابراہیم پر نماز واجب الطواف ادا کرنا

س..... بعض حضرات یہ جانتے ہوئے کہ مجمع زیادہ ہے مگر مقام ابراہیم پر نماز واجب الطواف پڑھنے لگتے ہیں جس سے ان کو بھی چوٹ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نیز ضعیف و مستورات کے زخمی ہو جانے کا احتمال ہے۔ کیا یہ نماز ہجوم سے ہٹ کر نہیں پڑھی جاسکتی؟

ج..... ضرور پڑھی جاسکتی ہے۔ اور اگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھی جائے کہ کسی کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔

طواف کے دو رکعت نفل کیا مقام ابراہیم پر ادا کرنے ضروری ہیں

س..... طواف کے آخر میں دو رکعت نفل جو ادا کرتے ہیں کیا وہ مقام ابراہیم پر ہی ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں اور کہیں مثلاً صحت وغیرہ پر ادا کیا جاسکتا ہے؟

ج..... اگر جگہ ہو تو مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے یا حطیم میں گنجائش ہو تو وہاں پڑھ لے۔
ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے بلکہ مسجد حرم شریف سے باہر اپنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز
ہے کوئی کراہت نہیں۔

ہر طواف کے دو نفل غیر ممنوع اوقات میں ادا کرنا

س..... بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد ہر رکعت نفل (واجب الطواف) ممنوع وقت (صبح
فجر سے طلوع آفتاب تک اور شام عصر سے مغرب تک) پڑھنے چاہئیں یا نہیں؟ کئی علماء کہتے
ہیں کہ ان نفلوں کا ممنوع وقت نہیں ہے ہر وقت پڑھے جاسکتے ہیں اور کئی علماء کہتے ہیں کہ
ممنوع وقت گزرنے کے بعد پڑھنے چاہئیں۔ اگر ممنوع وقت کے بعد پڑھے جائیں تو اس وقت
جتنے بھی طواف کئے جائیں، ان سب کے ایک دفعہ دو نفل پڑھے جائیں یا دو دو نفل ہر طواف
کے الگ الگ پڑھے جائیں؟

ج..... امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ممنوع اوقات میں (یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک، فجر کے
بعد سے اشراق تک اور زوال کے وقت) دو گناہ طواف ادا کرنا جائز نہیں۔ اس دوران جتنے
طواف کئے ہوں، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد ان کے دو گانے الگ الگ ادا کر لے۔

دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے

س..... طواف کعبہ کے دوران یا حج کے ارکان ادا کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ
وضو کر کے ارکان ادا کرنے ہوں گے، عرفات میں قیام کے دوران یا سعی کرتے وقت؟ براہ
کرم تفصیل سے جواب دیں۔

ج..... طواف کے لئے وضو شرط ہے اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے دوبارہ
طواف کیا جائے، اور اگر چل یا پانچ پھیرے پورے کر چکا ہو تو وضو کر کے باقی پھیرے پورے
کر لے ورنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے۔ البتہ سعی کے دوران وضو شرط نہیں۔ اگر
بغیر وضو کے سعی کر لی تو ادا ہو جائے گی۔ یہی حکم وقوف عرفات کا ہے۔

عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے

س..... ایک بچی اپنے والدین کے ہمراہ عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کیلئے روانہ ہوئی۔ روانہ

ہونے کے وقت بچی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی۔ اس کی عمر تقریباً ۱۲ برس تھی۔ مکہ مکرمہ پہنچنے پر عمرہ کا طواف کیا اور پھر سعی کی اور سعی کے بعد بچی نے اپنی والدہ کو حیض کے آنے کی اطلاع ناواقفیت کی وجہ سے بڑی گھبراہٹ کے عالم میں کی۔ ماں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ طواف کے دوران شروع ہوا۔ گویا اس حالت حیض میں اس نے پورا یا طواف کا بیشتر حصہ ادا کیا اور پھر اسی حالت میں سعی بھی کی۔ ایسی صورت میں اس بچی کے اس فعل پر جو ناواقفیت کے عالم میں ہوا، کوئی چیز واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا چیز ادا کرنی ہوگی؟

ج..... اس کو چاہئے تھا کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی۔ بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف اور سعی کرتی۔ بہر حال چونکہ اس نے احرام نابالغی کی حالت میں باندھا تھا اس لئے اس پر دم جنائیت نہیں۔ مناسک ملا علی قاریؒ میں ہے:

”وإن ارتكب) أي الصبي شيئاً من المنظورات (لا

شيء عليه) أي ولو بعد بلوغه لعدم تكليفه قبله“ (ص ۴۹)

”اور اگر بچے نے ممنوعات احرام میں سے کسی چیز کا

ارتکاب کیا تو اس کے ذمہ کچھ نہیں۔ خواہ یہ ارتکاب بلوغ کے بعد ہو،

کیونکہ وہ اس سے پہلے مکلف نہیں تھا۔“

معذور شخص طواف اور دو گانہ نفل کا کیا کرے

س..... معذور شخص کو طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا کیسا ہے؟

ج..... جیسے فرض نماز پڑھتا ہے ویسے ہی دو گانہ طواف پڑھے۔ یعنی کھڑے ہو کر۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھے اور طواف خود یا کسی کے سہارے سے کرے یا پھر ڈولی میں جیسے کہ عام معذور لوگ وہاں کرتے ہیں۔

آب زم زم پینے کا طریقہ

س..... آب زم زم کے متعلق حدیث شریف میں حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے۔ عرض ہے کہ یہ حکم صرف حج و عمرہ ادا کرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پیا جائے تو

کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر پینا چاہئے یا قبلہ رخ ہونے کی پابندی نہیں ہے؟ کیونکہ حلی صاحبان جب اپنے ساتھ آب زم زم لے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور بعض لوگ بیٹھ کر پیتے ہیں۔

ج..... آب زم زم کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا مستحب ہے۔ حج و عمرہ کی تخصیص نہیں۔

حج کے اعمال

حج کے ایام میں دوسرے کو تلبیہ کہلوانا

س..... حج کے ایام میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بس میں سوار ایک آدمی تلبیہ پڑھتا ہے اور باقی اس کی تکرار کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟
ج..... عوام کی آسانی کے لئے اگر ایسا کیا جاتا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ورنہ آواز میں آواز ملا کر تلبیہ نہ کہا جائے۔

ان پڑھ والدین کو حج کس طرح کرائیں

س..... زید حج کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی اپنے والد اور والدہ کو بھی حج کروانا چاہتا ہے لیکن دونوں ماں باپ بالکل ان پڑھ ہیں۔ سورۃ فاتحہ تک صحیح نہیں آتی، کوشش کے باوجود سکھانا ناممکن ہے۔ آیا اس صورت میں حج کیلئے زید اپنے والدین کو ساتھ لے جائے؟ حج صرف نام کے لئے تو نہیں ہوتا، ازراہ کرم تفصیل سے سمجھائیے۔

ج..... حج میں تلبیہ پڑھنا فرض ہے اس کے بغیر احرام نہیں بندھے گا۔ ان کو تلبیہ سکھا دیا جائے، حج ان کا ہو جائے گا اور اگر ان کو تلبیہ کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ احرام بندھتے وقت ان کو تلبیہ کے الفاظ کہلا دیئے جائیں۔ اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ کتے جائیں۔ اس سے تلبیہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔

حرم اور حرم سے باہر صفوں کا شرعی حکم
س..... حرم میں اور حرم کے باہر نماز کی صفوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرم میں بھی صفوں

کے درمیان خلافاً فاصلہ ہوتا ہے اور حرم میں جگہ ہونے کی باوجود حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ حرم کے باہر ۳، ۴ سو گز بلکہ زیادہ فاصلہ تک کوئی صف نہیں ہوتی سرنگ مسفلہ میں صفیں قائم کر لی جاتی ہیں کیا ان صفوں میں شامل ہونے سے نماز ہو جاتی ہے؟

ج..... حرم شریف میں تو اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی اور حرم شریف سے باہر اگر صفیں متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو نماز صحیح ہے اور اگر درمیان میں سڑک ہو یا زیادہ فاصلہ ہو تو نماز صحیح نہیں۔

حج کے دوران عورتوں کیلئے احکام

س..... میرا اسی سئلہ حج کا ارادہ ہے مگر میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ اگر حج کے دوران عورتوں کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہئے اور مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا حکم ہے، اس دوران اگر ایام شروع ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟

ج..... آپ کی پریشانی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، حج کے افعال میں سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام رکاوٹ ہوں۔

اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو عورت غسل یا وضو کر کے حج کا احرام باندھ لے، احرام باندھنے سے پہلے جو دور کعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلا طواف (جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے) سنت ہے، اگر عورت خاص ایام میں ہو تو یہ طواف چھوڑ دے، منیٰ جانے سے پہلے اگر پاک ہو گئی تو طواف کر لے اور نہ ضرورت نہیں اور نہ اس پر اس کا کلفہ ہی لازم ہے۔

دوسرا طواف دس تاریخ کو کیا جاتا ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں، یہ حج کا فرض ہے۔ اگر عورت اس دوران خاص ایام میں ہو تو طواف میں تاخیر کرے۔ پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔

تیسرا طواف مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے لیکن اگر اس دوران عورت خاص ایام میں ہو تو اس طواف کو بھی چھوڑ دے، اس سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، بقی منیٰ، عرفات، مزدلفہ میں جو مناسک ادا کئے جاتے ہیں، ان کے لئے عورت کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں۔

اور اگر عورت نے عمرہ کا احرام باندھا تھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے اور اگر اس صورت میں اس کو عمرہ کے انفل ادا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ منیٰ کی روانگی کا وقت آ گیا تو عمرہ کا احرام کھول کر حج کا احرام باندھ لے اور یہ عمرہ جو توڑ دیا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کرے۔

مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنا مردوں کے لئے مستحب ہے، عورتوں کے لئے نہیں، عورتوں کے لئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اور ان کو مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔

عورت کا باریک دوپٹہ پہن کر حرمین شریفین آنا

س بعض ہماری بہنوں کو حرمین شریفین میں دیکھا گیا ہے کہ حرم میں نماز کے لئے اس حالت میں آتی ہیں کہ باریک دوپٹہ پہن کر اور بغیر پردے کے آتی ہیں اسی حالت میں نماز و طواف وغیرہ کرتی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ منع ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ وہاں کیا پردہ نہیں ہوتا کیا وہاں اس طرح نماز و طواف ادا ہو جاتا ہے جس میں بل تک نظر آتے ہیں؟

ج آپ کے سوال کے جواب میں چند مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔

اول عورت کا ایسا کپڑا پہن کر باہر نکلنا حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہو یا سر کے بل نظر آتے ہوں۔

دوم ایسے باریک دوپٹہ میں نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بل نظر آتے ہوں۔

سوم مکہ و مدینہ جا کر عام عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پوری کرنا ضروری سمجھتی ہیں یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کو وہاں جا کر بھی اپنے گھر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے ذرا غور فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بنفس نفیس نماز پڑھا رہے تھے اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے جس نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقتدی ہوں جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہو تو

آج کی جماعت عورت کے لئے کیسے افضل ہو سکتی ہے حاصل یہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا کر عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہئے اور یہ گھر کی نماز ان کے لئے حرم کی نماز سے افضل ہے حرم شریف میں ان کو طواف کے لئے آنا چاہئے۔

حج کے مبارک سفر میں عورتوں کیلئے پردہ

س..... اکثر دیکھا گیا سفر حج میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں محرم اور نامحرم سب ہوتے ہیں ایسے مبارک سفر میں بے پردہ عورتوں کو تو چھوڑیے باپردہ عورتوں کا یہ حل ہوتا ہے کہ پردہ کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں۔ جب ان سے پردہ کا کہا جاتا ہے تو اس پر جواب یہ دیتی ہیں اس مبارک سفر میں پردہ کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ حرم میں عورتیں نماز و طواف کے لئے باریک کپڑا پہن کر تشریف لاتی ہیں۔ اور ان کا یہ حل ہوتا ہے کہ خوب آدمیوں کے ہجوم میں طواف کرتی ہیں اور اسی طرح حجر اسود کے بوسہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت کے یہاں پردہ میں کوئی رعایت ہے؟ چاہئے تو یہ تھا کہ ایسے مبارک سفر میں حرام سے بچے تاکہ حج مقبول ہو۔ اس طرح کے کپڑے پہن کر طواف و نماز وغیرہ کے لئے آنا شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

حج..... احرام کی حالت میں عورت کو حکم ہے کہ کپڑا اس کے چہرے کو نہ لگے لیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے بس میں ہو، نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور جب احرام نہ ہو تو چہرہ کا ڈھلنا لازم ہے۔ یہ غلط ہے کہ مکہ مکرمہ میں یا سفر حج میں پردہ ضروری نہیں، عورت کا باریک کپڑا پہن کر (جس میں سے سر کے بال جھلکتے ہوں) نماز اور طواف کے لئے آنا حرام ہے اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ طواف میں عورتوں کو چاہئے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں۔ ورنہ گنہگار ہوں گی اور ”نیکی برباد، گنہ لازم“ کا مضمون صادق آئے گا، عورتوں کو چاہئے کہ حج کے دوران بھی نمازیں اپنے گھر پر پڑھیں گھر پر نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا ان کا گھر پر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور طواف کے لئے رات کو جائیں اس وقت رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔

حج و عمرہ کے دوران ایام حیض کو دوا سے بند کرنا

س..... کیا شرعاً یہ جائز ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران خواتین کوئی ایسی دوا استعمال کریں کہ جس سے ایام نہ آئیں اور وہ اپنا عمرہ یا حج صحیح طور پر ادا کر لیں؟
ج..... جائز ہے۔ لیکن جبکہ ”ایام“ حج و عمرہ سے مانع نہیں تو انہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ ایام کی حالت میں صرف طواف جائز نہیں، باقی تمام افعال جائز ہیں۔

حاجی مکہ، منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہو گا یا مسافر

س..... حاجی مکہ میں مسافر ہو گا یا مقیم جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے مگر اس قیام کے دوران وہ منیٰ اور عرفات بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے۔ ایسی صورت میں وہ مقیم ہو گا یا مسافر اور منیٰ اور مکہ شہر واحد کے حکم میں ہیں یا دو الگ الگ شہر؟

ج..... مکہ، منیٰ، عرفات اور مزدلفہ الگ الگ مقامات ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر پندرہ دن رہنے کی نیت سے آدی مقیم نہیں ہوتا۔ پس جو شخص ۸ ذوالحجہ کو منیٰ جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ مکرمہ آ گیا ہو تو وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گیا۔ اب وہ منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہو گا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ مکرمہ آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ منیٰ کو روانگی ہو گئی تو یہ شخص مکہ مکرمہ میں بھی مسافر ہو گا اور منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیرہویں تاریخ کو منیٰ سے واپسی کے بعد اگر اس کا ارادہ پندرہ دن مکہ مکرمہ میں رہنے کا ہے تو اب یہ شخص مکہ مکرمہ میں مقیم بن جائے گا لیکن اگر منیٰ سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو یہ شخص بدستور مسافر ہی رہے گا۔

آٹھویں ذوالحجہ کو کس وقت منیٰ جانا چاہئے

س..... آٹھویں ذوالحجہ کو کس وقت منیٰ جانا چاہئے؟ کیا سورج نکلنے سے قبل منیٰ جانا جائز ہے؟

ج..... آٹھویں ذوالحجہ کو کسی وقت بھی منیٰ جانا مسنون ہے البتہ مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پر پڑھے۔ سورج نکلنے سے قبل جانا خلاف اولیٰ ہے، مگر جائز ہے۔

دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منیٰ کے باہر گزارنا خلاف سنت ہے

س..... ایک شخص نے منیٰ میں قربانی کرنے اور احرام کھولنے کے بعد ۱۰ اور ۱۱ ذوالحجہ کی درمیانی شب مکمل اور ۱۱ ذوالحجہ کا آدھا دن مکہ مکرمہ میں گزارا اور باقی دن منیٰ میں۔ اور وہاں ۱۲ ذوالحجہ کی رومی تک رہا۔ اس شخص کا کیا حکم ہے؟
ج..... منیٰ میں رات گزارنا سنت ہے۔ اس لئے اس نے خلاف سنت کیا۔ مگر اس کے ذمہ دم وغیرہ واجب نہیں۔

منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو حج ہوا یا نہیں

س..... جدہ سے بہت سے افراد گروپ حج کا انتظام کرتے ہیں جو مقررہ معلوضے کے عوض لوگوں کے خیمے (رہائش) خوراک اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں اور حج کراتے ہیں۔ اس بار میں نے اپنی فیملی کے ہمراہ ایسے ہی ایک ادارے سے مقررہ رقم دیکر بنگلہ کرائی، منیٰ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ان کے خیمے حکومت کی بتائی ہوئی منیٰ کی حدود کے عین باہر ہیں، اب ایسے وقت آپ کچھ بھی بحث کریں نہ رقم واپس مل سکتی ہے۔ اور نہ باوجود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متبادل انتظام ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب نے تمام مناسک حج پورے کئے اور منیٰ میں وہیں قیام کیا جو کہ منیٰ سے چند قدم باہر تھا، بہت سے سعودی اور دوسری قومیتوں کے لوگ بھی وہاں قیام پذیر تھے اور حکومت کی دیگر سولتیس وہاں بھی اس طرح مہیا کی گئی ہیں جس طرح کہ منیٰ کے اندر دیگر جگہوں پر ہیں بلکہ کچھ ملکوں جیسے عراق وغیرہ کے باقاعدہ حکومت سے منظور شدہ معلوموں کے خیمے بھی وہاں تھے۔ اب آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں کہ ان حالات میں منیٰ کی حد سے چند قدم باہر قیام کرنے پر ہمارے حج میں کیا کوئی نقص رہا یا نہیں؟
ج..... منیٰ کی حدود سے باہر رہنے کی صورت میں منیٰ میں رات گزارنے کی سنت ادا نہیں ہوگی، حج ادا ہو گیا۔

حاجی منیٰ اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے

س..... اس سئل میں نے حج کیا چونکہ پہلے ہم مدینہ شریف کی زیارت کر کے آگئے بعد میں حج کا

ٹائم ہوا۔ اور پھر ہم مکہ سے منی کے لئے روانہ ہوئے منی میں قیام کے دوران ہم نے تمام نمازیں قصر ادا کیں کیا ہماری تمام نمازیں قبول ہو گئیں؟

ج..... اگر آپ منی جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ مکرمہ آگئے تھے تو آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے اور منی عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہی رہے، آپ کو پوری نماز پڑھنی لازم تھی، اس لئے آپ کی یہ نمازیں نہیں ہوئیں ان کو دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر منی جانے سے پندرہ دن پہلے آپ نہیں آئے تھے، بلکہ منی جانے میں اس سے کم مدت کا وقفہ تھا تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی مسافر تھے، اور منی عرفات میں بھی مسافر ہے اس لئے آپ کا قصر پڑھنا صحیح تھا۔

حج اور عمرہ میں قصر نماز

س..... کوئی مسلمان جب عمرہ اور حج مبارک کی نیت سے سعودی عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائض کی رکعتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضروری ہوگا؟ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا حج کرنا ہے (د) کعبۃ اللہ اور مسجد نبویؐ میں بھی قصر نماز پڑھنی ضروری ہوگی؟

ج..... کراچی سے مکہ مکرمہ تک تو سفر ہے اس لئے قصر کرے گا اگر مکہ مکرمہ میں ۱۵ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا موقع ہو تو مقیم ہو گا اور پوری نماز پڑھے گا اور اگر مکہ مکرمہ میں ۱۵ دن ٹھہرنے کا موقع نہیں، مثلاً چودھویں دن اس کو منی جانا ہے (یا اس سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے) تو مکہ مکرمہ میں بھی مسافر ہی رہے گا اور قصر کرے گا۔

عرفات، منی، مکہ مکرمہ میں نماز قصر پڑھنا

س..... آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ تحریر کر رہا ہوں، یہ مسئلہ صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کا ہے، براہ مہربانی تفصیل سے جواب دیجئے تاکہ لاکھوں انسانوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہوائی جہاز سے جانے والے عازمین حج کو اس سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک ماہ دو روز کی واپسی کی تاریخ ملی تھی، تقریباً نصف حاجیوں کو روانہ ہونے سے پہلے اطلاع ملی کہ مدینہ شریف حج کے بعد جانے کی اجازت ہے، حج سے پہلے نہیں جاسکتے۔ میرا جہاز جس روز مکہ شریف پہنچا ہے تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کو منی جانے میں صرف دس روز باقی تھے۔ اور ان تمام حاجیوں کو ۲۲ روز مکہ شریف اور حج کے سفر میں گزارنے ہیں اور آخر کے دس روز مدینہ شریف

اور جدہ میں گزارنے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو مدینہ شریف حج سے پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کی اطلاع جانے سے پہلے ہی کراچی میں مل گئی تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ پانچ روز جو حج کے سفر میں گزارے جو مکہ شریف سے تقریباً چار چھ میل کے فاصلہ پر ہے توج کے سفر کے دوران نمازیں بحیثیت مقیم پڑھنی ہیں یا قصر، اور مکہ شریف میں کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سے رہ جائے تو وہ نماز مقیم پڑھنی ہے یا قصر۔ مدینہ شریف اور جدہ میں تو بہر حال قصر ہی پڑھنی ہیں کیونکہ یہاں پندرہ روز سے کم کا قیام ہے۔

حج..... مقیم ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ ایک ہی جگہ کم از کم پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو اور مکہ مکرمہ، منی، عرفات یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ الگ الگ تین جگہیں ہیں اس لئے جن لوگوں کو منی جانے سے پہلے مکہ شریف میں پندرہ دن ٹھہرنے کا وقفہ مل جائے وہ مقیم ہوں گے۔ اور منی، عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے، اسی طرح منی کے اعمل سے فارغ ہو کر پندرہ دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہو تب بھی مقیم ہوں گے لیکن جن لوگوں کو منی سے آنے کے بعد بھی مکہ شریف میں پندرہ دن ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا وہ مسافر ہوں گے۔ چنانچہ آپ مسافر تھے۔

وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہئے

س..... یوم عرفہ کو وقوف کی نیت کس وقت کرنی چاہئے؟

ج..... وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کو زوال کے بعد جس وقت بھی میدان عرفات میں داخل ہو جائے وقوف عرفہ کی نیت کرنی چاہئے۔ اگر نیت نہ بھی کرے اور وقوف ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔

عرفات کے میدان میں ظہر و عصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے

س..... یوم الحج یعنی ۹ ذوالحجہ کو مقام عرفات میں مسجد نمبرہ میں جو ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چار میل ہے اور قصر کے لئے مقام قیام سے ۲۸ میل یا ایسے ہی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے؟

ج..... ہمارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے۔ مقیم پوری نماز پڑھے گا۔

سعودی حضرات کے نزدیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے اس لئے امام خواہ مقیم ہو، قصری کرے گا۔

عرفات میں نماز ظہر و عصر جمع کرنے کی شرط

س..... عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر ملا کر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہو سکا اور اب اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اسے دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہوں گی یا دونوں نمازیں اکیلے ہونے کی صورت میں بھی اکٹھی پڑھے گا نیز اگر اپنے خیمے میں دوسری جماعت کے ساتھ شریک ہو تو امام کو صرف ظہر پڑھانی چاہئے یا ظہر اور عصر اکٹھی؟

ج..... عرفات میں ظہر اور عصر جمع کرنے کے لئے امام اکبر کے ساتھ جو مسجد نمبرہ میں ظہر و عصر پڑھاتا ہے، اس جماعت میں شرکت شرط ہے، پس جو لوگ مسجد نمبرہ کی دونوں نمازوں (ظہر و عصر) یا کسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے لئے ظہر و عصر کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ جماعت کرائیں یا اکیلے اکیلے نماز پڑھیں، ان کے لئے ظہر و عصر کو جمع کرنا جائز نہیں۔

عرفات میں ظہر و عصر اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء یکجا پڑھنا

س..... حج کے موقع پر حجاج کرام کو ایک مقام پر دو نمازوں کو یکجا پڑھنے کا حکم ہے لہذا مطلع کریں وہ دو وقت کی نمازیں کون سی ہیں؟ اور اگر کوئی شخص ان دو نمازوں کو یکجا نہ پڑھے (جان بوجھ کر) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھے تو کیا اس شخص کی نمازیں قبول ہوں گی؟

ج..... عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے بشرطیکہ مسجد نمبرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی جائیں۔ اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرائی جائے۔ اور یوم عرفہ کی شام کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جلتے ہیں اور نماز مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ پہنچ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستہ میں پڑھ لی تو جائز نہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ مغرب کی نماز پڑھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے۔

س..... کیا مزدلفہ میں نمازیں جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں؟ فرداً فرداً پڑھتے ہیں؟
ج..... نہیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

مزدلفہ اور عرفات میں نمازیں جمع کرنا اور ادا کرنے کا طریقہ

س..... عرفات میں ظہر و عصر کو جو اکٹھے یعنی جمع کر کے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں اس کے لئے کیا کیا شرائط ہیں کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرائط کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے لئے کیا تاوان ہے اور کیا حکم ہے؟

ج..... مسجد نمبرہ کے امام کے ساتھ ظہر و عصر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے مگر اس کے لئے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قصر صرف امام مسافر کر سکتا ہے اگر امام مقیم ہو تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنا یہ تھا کہ مسجد نمبرہ کا امام مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے اس لئے حنفی ان کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے، لیکن اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ امام مسافر ہوتا ہے تو حنفیہ کے لئے امام کی ان نمازوں میں شریک ہونا صحیح ہے ورنہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر اپنے خیموں میں ادا کریں۔

س..... اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں اس کے لئے بھی کیا شرائط ہیں اور ان دونوں کو جمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور کیا مرد اور عورتوں تمام پر ضروری ہے کوئی مستثنیٰ بھی ہیں اور جو اس کو قصد ترک کرے یا سہواً تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

ج..... مزدلفہ میں مغرب و عشاء کا جمع کرنا حاجیوں کے لئے ضروری ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ان کے لئے جائز نہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک ہوا حکم ہے۔

س..... مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء کو جمع کریں گے آیا ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آیا ان دونوں نمازوں کو دو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ یا ایک اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ یہ بھی بتلائیں کہ مغرب و

عشاء کے درمیان مغرب کی سنتیں یا نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کر فوراً عشاء کی نماز پڑھیں گے؟

ج..... مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں اگر جماعت نہ ملے تو اکیلا پڑھ لے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں اور اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دوبارہ اقامت کی جائے۔

مزدلفہ میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم

س..... مزدلفہ پہنچ کر عشاء اور مغرب نماز پڑھنے کے بعد سنت اور وتر واجب پڑھنے ضروری ہیں یا کہ نہیں؟

ج..... وتر کی نماز تو واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مقیم اور مسافر ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔ باقی رہیں سنتیں! تو سنن موکدہ کا ادا کرنا مقیم کے لئے تو ضروری ہے۔ مسافر کو اقتید ہے کہ پڑھے یا نہ پڑھے۔

مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے اور وادی محسر میں وقوف کرنا اور نماز ادا کرنا

س..... مسئلہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں تورات کو عرفہ سے پہنچیں گے اس کے بعد اس کا وقوف کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور کب تک ہوتا ہے اور اس میں (مزدلفہ) میں فجر کی نماز کس وقت پڑھیں گے آیا اول وقت میں یا آخر وقت میں ساتھ یہ بتلائیں کہ اگر کوئی شخص اس وادی میں جو کہ مزدلفہ کے ساتھ ہے جس میں اصحاب لیل کا واقعہ پیش آیا تھا نماز ادا کر لے پھر معلوم ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں جلدی سے گزرنے کا حکم ہے تو کیا نماز کو لوٹائے گا یا ادا ہو جائے گی؟

ج..... وقوف مزدلفہ کا وقت ۱۰ اذوالحجہ کو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی اول وقت نماز فجر ادا کی جائے۔ نماز سے فدا ہو کر وقوف کیا جائے اور سورج نکلنے سے پہلے تک دعا و استغفار اور تضرع و بہتال میں مشغول ہوں۔ جب

سورج نکلنے کے قریب ہو تو منیٰ کی طرف چل پڑیں وادی محسر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر بے خبری میں پڑھ لی تو خیر نماز تو ہو گئی لیکن وادی محسر میں وقوف جائز نہیں۔

یوم النحر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے

س..... فضائل حج صفحہ ۲۱۲، ۲۱۵ پر دسویں تاریخ کا ذکر ہے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”اس دن میں چار کام کرنے ہیں۔ رمی، ذبح، سرمنڈانا اور طواف زیارت کرنا“ یہی ترتیب ان کی ہے۔ اس میں بہت سے حضرات سے بھول وغیرہ کی وجہ سے ترتیب میں تقدم و تاخر ہوا۔ ہر شخص آکر عرض کرتا کہ مجھ سے بجائے اس کے ایسا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اب اس ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہو تو دم واجب بتایا جاتا ہے۔ (معلم الحجاج صفحہ ۲۵۳) اگر مفرد یا قادن نے یا متمتع نے رمی سے پہلے سر منڈایا، یا قادن اور متمتع نے ذبح سے پہلے سر منڈایا، قادن اور متمتع نے رمی سے پہلے ذبح کیا تو دم واجب ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمادیں۔

ج..... یوم النحر کے چار افعال ہیں۔ یعنی رمی، ذبح، حلق اور طواف زیارت۔ اول الذکر تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ تقدیم و تاخیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ مگر طواف زیارت اور تین افعال مذکورہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس اگر طواف زیارت ان تین سے پہلے کر لیا جائے تو کوئی دم لازم نہیں۔ حدیث میں ان تین افعال کے آگے پیچھے کرنے والوں کو جو فرمایا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں، حنفیہ اس میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس وقت افعال حج کی تشریح ہو رہی تھی، اس لئے خاص اس موقع پر بھول چوک کر تقدیم و تاخیر کرنے والوں کو گناہ سے بری قرار دیا۔ مگر چونکہ دوسرے دلائل سے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لئے دم واجب ہوگا۔ واللہ اعلم

دم کہاں ادا کیا جائے

س..... عرض یہ ہے کہ ہم سب سے دور ان حج احرام باندھنے کے سلسلے میں غلطی ہو گئی تھی جس کا ہم کو دم ادا کرنا ہے، لیکن ہم یہ ادا نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ دوبارہ جانے کی سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ہم چھٹی پر کراچی چلے ہیں،

پس عرض یہ ہے کہ یہ دم جو ہم کو ادا کرنا ہے، کیا کراچی میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟
 حج و عمرہ کے سلسلہ میں جو دم واجب ہوتا ہے اس کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری
 ہے۔ دوسری جگہ ذبح کرنا درست نہیں۔ آپ کسی حاجی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں اور اس
 کو تاکید کر دیں کہ وہ وہاں بکرا خرید کر حدود حرم میں ذبح کراوے، اس کا گوشت صرف
 فقراء و مساکین کھا سکتے ہیں، مالدار لوگ نہیں کھا سکتے۔

رمی

(شیطان کو کنکریاں مارنا)

شیطان کو کنکریاں مارنے کی کیا علت ہے

س..... حج مبارک کے موقع پر شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیا اس کی علت وہ ہاتھیوں کا لشکر ہے جس پر اللہ جل شانہ نے کنکریاں برسوا کر پابل کیا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدد دفعہ برکایا تھا؟ ممکن ہے اس موقع کی علتیں بہت سی ہوں، امید ہے راجح علت تحریر فرما کر ہمارے مسئلہ کا حل فرمادیں گے۔

ج..... غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہی اس کا سبب ہے مگر یہ علت نہیں۔ ایسے امور کی علت تلاش نہیں کی جاتی۔ بس جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جاتی ہے اور حج کے اکثر افعال و امرکان عاشقانہ انداز کے ہیں کہ عقلاء ان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔

شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت

س..... شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کنکریاں مارنا جائز ہے؟ برائے میرانی اس کو بھی تفصیل سے تحریر فرمائیں۔

ج..... پہلے دن دسویں زوالحجہ کو صرف جرہ عقبہ (بڑا شیطان) کی رمی کی جاتی ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے مگر طلوع آفتاب سے پہلے رمی کرنا خلاف سنت ہے۔ اس کا وقت مسنون طلوع آفتاب سے زوال تک ہے۔ زوال سے غروب تک بلاکراہت جواز کا وقت ہے۔ اور غروب سے اگلے دن کی صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو تو غروب کے بعد بھی بلاکراہت جائز ہے۔ گیارہویں اور

بارہویں کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک بلا کراہت اور غروب سے صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ مگر آج کل ہجوم کی وجہ سے غروب سے پہلے رمی نہ کر سکے تو غروب کے بعد بلا کراہت جائز ہے۔ تیرہویں تلمیح کی رمی کا مسنون وقت تو زوال کے بعد ہے لیکن صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی رمی کرنا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

رات کے وقت رمی کرنا

س..... رمی حمرات کے وقت کافی رش ہوتا ہے اور حجاج پاؤں تلے دب کر مرجاتے ہیں، تو کیا کمزور مرد و عورت بجائے دن کے رات کے کسی حصہ میں رمی کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہاں کے علماء کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے رمی جملہ کر سکتے ہیں؟

ج..... طاقتور مردوں کو رات کے وقت رمی کرنا مکروہ ہے۔ البتہ عورتیں اور کمزور مرد اگر عذر کی بنا پر رات کو رمی کریں تو ان کے لئے نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

رمی جملہ میں ترتیب بدل دینے سے دم واجب نہیں ہوتا

س..... ایک صاحب نے اس سال حج بیت اللہ ادا فرمایا اور شیطانوں پر کنکریاں ملنے کے سلسلہ میں تاریخ دس، گیلہ، بارہ یعنی تین یوم میں بھول یا غلطی سے جمرہ عقبی سے شروع ہو کر جمرہ اول پر ختم کیں تو اس غلطی و بھول کی کیا سزا و جزا ہے؟ اس سے حج میں فرق آیا یا نہیں؟

ج..... چونکہ حمرات میں ترتیب سنت ہے واجب نہیں ہے اور ترک سنت پر دم نہیں آتا اس لئے نہ حج میں کوئی خرابی آئے گی اور نہ دم واجب ہوگا۔ البتہ ترک سنت سے کچھ اسماء ت آتی ہے یعنی خلاف سنت کام کیا۔ صورت مسئلہ میں اگر یہ شخص جمرہ اولیٰ کی رمی کے بعد علی الترتیب جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی رمی دوبارہ کر لیتا تو اس کا نفل سنت کے مطابق ہو جاتا۔ اور اسماء ت ختم ہو جاتی۔

دسویں ذی الحجہ کو مغرب کے وقت رمی کرنا

س..... لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ دسویں ذی الحجہ کو رمی کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے،

خواتین ہمارے ساتھ تھیں۔ ہم نے صبح کے بجائے مغرب کے وقت رمی کی، کیا یہ عمل صحیح ہوا؟

ج..... مغرب تک رمی کی تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک رمی نہ کر لیں تب تک تمتع اور قرآن کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اور جب تک قربانی نہ کر لیں، ہل نہیں کنا سکتے۔ اگر آپ نے اس شرط کو ملحوظ رکھا تو ٹھیک کیا۔

کسی سے کنکریاں مروانا

س..... میں نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کیا ہے۔ چونکہ میرے شوہر بہت بیمار ہو گئے تھے اور میرے ساتھ لپٹا کوئی خاص نہیں تھا جس کی وجہ سے میں کنکریاں خود نہیں مار سکی۔ نہ میرے شوہر۔ ہمارے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئی کنکریاں مارنے، ان کی طرف سے اور میری اور میرے شوہر کی طرف سے ہمارے ساتھ والے مردوں نے ہی کنکریاں مار دیں۔ میں نے ایک کتب میں پڑھا ہے کہ جو آدمی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ کنکریاں خود مارے اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا نذیہ دے۔ اب مجھے بہت فکر ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم نے اپنی قربانی بھی انہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔ ج..... آپ کے ذمہ قربانی لازم ہو گئی مکہ جانے والے کسی آدمی کے ہاتھ رقم بھیج دیجئے اور اس کو تاکید کر دیجئے کہ وہ بکری ذبح کرادے۔

کیا ہجوم کے وقت خواتین کی کنکریاں دوسرا مار سکتا ہے

س..... خواتین کو کنکریاں خود ملنی چاہئیں۔ دن کو رش ہو تو رات کو ملنی چاہئیں کیا خواتین خود مارنے کے بجائے دوسروں سے کنکریاں مروا سکتی ہیں؟ ج..... رات کے وقت رش نہیں ہوتا، عورتوں کو اس وقت رمی کرنی چاہئے خواتین کی جگہ کسی دوسرے کاری کرنا صحیح نہیں البتہ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ رمی کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی جگہ رمی کرنا جائز ہے۔

حجرات کی رمی کرنا

س..... دوسرے کی طرف سے منیٰ میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟

ج..... حالت عذر میں دوسرے کی طرف سے رمی کرنے کا طریقہ فقہاء نے یوں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کنکریاں مارے اور پھر دوسرے کی طرف سے نیابت کے طور پر سات کنکریاں مارے۔ ایک کنکری اپنی طرف سے مارنا اور دوسری دوسرے شخص کی طرف سے مارنے کو مکروہ لکھا ہے۔

بیمار یا کمزور آدمی کا دوسرے سے رمی کروانا

س..... ایک شخص بیلہری یا کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے اب وہ حجرات کی رمی کس طرح کرے؟ کیا وہ کسی دوسرے سے رمی کروا سکتا ہے؟

ج..... جو شخص بیلہری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو اور حجرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف ہوتی ہو تو وہ معذور ہے اور اگر اس کو آنے میں مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو اب اس کو خود رمی کرنا ضروری ہے اور دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں۔ ہاں! اگر سواری یا اٹھانے والا نہ ہو تو وہ معذور ہے اور معذور دوسرے سے رمی کر سکتا ہے۔ جس کو معذوری نہ ہو اس کا دوسرے کے ذریعہ رمی کرانا جائز نہیں، بہت سے لوگ محض جہوم کی وجہ سے دوسرے کو کنکریاں دے دیتے ہیں، ان کی رمی نہیں ہوتی۔ البتہ سخت جہوم میں ضعیف و ناتواں لوگ پس جاتے ہیں گو وہ چلنے سے معذور نہیں۔ لہذا ان کے لئے رات کو رمی کرنا افضل ہے۔

دس ذوالحجہ کو رمی جملہ کے لئے کنکریاں دوسرے کو دے کر چلے آنا جائز نہیں

س..... میرے ایک دوست جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اس مرتبہ ان کا ارادہ حج کرنے کا بھی ہے اور اپنے وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی۔ جبکہ عربی کیلنڈر کے مطابق عربی کی دس بروز حجرات ہے اور اس طرح سے حج جمعرات کو ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان کو کنکریاں مارنے کیلئے تین دن تک منی میں رکنا پڑتا ہے۔ میرے دوست چاہتے ہیں کہ جمعہ کی صبح والی فلائٹ سے انڈیا روانہ ہو جائیں اور اپنی کنکریاں مارنے کیلئے کسی دوسرے شخص کو دے دیں تو کیا اس صورت میں اس کے حج کے تمام فرائض ادا ہو جاتے ہیں؟ اور حج مکمل ہو جاتا ہے یا کہ نہیں؟

ج..... جمرات کی رمی واجب ہے اور اس کے ترک پر دم لازم آتا ہے۔ آپ کے دوست بارہویں تاریخ کو زوال کے بعد رمی کر کے جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔ اپنی کنکریاں کسی دوسرے کے حوالے کر کے خود چلے آنا جائز نہیں۔ ان کا حج ناقص رہے گا ان کا دم لازم آئے گا۔ اور وہ تصدداً حج کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ تعجب ہے کہ ایک شخص اتنا خرچ کر کے آئے اور پھر حج کو ادھر اور ادھر ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر ایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے؟ واضح رہے کہ جو شخص خود رمی کرنے پر قادر ہو اس کی طرف سے کسی دوسرے شخص کا رمی کر دینا کافی نہیں۔ بلکہ اس کے ذمہ بذات خود رمی کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا بیلہ یا معذور ہو کہ خود جمرات تک آنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیت جائز ہے کہ اس کے حکم سے دوسرا شخص اس کی طرف سے رمی کر دے۔

۱۲ ذی الحجہ کو زوال سے پہلے رمی کرنا درست نہیں

س..... ۱۲ ذی الحجہ کو اکثر دیکھا گیا کہ لوگ زوال سے پہلے رمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رش ہو جائے گا اس لئے قبل از وقت مد کر نکل جاتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عمل درست ہے اور اگر درست نہیں تو جس نے کر لیا اس پر کیا تاوان آئے گا اس کا حج درست ہو یا فاسد؟

ج..... صرف دس ذی الحجہ کی رمی زوال سے پہلے ہے ۱۱- ۱۲ کی رمی زوال کے بعد ہی ہو سکتی ہے اگر زوال سے پہلے کر لی تو وہ رمی ادا نہیں ہوئی اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ البتہ تیرہویں تاریخ کی رمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز ہے۔

عورتوں اور ضعفاء کا بارہویں اور تیرہویں کی درمیانی شب میں رمی کرنا

س..... عورتوں اور ضعفاء کے لئے تورات کو کنکریاں ملنا جائز ہے لیکن بارہویں ذی الحجہ کو اگر غروب آفتاب کے بعد ٹھہریں اور رات کو رمی کریں تو کیا ان پر تیرہویں کی رمی بھی لازم ہوئی ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟

ج..... بارہویں تاریخ کو بھی عورتیں و دیگر ضعیف و کمزور حضرات رات کو رمی کر سکتے ہیں۔ بارہویں تاریخ کو منیٰ سے غروب آفتاب کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس لئے اگر تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منیٰ سے نکل جائیں تو تیرہویں تاریخ کی رمی لازم نہیں ہوگی۔ اور اس کے چھوڑنے پر دم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی فجر بھی منیٰ میں ہوگئی تو پھر تیرہویں کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے اس کے چھوڑنے سے دم لازم آئے گا۔

تیرہویں کو صبح سے پہلے منیٰ سے نکل جائے تو رمی لازم نہیں

س..... مسئلہ یہ ہے کہ بارہویں تاریخ کو ہم یعنی عورتوں نے رات کو رمی کا فعل ادا کیا اور پھر غروب کے بعد وہاں سے نکلے۔ پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ غروب کے بعد نکلنے سے تیرہ کا ٹھہرنا ضروری تو نہیں ہو گیا کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں بتلایا کہ بارہ کو منیٰ سے دیر سے نکلنے پر تیرہ کی رمی کرنا واجب ہو جاتی ہے اور یہ بھی بتلائیں کہ ہمارے ان عملوں سے کوئی حج میں نقص و فساد تو نہیں آیا اگر آیا تو اس کا تاوان کیا ہے؟

ج..... بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد منیٰ سے نکلنا مکروہ ہے مگر اس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رمی لازم نہیں ہوتی بشرطیکہ صبح صادق سے پہلے منیٰ سے نکل گیا ہو۔ اور اگر منیٰ میں تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہوگئی تو اب تیرہویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہوگئی۔ اب اگر رمی کئے بغیر منیٰ سے جائے گا تو دم لازم ہوگا۔

حج کے دوران قربانی

کیا حاجی پر عید کی قربانی بھی واجب ہے

س..... جو حضرات پاکستان سے حج کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے وہاں حج کے دوران ایک قربانی واجب ہے یا دو واجب ہیں اور اگر ایک قربانی کر دی ہو تو اب کیا کیا جائے؟
 حج..... جو حاجی صاحبان مسافر ہوں اور انہوں نے حج تمتع یا قرآن کیا ہو ان پر صرف حج کی قربانی واجب ہے اور اگر انہوں نے حج مفرد کیا ہو تو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں اور جو حاجی مسافر نہ ہوں بلکہ منیم ہوں ان پر بشرط استطاعت عید کی قربانی بھی واجب ہے۔

کیا دوران حج مسافر کو قربانی معاف ہے

س..... کیا مسافرت میں قربانی معاف ہے، دوران حج جب کہ حالت سفر ہوتی ہے اس وقت بھی قربانی معاف ہے؟

ج..... دوران سفر عام طور پر حاجی سفر میں ہوتا ہے اس لئے اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں، البتہ اگر حاجی نے حج تمتع یا حج قرآن کا احرام باندھا ہے تو اس پر اس حج کی قربانی واجب ہوگی عید الاضحیٰ کی نہیں۔ البتہ اگر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کر لے تو ثواب ہوگا۔

حج افراد میں قربانی نہیں چاہے پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا

س..... ہلدا تیسرا حج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے حج پر لازمی ہے؟
 ج..... حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی۔ خواہ پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا اور تمتع یا قرآن ہو تو قربانی لازم ہے۔ خواہ پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا۔

حج میں قربانی کریں یا دم شکر

س..... اب تک تو میں نے سنا تھا کہ قربانی ایک ہوتی ہے جو کہ عرصہ سے ہم ادھر کرتے آئے ہیں۔ آج ہمارے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ دم ہے حج کا اور قربانی کا کرنا حلالی پر ضروری نہیں کیونکہ حلالی مسافر ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ بات مکمل تک درست ہے؟

ج..... جس شخص کا حج تمتع یا قرآن ہو اس پر حج کی وجہ سے قربانی واجب ہے اس کو دم شکر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر حج و عمرہ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کو دم کہتے ہیں۔

بقرعید کی عام قربانی دو شرطوں کے ساتھ واجب ہے، ایک یہ کہ آدمی مقیم ہو مسافر نہ ہو۔ دوم یہ کہ حج کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر مقیم نہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر حج کے ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔

رمی مؤخر ہونے پر قربانی بھی بعد میں ہوگی

س..... جہوم وغیرہ کی وجہ سے اگر عورت رات تک رمی مؤخر کرے تو کیا اس کے حصے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟

ج..... جس شخص کا تمتع یا قرآن کا احرام ہو اس کیلئے رمی اور قربانی میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر احرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قرآن کیا ہو اگر وہ جہوم کی وجہ سے رات تک رمی کو مؤخر کرے تو قربانی کو بھی رمی سے فلغ ہونے تک مؤخر کرنا لازم ہوگا۔ جب تک وہ رمی نہ کرے اس کے حصے کی قربانی نہیں ہو سکتی اور جب تک قربانی نہ ہو جائے، اس کا احرام نہیں کھل سکتا۔

کسی ادارہ کو رقم دیکر قربانی کروانا

س..... حج کے موقع پر ایک ادارہ رقم لے کر رسید جلدی کرتا ہے اور وقت دے دیتا ہے کہ فلاں وقت تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی، چنانچہ فلاں وقت بال کٹوا کر احرام کھول دینا،

لیکن بغیر تصدیق کے بل کٹا کر احرام کھولنا چاہئے یا نہیں؟
ج..... اگر قربانی سے پہلے بل کٹا دیئے جائیں تو دم لازم آتا ہے، چونکہ اس صورت میں یہ یقین نہیں کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانی ہو گئی، اس لئے یہ صورت صحیح نہیں۔

حاجی کا قربانی کیلئے کسی جگہ رقم جمع کروانا

س..... قربانی کے لئے مدرسہ صولتیہ میں رقم جمع کروائی۔ اپنے ہاتھ سے یہ قربانی نہیں کی یہ عمل صحیح ہوا؟

ج..... حاجی کو مزدلفہ سے منی آکر چلہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ (۱) رمی (۲) قربانی (۳) حلق (۴) طواف افاضہ، پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے، یعنی سب سے پہلے رمی کرے، پھر قربانی کرے (جبکہ حج تمتع یا قرآن کیا ہو) اس کے بعد بل کٹائے، اگر ان تین کاموں میں ترتیب قائم نہ رکھی مثلاً رمی سے پہلے قربانی کر دی،

یا حلق کر لیا، یا قربانی سے پہلے حلق کر لیا تو دم واجب ہے۔ اب آپ نے جو صولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رمی کے بعد اور حلق سے پہلے ہو، اگر آپ نے رمی نہیں کی تھی کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو دم لازم آیا، یا انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے حلق کر لیا تب بھی دم لازم آگیا۔ اس لئے ان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی۔

یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ آپ نے حج قرآن یا تمتع کیا ہو لیکن اگر آپ نے صرف حج مفرد کیا تھا تو قربانی آپ کے ذمہ واجب نہیں تھی اور آپ رمی کے بعد حلق کر سکتے ہیں۔

بینک کے ذریعہ قربانی کروانا

س..... میں اور میری بیوی کالج پر جانا ہوا۔ حج سے پہلے ہم نے قربانی کے پیسے وہاں کے بینک میں جمع کر دیئے تاکہ اس دن منہ خانہ جلنے کی پریشانی نہ ہو لیکن یہاں آکر میرے بھائی نے بتلایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس بنا پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے اور پھر اس عمل سے حج میں کوئی نقص آیا ہو گا وہ نقص کیا ہے اور اب اس کا کیا تاوان ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی پوری ہو جائے؟

ج..... جس شخص کا حج تمتع یا قرآن کا ہو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ

پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد حلق کرایا جائے۔ اگر قربانی سے پہلے حلق کر لیا تو دم واجب ہوگا۔ آپ نے بینک میں جو رقم جمع کرائی، آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہو جانے کے بعد آپ نے حلق کرایا یا پہلے کر لیا، اس لئے آپ کے ذمہ احتیاطاً دم لازم ہے۔

س..... اکثر حج کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کے بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں اور پھر دسویں ذوالحجہ کو رمی کے بعد فوراً حلق کر کے احرام اتار لیتے ہیں حالانکہ بینک والے قربانی بے ترتیب اور بغیر حساب کے مسلسل تین دن تک کرتے ہیں جس میں کوئی معلوم نہیں کہ پہلے کس کی قربانی ہوگی تاکہ اس اعتبار سے حلال ہو، پوچھنا یہ ہے کہ حاجیوں کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا یہ لوگ بغیر قربانی کے احرام اتار سکتے ہیں یا نہیں اور مسنون اور واجب طریقہ کیا ہے؟

ج..... جس شخص کا حج تمتع یا قرآن ہو اس پر قربانی واجب ہے اور اس قربانی کا حلق سے پہلے کرنا واجب ہے، اگر حلق کر لیا اور قربانی نہیں کی تو دم لازم آئے گا جو لوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بینک والوں سے وقت کا تعین کرالیں اور پھر قربانی کے دن قربان گاہ پر اپنا آدمی بھیج کر اپنے نام کی قربانی کو ذبح کرا دیں اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک کسی حاجی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو چکی ہے یا نہیں اس وقت تک اس کا حلق کرنا جائز نہیں ورنہ دم لازم آئے گا اس لئے یا تو اس طریقہ پر عمل کیا جائے جو میں نے لکھا ہے یا پھر بینک میں رقم جمع ہی نہ کرائی جائے بلکہ اپنے طور پر قربانی کا انتظام کیا جائے۔

ایک قربانی پر دو دعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شمار ہوگی

س..... پچھلے سال حج کے دور ان میرے دوست نے قربانی کے لئے وہاں موجود تصالیٰ کو رقم ادا کی۔ جب جانور ذبح ہو گیا اور میرے دوست نے اس میں کچھ گوشت نکالنا چاہا تو وہاں کچھ لوگ آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور تو ہلکا ہے اور ہم نے تصالیٰ کو اس کی رقم ادا کی ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ تصالیٰ نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ پیسے لئے اور ایک ہی جانور ذبح کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کا فرض ادا ہو گیا یا اسے دوبارہ کرنی پڑے گی؟

حج..... چونکہ اس تعلق نے دوسری پارٹی سے پہلے سورا کیا تھا اس لئے وہ جانور ان کا تھا پتہ چلنے پر آپ کے دوست کو اپنی رقم واپس لے کر دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال قربانی ان کے ذمہ باقی ہے اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام اتار دیا اس لئے ایک دم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دو قربانیاں کریں۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کا احرام تمتع یا قرآن ہو۔ اور اگر حج مفرد کا احرام تھا تو ان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نہیں۔

حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے

س..... گزارش یہ ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کرتے ہیں، ان کو ایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دم کہلاتا ہے۔ اور ۱۰ اذوا الحجہ کو جو عام لوگ قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی (علیہ السلام) کہلاتا ہے۔ اب دریافت کرنا ہے کہ دم کا گوشت سوائے مساکین کے اہل ثروت کو کھانا منع ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں قریب قریب سب حاجی صاحبان یہی گوشت کھاتے ہیں۔ مجھے اس میں کافی تردد ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا؟

حج..... حج تمتع یا حج قرآن کرنے والا ایک ہی سفر میں حج و عمرہ ادا کرنے کی بنا پر جو قربانی کرتا ہے اسے دم ”شکر“ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم بھی عام قربانی جیسا ہے اس سے خود قربانی کرنے والا، امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر حج و عمرہ میں کوئی جنایت (غلطی) کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے، وہ دم ”جبر“ کہلاتا ہے۔ اس کا فقراء و مساکین میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ملدار لوگ اور دم دینے والا خود اس کو نہیں کھا سکتے۔

حلق

(بال منڈوانا)

ری جملہ کے بعد سر منڈانا

س..... بعض حامی صاحبان ۱۰ ازوالحجہ کو ننگریاں ملنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کٹوا لیتے یا سر منڈوا لیتے ہیں حالانکہ قربانی کے بعد ہی احرام سے فدیغ ہوا جاسکتا ہے، اس صورت میں کیا کوئی جزا واجب ہوتی ہے یا نہیں؟

ج..... اگر حج مفرد کا احرام ہو تو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں اس لئے ری کے بعد سر منڈا سکتا ہے اور اگر تمتع یا قرآن کا احرام تھا تو ری کے بعد پہلے قربانی کرے پھر احرام کھولے اگر قربانی سے پہلے احرام کھول دیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔

بار بار عمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے

س..... حج و عمرہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حج یا عمرہ کے بعد اگر سر کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو قصر نہیں ہو سکتی۔ حلق ہی کرنا پڑے گا اگر بال انگلی کے پورے سے بڑے ہیں پھر قصر ہو سکتی ہے۔ عرض ہے کہ جو لوگ طائف، جدہ یا مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے تو وہ ہر مہینے ۲-۳ عمرے ادا کرنا چاہیں اور ان کے بال چھوٹے ہوں تو کیا وہ ہمیشہ حلق ہی کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ حلق کروانے سے کم از کم ۲ ماہ تو بال اتنے نہیں بڑھتے کہ قصر کرائی جاسکے۔ اگر کوئی خوش نصیب ہر جمعہ کو عمرہ ادا کرنا چاہے اور حلق نہیں کروانا چاہتا تو کیا قصر کر سکتا ہے؟

ج..... قصر اس وقت ہو سکتا ہے جب سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر ہوں لیکن اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو حلق متعین ہے قصر صحیح نہیں، اس لئے جو حضرات بار بار عمرے کرنے

کا شوق رکھتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد حلق کرایا کریں۔ قصر سے ان کا احرام نہیں کھلے گا۔

حج و عمرہ میں کتنے بال کٹوائیں

س..... حج یا عمرہ مسلمان کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ان کو ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ رکن مقرر کئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں فریضوں میں ایک آخری رکن ہے، سر کے بال کٹانا۔ استرے سے یا مشین سے، یعنی سر کے ہر ایک بال کا چوتھا حصہ کٹنا چاہئے۔ آج کل جو لوگ حج یا عمرہ کے لئے آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام بال یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹانے کے بجائے قینچی سے ایک دو جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال بالکل کٹ دیتے ہیں اور یہ رکن اس طرح پورا کرتے ہیں، کیا اس طرح بال کٹانے سے رکن پورا ہو جاتا ہے۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بال استرے سے مونڈنا زیادہ افضل ہے۔ نہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا۔

ح..... احرام کھولنے کے لئے سر کے بال اتارنا ضروری ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ حلق کرنا ہے۔ یعنی استرے سے سر کے بال صاف کر دینا۔ یہ سب سے افضل ہے اور ایسے لوگوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار رحمت کی دعا فرمائی۔ جو لوگ دور دور سے سفر کر کے حج و عمرہ کے لئے جاتے ہیں اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بار کی دعائے رحمت سے محروم رہتے ہیں ان کی حالت بہت ہی افسوس کے لائق ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بالوں کے عشق میں دعائے خیر سے محروم ہو جانے کو گوارا کر لیا۔ گویا ان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے۔

کہے بھی گئے پر نہ چھنا عشق بتوں کا
اور زمزم بھی پیا پر نہ بھجی آگ جگر کی

دوسرا درجہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال مشین یا قینچی سے اتار دیئے جائیں۔ اس کی فضیلت حلق (سر منڈانے) کے برابر نہیں۔ لیکن تین مرتبہ حلق کرانے والوں کے لئے دعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ دعا میں ان لوگوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ دیئے جائیں۔

جو شخص چوتھائی سر کے بال نہ کٹوائے اس کا احرام ہی نہیں کھلتا۔ اور اس کے لئے سلسلے ہوئے کپڑے پہننا اور بیوی کے پاس جانا بدستور حرام رہتا ہے۔ جو لوگ اوپر اوپر سے دو چدر بال کٹنا کر کپڑے پہن لیتے ہیں وہ گویا احرام کی حالت میں کپڑے پہنتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے ذمہ جنایت کا دم لازم آتا رہتا ہے۔

س..... ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں بغرض ملازمت مقیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں حج اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت اکثر نصیب ہوتی رہتی ہے۔ مگر عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں، مصری، یمنی اور سوڈانی لوگوں کی دیکھا دیکھی سر کے بال صرف دو تین جگہ سے معمولی سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح کرنے سے احرام سے خارج نہیں ہوتے، کیونکہ فقہ حنفیہ میں اس طرح کرنا جائز نہیں بلکہ کم از کم سر کے چوتھائی بال کاٹنے چاہئیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہریل کا چوتھائی حصہ کاٹنا ضروری ہے جو کہ بہت مشکل ہے، عمرہ کی کتابوں سے بھی یہ بات واضح طور سے نہیں ملتی ہے۔ آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ برائے مہربانی بال کٹوانے کا مسئلہ اور اب تک جو عمرے غلطی کے ساتھ کئے ہیں ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے تفصیلاً اور واضح طور سے روزنامہ جنگ جمہور ایڈیشن کے اسلامی صفحہ میں چھاپ کر ان لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں جو یہ غلطی کر رہے ہیں۔ مشاہدہ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمرہ ادا کرنے آنے والے پاکستانی اور انڈین حضرات میں سے ۹۰ فیصد لوگ مقامی لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اسی غلطی کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

حج..... احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹنا احرام کھولنے کے لئے شرط ہے، اگر چوتھائی سر کے بال نہیں کاٹے تو احرام نہیں کھلا، اس صورت میں احرام کے منافی عمل کرنے سے دم لازم آئے گا۔

احرام کی حالت میں کسی دوسرے کے بال کاٹنا

س..... گزشتہ سال میں نے اپنے دوست کے ساتھ حج کیا۔ دس ذوالحجہ کو قربانی سے فدا ہو کر بال کٹوانے کے لئے ہم نے حجام کو خاصا تلاش کیا لیکن اتفاق سے کوئی نہ مل سکا۔ اس پر میرے دوست نے خود ہی میرے بال کاٹ دیئے۔ واضح رہے کہ وہ اس وقت احرام ہی میں تھے۔ اتنے میں ایک بال کاٹنے والا بھی مل گیا اور میرے دوست نے اسے بال اس سے کٹوائے۔ اب

بعد میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ میرے دوست کو میرے بال نہیں کاٹنے چاہئے تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔ اب براہ مہربانی آپ اس صورتحال میں یہ بتائیں کہ کیا میرے دوست پر دم واجب ہو گیا؟ اصل مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ کوئی غلطی نہیں تھی؟ ج..... احرام کھولنے کی نیت سے محرم خود بھی اپنے بال اتار سکتا ہے اور کسی دوسرے محرم کے بال بھی اتار سکتا ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا احرام کھولنے کیلئے جو آپ کے بال اتار دیئے تو ٹھیک کیا اس کے ذمہ دم واجب نہیں ہوا۔

شوہر یا باپ کا اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کاٹنا
 س..... کیا شوہر یا باپ اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کاٹ سکتا ہے؟
 ج..... احرام کھولنے کے لئے شوہر اپنی بیوی کے اور باپ اپنی بیٹی کے بال کاٹ سکتا ہے۔
 عورتیں یہ کام خود بھی کر لیا کرتی ہیں۔

طواف زیارت و طواف وداع

طواف زیارت، رمی، ذبح وغیرہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے

س..... حج تمتع اور حج قرآن کرنے والوں کیلئے رمی، قربانی اور بل کٹوانا اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے یا اس کی اجازت ہے کہ رمی کے بعد احرام کی حالت میں مسجد حرام جا کر طواف زیارت کر لیا جائے اور پھر منیٰ آکر قربانی اور بل کٹوائے جائیں؟

ج..... جس شخص نے تمتع یا قرآن کیا ہو اس کیلئے تین چیزوں میں تو ترتیب واجب ہے۔ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر بل کٹوائے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم لازم ہوگا۔ لیکن ان تین چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان ترتیب واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ پس ان تین چیزوں سے علی الترتیب فدرغ ہو کر طواف زیارت کے لئے جانا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان تین چیزوں سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، مگر اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔

کیا ضعیف مرد یا عورت ۷ یا ۸ ذوالحجہ کو طواف زیارت کر سکتے ہیں

س..... کوئی مرد یا عورت جو نہایت کمزوری کی حالت میں ہوں اور ۱۰ ذوالحجہ یا ۱۱ ذوالحجہ کو حرم شریف میں بہت رش ہوتا ہے، تو کیا ایسا شخص سات یا آٹھ ذوالحجہ کو طواف زیارت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تاکہ آنے جانے کے سفر سے بچ جائے۔ نیز اگر کوئی تیرہ یا چودہ تدریج کو طواف زیارت

کر لے تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟

ج..... طواف زیارت کا وقت ذوالحجہ کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں۔ اور اس کو بدرہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لینا واجب ہے، پس اگر بدرہویں تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور اس نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کے ذمہ دم لازم آئے گا۔

کیا طواف زیارت میں رمل، اضطباع کیا جائے گا

س..... کیا طواف زیارت میں رمل، اضطباع اور سعی ہوگی؟

ج..... اگر پہلے سعی نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہو تو اس میں رمل ہوگا۔ مگر طواف زیارت عموماً سادہ کپڑے پہن کر ہوتا ہے، اس لئے اس میں اضطباع نہیں ہوگا۔ البتہ اگر احرام کی چادریں نہ اتاری ہوں تو اضطباع بھی کر لیں۔

طواف زیارت سے قبل میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا

س..... کیا طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی کا تعلق جائز ہے؟

ج..... حج میں حلق کرانے کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات احرام جائز ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔

طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اونٹ یا گائے کا دم

دے

س..... میرا تعلق مسلک حنفیہ سے ہے۔ گزشتہ سال حج کے ایام میں ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہ ۱۲ ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد رات کو ہم میاں بیوی نے صحبت کر لی۔ بلکہ بیوی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم نے طواف زیارت ۱۳ ذوالحجہ کو کیا۔ جوں ہی غلطی کا احساس ہوا ہم نے کتب ”معیین الحج“ پڑھی جس میں ایسی غلطی پر دم تحریر تھا۔ کیوں کہ میں یہاں پر سروس میں ہوں اور ہم دونوں نے ایام الحج میں عمرہ بھی نہیں کیا تھا اور ہم حدود حرم میں رہتے ہیں۔ ہم نے جن صاحب کو قربانی کے پیسے حج کے ایک ہفتے بعد دیئے تھے انہوں نے قربانی ماہ محرم کے پہلے ہفتے میں کروائی تھی۔ براہ کرم مجھے حنفی مسلک کے اعتبار سے بتائے کہ یہ حج

ہمارا ٹھیک ہو گیا کہ کمی باقی ہے؟ اس بیان سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ ایسا ہی مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ درپیش تھا اور وہ امریکہ سے آئے تھے اور غالباً بغیر کسی دم دیئے چلے گئے۔ واللہ اعلم۔

ج..... آپ دونوں کا حج تو سہل ہو گیا۔ لیکن دونوں نے دو جرم کئے، ایک طواف زیارت کو بدلہ میں تاریخ سے مؤخر کرنا اور دوسرا، طواف زیارت سے پہلے صحت کر لینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دم لازم آیا، یعنی حدود حرم میں دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذبح کی جائے، اور دوسرے جرم پر دونوں کے ذمہ ”بڑا دم“ لازم آیا، یعنی دونوں کی جانب سے ایک ایک اونٹ یا گائے حدود حرم میں ذبح کی جائے۔ اس کے علاوہ دونوں کو استغفاد بھی کرنا چاہئے۔

خواتین کو طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے

س..... بعض خواتین طواف زیارت خصوصی ایام کے باعث وقت مقررہ پر نہیں کر سکتیں اور ان کی فلاٹ بھی پہلے ہوتی ہے۔ کیا ایسی خواتین کو فلاٹ چھوڑ دینی چاہئے یا طواف زیارت چھوڑ دینا چاہئے؟

ج..... طواف زیارت حج کا رکن عظیم ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میں یہی ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے بلکہ اس معاملہ میں احرام بدستور باقی رہتا ہے۔ اس لئے خواتین کو ہرگز طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے، بلکہ پرواز چھوڑ دینی چاہئے۔

عورت کا ایام خاص کی وجہ سے بغیر طواف زیارت کے آنا

س..... اگر کسی عورت کی بارہ ذوالحجہ کی فلاٹ ہے اور اپنے خاص ایام میں ہے تو کیا وہ طواف زیارت ترک کر کے وطن آ جائے اور دم دے دے یا کوئی مائع چیز (دوائی وغیرہ) استعمال کر کے طواف ادا کرے۔ براہ مہربانی واضح فرمائیں کہ ایسی صورت میں کیا کرے؟

ج..... بڑا طواف حج کا فرض ہے۔ وہ جب تک ادا نہ کیا جائے میں یہی ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے اور احرام ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس طواف کے بغیر آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ نیا احرام باندھے بغیر واپس جائے اور جا کر طواف کرے جب تک نہیں کرے گا

میں بیوی کے تعلق کے حق میں احرام میں رہے گا اور اس کا حج بھی نہیں ہوتا اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ دم دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ واپس جا کر طواف کرنا ضروری ہوگا۔ جو خواتین ان دنوں میں ناپاک ہوں ان کو چاہئے کہ اپنا سفر تہی کر دیں اور جب تک پاک ہو کر طواف نہیں کر لیتیں مکہ مکرمہ سے واپس نہ جائیں۔ اگر کوئی تدبیر ایام کے روکنے کی ہو سکتی ہے تو پہلے سے اس کا احتیاد کر لینا جائز ہے۔

عورت ناپاکی یا اور کسی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے تو حج نہ ہوگا

س..... ناپاکی (حیض) کے باعث عورت طواف زیارت نہ کر سکی کہ واپسی کا سرکاری حکم ہو گیا۔ اب اس کے لئے کیا حکم ہے؟

ج..... طواف زیارت حج کا اہم ترین رکن ہے۔ جب تک یہ طواف نہ کر لیا جائے، نہ توجح مکمل ہوتا ہے، نہ میں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں۔ جن خواتین کو طواف زیارت کے دنوں میں ”خاص ایام“ کا عارضہ پیش آجائے، انہیں چاہئے کہ پاک ہونے تک مکہ مکرمہ سے واپس نہ ہوں بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فدرغ ہو کر واپس ہوں۔ اگر ان کی واپسی کی تاریخ مقرر ہو تو اس کو تبدیل کر لیا جائے، اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آگئی تو اس کا حج نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے شوہر کیلئے حلال ہوگی۔ جب تک کہ واپس جا کر طواف زیارت نہ کر لے اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے احرام کی حالت میں رہے گی۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر واپس آ گیا ہو، اسے چاہئے کہ بغیر نیا احرام باندھنے کے مکہ مکرمہ جائے اور طواف زیارت کرے۔ تاخیر کی وجہ سے اس پر دم بھی لازم ہوگا۔

طواف وداع کب کیا جائے

س..... زیادہ تر لوگوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے۔ یعنی اگر مغرب کے بعد طواف وداع کیا اور عشاء کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی ہے تو عشاء کی نماز کے لئے حرم شریف میں نہ جائے۔ کیا یہ خیل درست ہے؟ نیز اگر گیا تو کیا طواف وداع کا اعادہ ضروری ہے؟

ج..... اگر کسی نے طواف وداع کر لیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں رہا تو وہ مسجد حرام میں

جاسکتا ہے اور اس پر طواف وداع کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جب مکہ سے چلنے لگے تو طواف وداع کرے تاکہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے کہ اگر کوئی دن کو طواف وداع کر کے عشاء تک مکہ میں ٹھہر گیا تو میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ وہ وداع کی نیت سے دوسرا طواف کرے تاکہ نکلنے کے ساتھ اس کا طواف متصل ہو۔ الغرض یہ خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے، بالکل غلط ہے۔

طواف وداع کا مسئلہ

اس..... اس سئل خانہ کعبہ کے حادثہ کی وجہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو یہ صورت پیش آئی ہے کہ اس حادثہ سے پہلے وہ جب تک مکہ شریف میں رہے نقلی طواف تو کرتے رہے مگر آتے وقت طواف وداع کی نیت سے طواف نہیں کر سکے۔ میں نے ایک مسجد کے خطیب صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو دم بھیجنا ہو گا مگر ”معلم الحج“ میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ:

”طواف زیارت کے بعد اگر نقلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حاجی صاحبان کا طواف وداع ادا ہو گیا اور ان کو دم بھیجنے کی ضرورت نہیں، خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ معلم الحج کا یہ مسئلہ غلط ہے، ان لوگوں کا طواف وداع ادا نہیں ہوا۔ اس لئے ان کو دم بھیجنا چاہئے۔ چونکہ یہ صورت بہت سے حاجی صاحبان کو پیش آئی ہے اس لئے برائے مہربانی آپ بتائیں کہ ان کو دم بھیجنا ہو گا، یا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر طواف کے بعد نقلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کا قائم مقام ہو گا جو اب اہل جنگ کے ذریعہ دیں تاکہ تمام حاجی صاحبان پڑھ لیں۔

ج..... فتح القدر میں ہے:

”والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند إرادة السفر

أما وقته على التعمين فأوله بعد طواف الزيارة إذا كان

(ص ۸۸ ج ۲)

على عزم السفر“

ترجمہ..... ”حاصل یہ کہ مستحب تو یہ ہے کہ ارادہ سفر کے وقت طواف وداع

کرے۔ لیکن اس کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ
سفر کا عزم ہو (مکہ مکرمہ میں رہنے کا ارادہ نہ ہو)۔

نور درمختک میں ہے:

فلوطاف بعد اراده السفر ونوی التطوع اجزاء عن الصدر
(ردالمحتد صفحہ ۵۳۳، جلد ۲)

ترجمہ..... ”پس اگر سفر کا ارادہ ہونے کے بعد نفل کی نیت سے طواف کر لیا
تو طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔“

اس عبادت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

ایک یہ کہ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے بشرطیکہ حاجی مکہ
مکرمہ میں رہائش پذیر ہونے کی نیت نہ رکھتا ہو، بلکہ وطن واپسی کا عزم رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ
معلوم ہوئی کہ طواف وداع کے وقت میں اگر نفل کی نیت سے طواف کر لیا جائے تب بھی
طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ واپسی کے ارادہ کے وقت طواف وداع
کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معلم الحجاج کا مسئلہ صحیح ہے، جن حضرات نے طواف زیارت کے
بعد نفل طواف کئے ہیں ان کا طواف وداع ادا ہو گیا، ان کے ذمہ دم واجب نہیں۔

طواف وداع میں رمل، اضططباع اور سعی ہوگی یا نہیں

س..... کیا طواف وداع میں رمل، اضططباع اور سعی ہوگی؟

ج..... طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن کو واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے
رخصت ہونے کیلئے کیا جاتا ہے۔ یہ سادہ طواف ہوتا ہے۔ اس میں رمل اور اضططباع نہیں کیا
جاتا۔ نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رمل اور اضططباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد

سعی ہو۔

نوٹ:- اضططباع کے معنی یہ ہیں کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر اس
کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال لئے جائیں۔ یہ اضططباع اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ احرام
کی چادر پستی ہوئی ہو۔ اضططباع طواف کے صرف تین چکروں میں مسنون ہے باقی چل چکروں
میں بھی اسی طرح رہنے دیا جائے۔ طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لینا
چاہئے۔ اسی طرح صفا و مردہ کی سعی کے دوران بھی اضططباع مسنون نہیں۔ اور رمل کے معنی یہ
ہیں کہ ایسا طواف جس کے بعد سعی کرنی ہو اس کے پہلے تین شوٹوں میں چھوٹے چھوٹے قدم
اٹھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ذرا سا تیز چلا جائے۔

مدینہ منورہ کی حاضری

زیارت روضہ اطہر اور حج

س..... اگر کوئی شخص حج کے لئے جائے اور زیارت روضہ کے بغیر آجائے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر ہو جائے گا تو حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آتا ہے لہذا ضروری تاکید کی جاتی ہے احقر کی ان مشکلات کا حل تحریر فرما کر ہمیشہ کے لئے مشکور فرمائیں۔

ج..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے بغیر جو شخص واپس آجائے حج تو اس کا ادا ہو گیا لیکن اس نے بے مروتی سے کام لیا اور زیارت شریفہ کی برکت سے محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے جانا ایک مستقل عمل مندوب ہے جو حج کے اعمال میں تو داخل نہیں مگر جو شخص حج پر جائے اس کے لئے یہ سعادت حاصل کرنا آسان ہے اس لئے حدیث میں فرمایا:

« من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » (رواہ ابن

عدی بسند حسن ، شرح مناسک ملا علی قاری)

یعنی ”جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور میری زیارت

کو نہ آیا اس نے مجھ سے بے مروتی کی۔“

مسجد نبویؐ کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست

س..... میں نے ایک کتب میں پڑھا ہے کہ مسجد نبویؐ کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا اور سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع ہے۔ بتلائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے اور روضہ مبارک پر دعا مانگنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کس طرف منہ کر کے مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضہ مبارک کی جانب اور مسجد نبویؐ میں کثرتِ درود افضل ہے یا تلاوت قرآن؟

ج..... یہ تو آپ نے غلط سنا ہے یا غلط سمجھا ہے کہ مسجد نبویؐ (علیٰ صلحبہا الصلوات و التسلیمات) کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت سے سفر کرنا صحیح ہے، البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر جائز نہیں۔ لیکن جمہور اکابر امت کے نزدیک روضہ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرنی چاہئے اور روضہ اطہر پر حاضر ہو کر شفاعت ممنوع نہیں، فقہائے امت نے زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں تحریر فرمایا ہے کہ باد گاہ علی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ امام جزریؒ ”حصن حصین“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرتؐ (کی قبر مبارک) کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ صلوة و سلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگئے، مدینہ طیبہ میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہئے اور تلاوت قرآن کریم کی مقدار بھی بڑھا دینی چاہئے۔

مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں چالیس نمازیں

س..... میں یہاں عمرہ پر گیا۔ عمرہ ادا کر کے مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حاضری دی اور اپنی نیت کے مطابق دونوں جگہ ایک ایک جمعہ پڑھ کر واپس آیا۔ یعنی مدینہ شریف میں چالیس نمازیں پوری نہیں کیں۔ کیا اس کا کوئی گناہ ہے؟

ج..... گناہ تو کوئی نہیں مگر مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو۔ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔

س..... میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ مسجد نبویؐ میں چالیس نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ ضروری ہے کیا اس کے بدلے میں کوئی حدیث ہے جس میں ضروری یا فضیلت کا ہونا بتلایا گیا ہو؟ براہ مریانی تفصیل سے جواب دیں۔

ج..... ایک حدیث میں مسجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی خاص فضیلت آتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ ”حضرت انس رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح ادا کیں کہ اس کی کوئی بھی نماز (باجماعت) فوت نہ ہو اس کے لئے دوزخ سے اور عذاب سے برأت لکھی جائے گی۔ اور وہ نفاق سے بری ہوگا۔“

(مسند احمد ص ۱۵۵ ج ۳)

حج کے متفرق مسائل

حج و عمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو گویا اس کا حج مقبول نہیں ہوا

س..... میرے چلہ پاکستانی دوست ہیں جو کہ تبوک میں مقیم ہیں۔ حج اور عمرہ کر کے واپس آکر انہوں نے وی۔سی۔ آر پر عریاں فلمیں دیکھی ہیں۔ اب ان کیلئے کیا حکم لاگو ہے؟ اب وہ بچھتا رہے ہیں۔ ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

ج..... معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں حج و عمرہ نہیں کیا۔ بس گھوم پھر کر واپس آگئے ہیں۔ حج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آجائے، اور اس کا رخ خیر اور نیکی کی طرف بدل جائے۔ ان صاحبوں کو اپنے فعل سے توبہ کرنی چاہئے۔ فرائض کی پابندی اور محرمات سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اگر سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے قصور معاف فرمادیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔

حج کے بعد اعمال میں سستی آئے تو کیا کریں

س..... حج کرنے کے بعد زیادہ عبادات میں سستی کاٹلی یعنی ذکر اور صبح کے وقت نماز دیر سے پڑھنا اور دل میں وساوس یعنی حج سے پہلے دینی کاموں تبلیغ اور نیک کاموں میں دلچسپی لیتا تھا لیکن اب اس کے برعکس ہے آپ سے معلوم کرنا ہے کہ حج کرنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے کیا دوبارہ حج کے لئے جانا ضروری ہوگا؟

ج..... اگر پہلا حج صحیح ہو گیا تو دوبارہ کرنا ضروری نہیں۔ حج کے بعد عمل پرستی نہیں بلکہ چستی ہونی چاہئے۔

جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے

س..... اکثر ہمارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے اور ان پڑھ پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا حج (حج اکبر ہوتا ہے) اور اس کا ثواب سات حجوں کے برابر ملتا ہے اور حکومتیں جمعہ کے دن کوچ نہیں ہونے دیتیں کیونکہ دو خطبے اکٹھے کرنے سے حکومت پر زوال آجاتا ہے اور یہی عقیدہ و یقین وہ عیدین کے بارے میں رکھتے ہیں اس کی شرعی تشریح فرما دیں۔

ج..... جمعہ کے حج کو ”حج اکبر“ کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے لہذا معلم الحج میں طبرانی کی روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن کا حج ستر حجوں کی فضیلت رکھتا ہے۔ مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں اور یہ غلط ہے کہ حکومتیں جمعہ کے دن حج یا عید نہیں ہونے دیتیں متعدد بار جمعہ کا حج ہوا ہے جس کی سعادت بے شمار لوگوں کو حاصل ہوئی ہے۔ اور جمعہ کو عیدیں بھی ہوئی ہیں۔

حج اکبر کی فضیلت

س..... جیسا کہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن کا حج پڑ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے جس کا اجر ستر حجوں کے اجر سے بڑھا ہوا ہے۔ آیا یہ حدیث ہے اور کیا یہ حدیث صحیح ہے یا کہ عوام الناس کی زبانوں پر ویسے ہی مشہور ہے۔ جبکہ بعض حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج اکبر کی اصطلاح مذکورہ حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حج، حج اکبر کہلاتا ہے۔ عمرہ کے مقابلے میں یا عرفہ کے دن کوچ اکبر کہتے ہیں۔ یا جس دن حجاج قرین کر تے ہیں وہ حج اکبر ہے۔ وغیرہ وغیرہ، ان تمام باتوں کی موجودگی میں ذہن شدید لکھن کا شکر ہو جاتا ہے کہ حج اکبر کا کس پر اطلاق کیا جاسکتا ہے؟

ج..... جمعہ کے دن کے حج کو ”حج اکبر“ کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے۔ قرآن مجید میں ”حج اکبر“ کا لفظ عمرہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ بقی رہا یہ کہ جمعہ کے دن جو حج ہوا اس کی

فضیلت مترکنا ہے۔ اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتبوں میں طبرانی کی روایت سے نقل کی ہے۔ مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔

حج کے ثواب کا ایصال ثواب

اس..... اگر ایک شخص اپنا حج کر چکا ہے اور وہ کسی کے لئے بغیر نیت کئے حج کر کے اس کو بخش دیتا ہے مرحوم کو۔ تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو صحیح طریقہ اور نیت بتا دیں۔

ج..... اگر مرحوم کے ذمہ حج فرض تھا اور یہ شخص اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے احرام باندھنا لازم ہو گا ورنہ حج فرض ادا نہیں ہو گا اور اگر مرحوم کے ذمہ حج فرض نہیں تھا تو حج کا ثواب بخشنے سے اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔

کیا حجر اسود جنت سے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا

اس..... حجر اسود جو کہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حجر اسود لوگوں کے کثرت گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب یہ جنت سے آیا تھا تو اس کا رنگ کیا تھا؟ اس وقت اسے حجر اسود نہ کہتے تھے کیونکہ اسود کے تو معنی ہیں کالا۔ کیا حدیث سے اس پتھر کے اصلی رنگ کا پتہ چلتا ہے؟

ج..... جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہ اس وقت سفید رنگ کا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ نازل ہوا ہو گا اس وقت اس کو ”حجر اسود“ نہ کہتے ہوں گے۔

حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

اس..... میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں جب ہم مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہابی ہیں پھر میں خاموش ہو جاتا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے عمل میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ اوہر تو کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چند خاص مسجدیں ہیں ان کے سوا سب کو غیر مسلم

قرار دیتے ہیں ظاہری امن کی حالت یہ ہے پگڑیاں پہنتے ہیں اور کندھوں پر دونوں جانب لباسا کپڑا بھی لٹکتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کہاں تک درست ہے اور ان کی پیروی اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ اب تو ہمارے محلہ کی مسجد کے امام کو بھی نہیں مانتے بڑا مہربانی تفصیل سے جواب دیں۔

ج..... حرمین شریفین پہنچ کر وہاں کی نماز باجماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے۔ حرمین شریفین کے ائمہ، امام احمد بن حنبلؒ کے مقلد ہیں، اہل سنت ہیں اگرچہ ہمارے ان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے لیکن یہ نہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔
حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے

س..... میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر پچیس اولیاءِ سندھ میں اور پیدا ہو جاتے تو حج یہاں ہوتا۔ وضاحت سے یہ بات بتائیں۔

ج..... اولیاء تو خدا جلنے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے مگر حج تو ساری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے یعنی مکہ مکرمہ میں۔ ایسی فضول باتیں کرنے سے ایمان جانا رہتا ہے۔

کیا لڑکی کا رخصتی سے پہلے حج ہو جائے گا

س..... ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ اور نہ ہی دونوں فریقوں کا دو سال تک مزید رخصتی کا ارادہ ہے۔ لڑکا ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے۔ لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور رخصتی سے پہلے لڑکی کو اپنے ساتھ حج کر دے۔ تو کیا بغیر رخصتی کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ حج پر بھیجنا جائز ہے؟

ج..... حج کرالے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ رخصتی بھی اور حج بھی۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میں بیوی ہیں، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

حاجی کو دریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے

س..... قرآن مجید کی آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے مگر ہم صرف پھل حلال سمجھتے ہیں جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں؟

ج..... قرآن کریم نے احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا ہے۔ خود ان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا۔ کسی جانور کا شکار جائز ہونے سے خود اس جانور کا حلال ہونا لازم نہیں آتا، مثلاً جنگلی جانوروں میں شیر اور چیتے کا شکار جائز ہے۔ مگر یہ جانور حلال نہیں۔ اسی طرح تمام دریائی جانوروں کا شکار تو جائز ہے۔ مگر دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال فرمایا گیا ہے۔ (نصب الرایہ ص ۲۰۲ ج ۳) اس لئے ہم صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔

حدود حرم میں جانور ذبح کرنا

س..... جیسا کہ حکم ہے کہ حدود حرم کے اندر ماسوائے ان کبڑے کوڑوں کے جو کہ انسانی جان کے دشمن ہیں کسی جاندار چیز کا حتیٰ کہ درخت کی نشی توڑنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو روزانہ سینکڑوں کے حساب سے مرغیاں اور دوسرے جانور حدود حرم میں ذبح ہوتے ہیں۔ تفصیل سے واضح کریں کہ ان جانوروں کا حدود حرم میں ذبح کرنا کیا جائز ہے؟

ج..... حدود حرم میں شکار جائز نہیں، پالتو جانوروں کو ذبح کرنا جائز ہے۔

سانپ بچھو وغیرہ کو حرم میں، اور حالت احرام میں مارنا

س..... ایام حج میں بحالت احرام اگر کسی موذی جانور مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ کو مارا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ یا ان جیسی چیزوں کے مارنے سے بھی ”دم“ دینا لازم ہو جاتا ہے؟

ج..... ایسے موذی جانوروں کو حرم میں اور حالت احرام میں مارنا جائز ہے۔

حج کے دوران تصویر بنوانا

س..... ایک شخص حج پر جاتا ہے۔ مناسک حج ادا کرتے وقت وہ اجرت دے کر ایک فوٹو گرافر سے تصویریں اترواتا ہے۔ مثلاً احرام باندھے ہوئے، قربانی کرتے وقت وغیرہ۔ تصویر اتروانا تو ویسے ہی ناجائز ہے لیکن حج کے دوران تصویر اتروانے سے حج کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں؟

ج..... حج کے دوران منگلا کا کام کرنے سے حج کے ثواب میں ضرور خلل آئے گا۔ کیونکہ حدیث میں ”حج مبرور“ کی فضیلت آئی ہے اور ”حج مبرور“ وہ کہلاتا ہے جس میں گناہوں

سے اجتناب کیا جائے، اگر حج میں کسی گنہ کار تکلیب کیا جائے تو حج ”حج مبرور“ نہیں رہتا۔
 علاوہ ازیں اس طرح تصویریں کھینچنا اس کا منشا تقاضا اور ریا کاری ہے کہ اپنے دوستوں کو دکھاتے پھریں گے اور ریا کاری سے عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔

ہجرت کی زندگی گزارنے سے توبہ اور حرام رقم سے حج

س..... میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے ایک برودہ فروش نے بنوں سے اغوا کر کے ہجرتوں کے پاس فروخت کر دیا جنہوں نے مجھے رضا کارانہ طور پر بیچ گانا سیکھنے اور زننہ لباس پہننے کو کہا لیکن میرے انکار پر کھلنے میں بے ہوشی کی دواملا کر مجھے بے ہوش کیا گیا۔ پھر میرا آپریشن کر کے مجھے مردانہ اجزا سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اور جگہ پناہ لینے کے قابل نہ رہا۔ مجھے بیچ گانا سکھایا گیا، میرے بل بڑھوادے گئے۔ میرے کلن چھدوا کر بلیں پستلی گئیں اور ناک چھدوا کر کیل ڈالی گئی۔ ظاہر ہے مجھے کوئی انکار نہیں ہو سکتا تھا اور میں بیس سال تک ہجرتوں میں رہا ہوں۔ اب سب مرکب گئے ہیں اور میں ڈیرے کا مالک ہوں۔ میرے پاس کلنی رقم ہے چاہتا ہوں کہ حج کر آؤں، لوگ کہتے ہیں پیسہ حرام کا ہے اور تم بھی مجرم ہو، آپ مہربانی کر کے بتائیں کہ میرا حج ہو سکتا ہے؟

حج..... آپ ان تمام غیر شرعی افعال سے توبہ کریں جو روپیہ آپ کے پاس ہے، اس سے حج نہ کریں بلکہ کسی غیر مسلم سے حج کے لئے قرض لے کر حج کریں اور جو رقم آپ کے پاس جمع ہے اس سے قرض ادا کر دیں۔ آئندہ کے لئے زننہ وضع ترک کر دیں مردانہ لباس پہنیں اور اپنا ڈیرہ بھی ختم کر دیں۔

حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی حکم

س..... حرم میں چپلوں اور جوتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو عام طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کیا ایک بار اپنی ذاتی چپل پہن گجانا اور تبدیل ہونے پر بریڈ ایک نئی چپل پہن کر آنا جانا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

حج..... جن چپلوں کے بارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گا ان کا پھینکا صحیح نہیں اور جن کو اس خیال سے چھوڑ دیا گیا کہ خواہ کوئی پہن لے ان کا پھینکا صحیح ہے۔ یوں بھی ان کو اٹھا کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔

حج کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا

س..... یہاں سعودیہ میں کام کرنے والے دیندار حضرات کو حج اور عمرہ کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے اس آخری رکن اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ ادائیگی کی فریضت ہونے کے بلوجود مندرجہ ذیل فریب دہی اور حیلہ سازی و جھوٹ سے کام لیکر ان مقدس فریضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اور حج کے زمانے میں لوگ گاڑیاں اس نیت سے خرید لیتے ہیں کہ دوسروں کو عمرہ اور حج پر کرائے پر لے جائیں گے۔ اس طرح گاڑی کی اچھی خاصی رقم کرائے سے قلیل مدت میں وصول ہو جائے گی۔ اور عمرہ و حج بھی ہو جائے گا۔

یاد رہے کہ یہاں غیر سعودی کو کرایہ پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں۔ اور بیشتر راستے کی چوکیوں پر معلوم کیا جاتا ہے تو حالت احرام میں بھی بر ملا کتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، کرائے پر نہ بیجا رہے ہیں اور نہ کرائے پر جلد ہے ہیں۔ (بیجانے والا اور جانے والے جھوٹ بولتے ہیں)

حج کے لئے گاڑی لینے اور اس کو کرائے پر چلانے میں تو کوئی حرج نہیں مگر چونکہ قانوناً منع ہے اور اس کی خاطر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لئے حج گناہ سے پاک نہ ہوا۔

بغیر اجازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا

س..... ملازمین عمرہ اور حج کے لئے کمپنی کی گاڑیاں جو ان کے شہر میں استعمال کے لئے ہوتی ہیں ان کو لے کر خاموشی سے سفر پر چلے جاتے ہیں یا جن کے تعلقات ان کے افسروں سے اچھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کر اس مقدس فریضے کے سفر پر جاتے ہیں۔ اسی طرح ملازمین حج اور عمرے پر جاتے وقت کمپنی کا سالن مثلاً بجلی، کمبل، واٹر کولر، چادریں برتن وغیرہ بھی خاموشی سے یا تعلقات کی بنا پر اجازت لے کر لے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عام ملازمین ایسی مراعات کمپنیوں سے نہیں حاصل کر پاتے اور ان کو کمپنی اجازت نہیں دیتی۔

حج..... اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو کمپنی کی گاڑیوں اور دوسرے سالن کا استعمال جائز نہیں۔ یہ خیانت اور چوری ہے۔

حاجیوں کا تحفے تحائف دینا

س..... اکثر لوگ جب عمرہ یا حج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے عزیز انیس تحفہ میں مٹھلی، نقد روپے وغیرہ دیتے ہیں اور جب یہ لوگ حج کر کے آتے ہیں تو تبرک کے نام سے ایک رسم ادا کرتے ہیں جس میں وہ کھجوریں، زمزم اور ان کے ساتھ دوسری چیزیں رسماً بانٹتے ہیں۔ کیا یہ رواج درست ہے؟

ج..... عزیز و اقارب اور دوست احباب کو تحفے تحائف دینے کا تو شریعت میں حکم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، مگر دلی رغبت و محبت کے بغیر محض نام کے لئے یا رسم کی لیکر پینے کے لئے کوئی کام کرنا بری بات ہے۔ حاجیوں کو تحفے دینا اور ان سے تحفے وصول کرنا آج کل ایسا رواج ہو گیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے یہ کام خواہی خواہی کیا جاتا ہے۔ یہ شرعاً لائق ترک ہے۔

حج کرنے کے بعد حاجی کہلوانا اور نام کے ساتھ لکھنا

س..... حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے نام میں لفظ ”حاجی“ لگانا کیا جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں تاکہ میں بھی اپنے نام میں ”حاجی“ لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ بہتر کیا ہے؟

ج..... اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لقب لگانا بھی ریاکاری کے سوا کچھ نہیں۔ حج تو رضائے الہی کے لئے کیا جاتا ہے لوگوں سے ”حاجی“ کہلانے کے لئے نہیں۔ دوسرے لوگ اگر ”حاجی صاحب“ کہیں تو مضائقہ نہیں لیکن خود اپنے نام کے ساتھ ”حاجی“ کا لفظ لکھنا بالکل غلط ہے۔

حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے

س..... اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حج کی سعادت حاصل کر کے آنے والے حضرات کو لواحقین امیر پورٹ یا بندر گاہ پر بڑی تعداد میں لینے جاتے ہیں حاجی کے باہر آتے ہی اسے پھولوں سے ملاد دیتے ہیں پھر ہر شخص حاجی سے گلے ملتا ہے حاجی صاحبان ہر پسنے ہوئے ہی ایک کئی سجائی گاڑی میں دو لہاسی طرح بیٹھ جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حاجی صاحب کی آمد پر سجایا جاتا ہے جگہ

جگہ ”ج مبدک“ کی مبدت کے کتبے لگے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو مختلف نعرے بھی لگاتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہر پھول، کتبے، نعرے اور گلے ملنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کیا اس طرح اخلاص برقرار رہتا ہے؟

ج..... حاجیوں کا استقبال تو یہی بات ہے ان سے ملاقات اور مصافحہ و معافہ بھی جائز ہے اور ان سے دعا کرانے کا بھی حکم ہے لیکن یہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز ہے اگر حاجی صاحب کے دل میں عجب پیدا ہو جائے تو حج ضائع ہو جائے گا۔ اس لئے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہئے۔

عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل

(یہ حضرت مصنف مدظلہ کا ایک مفید مضمون ہے اس لیے شامل
کیا جا رہا ہے۔)

فضائل قربانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ اس سے مواظبت ثابت ہوئی جس کا مطلب ہے لگاؤ کرنا۔ اس طرح اس سے وجوب ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید فرمائی۔ احادیث میں بہت سی وعیدیں مذکور ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“ قربانی کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”یہ قربانیاں کیا ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”قربانی تہلکے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کی سنت ہے۔“ صحابی نے پوچھا ”تہلکے لئے اس میں کیا ثواب ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایک ہل کے عوض ایک نیکی ہے۔“ لہذا لہذا کے متعلق فرمایا ”اس کے ایک ہل کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۲۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔“ (طبرانی)

قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔“

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۸)

قربانی کس پر واجب ہے

چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔

۱.... کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔
۲.... کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مل چھوڑا ہو کہ اس کے تملیٰ مال سے قربانی کی جاسکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔

۳.... جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ ساڑھے بان توکہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مل تجارت یادگیر سلان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔

○.... مثلاً ایک شخص کے پاس دو مکان ہیں۔ ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جبکہ اس خالی مکان کی قیمت ساڑھے بان توکہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔

○.... یا مثلاً ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرایہ پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شملہ ہو گا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔

○.... یا مثلاً کسی کے پاس دو گاڑیاں ہیں۔ ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔

○.... یا مثلاً کسی کے پاس دو پلاٹ ہیں ایک اس کے سکونتی مکان کے لئے ہے اور دوسرا

زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت ساڑھے پاون توکہ چاندی کی مائیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔

○ عورت کا مهر منجمل اگر اتنی مائیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مائیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔

○ ایک شخص ملازم ہے۔ اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے پس انداز نہیں ہو سکتی اس پر قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے پاس کوئی اور مائیت نہ ہو۔

○ ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی۔

○ ایک شخص کے پاس مل جو تھے کیلئے میل اور دو دھیری گائے بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مائیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔

۴ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہے۔

۵ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

۶ صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ خواہ وہ بالدر ہوں۔

قربانی کا وقت

۱ بقر عید کی دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ تک کی شام (آفتاب غروب ہونے سے پہلے) تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر گیدہویں تاریخ، پھر بارہویں تاریخ۔

۲ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا۔ قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ ریسات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔

۳ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربانی کا جانور ریسات میں بھیج دے اور

وہی صحیح صلوق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے۔

- ۳..... ان تین دنوں کے دور ان رات کے وقت قربانی کرنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔
 ۵..... اگر ان تین دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ گیا یا اس نے کسی اقامت کی نیت کر لی اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔
 ۶..... جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کیلئے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص گنہگار ہوگا۔

۷..... جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور ان تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ اس شخص کو توبہ استغفار کرنی چاہئے اور قربانی کے جانور کی بابت صدقہ خیرات کر دے۔

۸..... ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا۔ مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا تو اس کا اب صدقہ کر دینا واجب ہے۔ ذبح کر کے گوشت کھانا درست نہیں۔

- ۹..... قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے۔ لیکن جو شخص ذبح کرنا نہ جانتا ہو یا کسی وجہ سے ذبح نہ کرنا چاہتا ہو اسے ذبح کرنے والے کے پاس موجود رہنا بہتر ہے۔
 ۱۰..... قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں بلکہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ اور بعض دعائیں جو حدیث پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یاد ہوں تو ان کا پڑھنا مستحب ہے۔

کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا

- ۱..... قربانی میں نیابت جائز ہے یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔
 ۲..... آدمی کے ذمہ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ اگر اولاد بالغ اور ملحد

ہو تو خود کرے۔

۳..... اسی طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو اس کے لئے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔

۴..... جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے۔ اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔

قربانی کن جانوروں کی جائز ہے

۱..... بکری، بکرا، بھیڑ، دنبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔

۲..... گائے، بھینس، اونٹ میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے۔ مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہ ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو۔ صرف گوشت کھانے کے لئے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۳..... کسی نے قربانی کے لئے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔

لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے مگر بہتر نہیں۔ اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔

۴..... اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا۔ پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے۔

اور اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگئی۔

۵..... بکری اگر ایک سل سے کم عمر کی ہو خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ پورے سل کی ہو تو درست ہے۔ اور گائے یا بھینس پورے دو سل کی ہو تو قربانی درست ہوگی۔ اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں اور اونٹ پورے پانچ سل کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔

۶..... بھیڑ، یادنبہ اگر چھ مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فریبہ یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سل والے بھیڑ ذنبوں کے درمیان جھوٹا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی درست نہیں۔

۷..... جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہلی روشنی یا اس سے زائد جلتی رہی ہو، یا ایک کلن تہلی یا تہلی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔

۸..... جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔

۹..... اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا، فریبہ ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔

۱۰..... جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔

۱۱..... جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کلن تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔

۱۲..... جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو اگر صرف اوپر سے خول اترا ہے اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اور اگر جڑی سے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔

۱۳..... خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔

۱۴..... جس جانور کے خدش ہو تو اگر خدش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور اگر خدش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور

دیا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔

۱۵..... اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے۔ اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔

۱۶..... جانور پہلے تو صحیح سالم تھا مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں۔ اس کی قربانی درست ہے۔

قربانی کا گوشت

۱..... قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے۔ ہاں! اگر کسی کے حصہ میں سر اور پاؤں لگا دیئے جائیں تو اس کے وزن کے حصہ میں کمی جائز ہے۔

۲..... قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کرے۔ ایک اپنے لئے، ایک دوست احباب عزیزو اقارب کو ہدیہ دینے کیلئے اور ایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کیلئے۔ الفرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کر دے لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا یا عزیزو اقارب کو دے دے تب بھی گناہ نہیں۔

۳..... قربانی کی کھل اپنے استعمال کے لئے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے۔ بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔

۴..... قربانی کی کھل کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔

۵..... قربانی کی کھل یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے۔ بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت و اشاعت، شفا خانوں کی تعمیر، کلاکوں کی تحفہ وغیرہ میں خرچ کریں

گے۔ کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو ملک بنانا ضروری ہے۔ البتہ ایسے اولیٰ کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔

۶..... قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا، یا اس کی شہم اتلنا درست نہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہئے۔

۷..... قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہئے۔

۸..... قربانی کی کھل یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔

۹..... اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں۔

چند غلطیوں کی اصلاح

۱..... بعض لوگ یہ کو تہی کرتے ہیں کہ طاعت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ محض دکھلوے کیلئے قربانی کرنا درست نہیں۔ جس سے واجب حقوق فوت ہو جائیں۔

۲..... بت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔

۳..... بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے۔ اس لئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سل اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سل بیوی کی طرف سے کر دی، ایک سل لڑکے کی طرف سے، ایک سل لڑکی کی طرف سے، ایک سل مرحوم والد کی طرف سے، ایک سل مرحومہ والدہ کی طرف سے۔ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً میں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے دو قربانیاں لازم ہیں۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ اکٹھے رہتے ہوں مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے۔ یہ خیل بالکل

غلط ہے بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب

پر بھی قربانی ہر سال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر سات حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو یا اس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نیت کی تو سب کی قربانی برباد ہو گئی۔ اس لئے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہئے۔

قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے

س..... قربانی کے بارے میں علماء سے تقریروں میں سنا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، ایک مولوی صاحب نے دوران تقریر فرمایا کہ سنت نبویؐ ہے لہذا اس سنت پر حتی الوسع عمل کی کوشش کرنی چاہئے نہ کہ گوشت کھلنے کا ارادہ، ایک آدمی مجمع تہ اشیا اور اس نے کہا مولوی صاحب سنت ابراہیمی ہے، ہمارے نبیؐ کی سنت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا واقعی سنت ابراہیمی ہے۔ مگر ہم کو سنت نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قربانی کرنی چاہئے۔ آدمی نے کہا آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں۔ آدھ گنہہ کی بحث کے باوجود وہ شخص قائل نہیں ہوا۔ براہ کرم اس مسئلہ پر روشنی ڈال کر ہمیں اندھیرے سے نکالیں۔

ج..... لغو بحث تھی، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا، اور اس کا حکم، یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی۔ دونوں میں کوئی تضاد یا تضاد تو ہے نہیں۔

قربانی کی شرعی حیثیت

س..... قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

ج..... ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی

کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہئے۔ دوسری ایک آیت میں اسی مضموم کو دوسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ ”پینگ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال برابر قربانی کرتے تھے۔ (ترمذی) جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں واجب ہوگی بشرطیکہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لئے جو شرائط اور قیود بیان کی ہیں وہ پائی جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی لئے جمہور علمائے اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔
(شامی)

قربانی کس پر واجب ہے

چاندی کے نصاب بھر ملک ہو جانے پر قربانی واجب ہے

س..... قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ مطلع فرمائیں۔

ج..... قربانی ہر اس مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کی ملک میں ساڑھے پاون ٹوکہ چاندی یا اس کی قیمت کامل اس کی حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان، پلاٹ وغیرہ۔

قربانی کے معاملہ میں اس مال پر سال بھر گزرتا بھی شرط نہیں۔ بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر اتنا مال ہو بھی تو اس پر یا اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں جس شخص پر قربانی لازم نہ تھی اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔

قربانی صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہے

س..... قربانی جو کہ سب سے پہلے اپنے اوپر واجب ہے اور پھر دوسروں پر، کیا ایک دفعہ کرنے سے واجب پورا ہو جاتا ہے یا ہر سال اپنے اوپر کرنی واجب ہوتی ہے؟

ج..... قربانی صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی طرح ہر سال واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لئے نصاب پر سال گزرتا بھی ضروری نہیں ہے۔

قربانی کے واجب ہونے کی چند اہم صورتیں

س..... میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے اگر بقرعید کے تین دنوں میں کسی دن بھی میرے پاس ۲۶۲۵ (دو ہزار چھ سو پچیس) روپے آجائیں تو کیا مجھ پر قربانی کرنا واجب ہوگی؟ (آج کل ساڑھے ۵۲ تole چاندی کے دام بحساب پچاس روپے فی تولہ ۲۶۲۵ روپے بنتے ہیں۔)

ج..... جی ہاں! اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سو واضح رہے کہ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی بھی صاحب نصاب ہی پر واجب ہے۔ مگر دونوں کے درمیان دو وجہ سے فرق ہے۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کیلئے شرط ہے کہ نصاب پر سال گزر گیا ہو، جب تک سال پورا نہیں ہو گا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کیلئے سال کا گزرنے کوئی شرط نہیں بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جبکہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوگی۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب نامی (بڑھنے والا) ہو، شریعت کی اصطلاح میں سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت اور چرنے والے جانور ”مال نامی“ کہلاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی مگر قربانی کیلئے مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں۔ مثل کے طور پر کسی کے پاس اپنی زمین کا غلہ اس کی ضروریات سے زائد ہے اور زائد ضرورت کی قیمت ۲۶۲۵ روپے کے برابر ہے چونکہ یہ غلہ مال نامی نہیں اس لئے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے سال بھر پڑا رہے۔ لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔

س..... میری دو بیٹیوں کے پاس پندرہ سولہ سال کی عمر سے دو تولے سونے کے زیور ہیں وہ اس کی مالک ہیں وہ ہملری زیر کفالت ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کر سکیں۔ کیا ان بیٹیوں پر قربانی واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ قربانی کس طرح کریں؟ جبکہ ان کے پاس نقد پیسے نہیں؟ واضح رہے کہ دو تولے زیور کے دام تقریباً سات ہزار روپے بنتے ہیں۔

ج..... اگر ان کے پاس کچھ روپیہ پیسہ بھی رہتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں۔ اور ان پر زکوٰۃ اور

قربانی دونوں واجب ہیں۔ اور اگر روپیہ پیسہ نہیں رہتا تو وہ صاحب نصاب نہیں اور ان پر زکوٰۃ اور قربانی بھی واجب نہیں۔

س نہاری شادی کو ۳۱ سال ہو گئے لیکن میری بیوی نے صرف دو بار قربانی کی۔ کیونکہ میرے پاس اس کی طرف سے قربانی کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ لیکن اس کے پاس اس تمام مدت میں کم و بیش تین چار تولے سونے کے زیور رہے ہیں۔ کیا میری بیوی پر اس تمام مدت میں ہر سال قربانی فرض تھی کیونکہ اس تمام مدت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بہر حال تین چار تولے سونے سے کم رہی۔ اگر فرض تھی تو کیا ۳۹ سال کی قربانی اس کے ذمے واجب لاداہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ اس سے کیسے عمدہ برآ ہو؟ واضح رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم ساڑھے سات تولے سونا ہو (نوٹ۔ ابھی کچھ زمانہ پہلے تک خالص چاندی کاروپہ ہوتا تھا جس کا وزن ٹھیک ایک تولہ ہوتا تھا۔ جس کے پاس ۵۲ روپے اور ایک اٹھنی ہوتی وہ بتوفیق الہی تین چار روپے کی بھیڑ بکری لاکر قربانی کر دیتا تھا۔ آج کل کے گرام اور ہوشیارنہ خوں نے یہ مسائل عوام کے لئے مشکل بنا دیئے ہیں) ج یہاں بھی وہی اوپر والا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی اہلیہ کے پاس زیور کے علاوہ کچھ روپیہ پیسہ بھی بطور ملک رہتا تھا تو قربانی واجب تھی اور زکوٰۃ بھی، جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو اتنی رقم صدقہ کرنے کا حکم ہے۔

س میری ایک شادی شدہ بیٹی جس کے پاس پندرہ سال کی عمر سے دو تین تولے سونے کا زیور رہا ہے اور شادی کے بعد اور زیادہ ہی ہے۔ اس کی طرف سے نہ میں نے کبھی قربانی کی نہ اس نے خود کی اور نہ شوہر اس کی طرف سے کرتا ہے۔ ایسے میں کیا میری اس بیٹی پر ۱۵ سال کی عمر سے قربانی فرض ہے اور وہ بھی تمام سالوں کی قربانیاں ادا کرے؟ ج اوپر کا مسئلہ من و عن یہاں بھی جاری ہے۔

س چند ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ۲۶۲۵ روپے ہیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے۔ لیکن ان کے پاس ٹی وی ہے، جس کے دام تقریباً دس ہزار روپے ہیں۔ ایسے لوگوں پر قربانی فرض ہے کہ نہیں؟

ج ٹی وی ضروریات میں داخل نہیں بلکہ لغویات میں شامل ہے۔ جس کے پاس ٹی وی ہو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے اور اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔

س..... میں زیادہ تر مقروض رہا اس لئے میں نے بہت کم قربانی کی ہے۔ جبکہ میرے اور اخراجات ایسے ہیں کہ میں ان میں تمہوڑا بہت رد و بدل کر کے قربانی کر سکتا ہوں۔ قرض اپنی جگہ پر ہے جس کو رفتہ رفتہ ادا کرتا رہتا ہوں تو کیا میرا ایسی حالت میں قربانی کرنا صحیح ہو گا؟

ج..... ان حالات میں یہ تو ظاہر ہے کہ قربانی آپ پر واجب نہیں، رہا یہ کہ قربانی کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اس قرض کو بہ سہولت ادا کر سکتے ہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا جائز بلکہ بہتر ہے ورنہ نہیں کرنی چاہئے۔

س..... سنا ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی فرض نہیں۔ میرا ایک نابالغ نواسہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ کیا میں اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ قربانی صحیح ہوگی؟

ج..... اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے کیجئے اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو نابالغ نواسے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ مگر نابالغ کے بجائے اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف کرنا بہتر ہو گا۔

س..... میرا ایک شادی شدہ بیٹا عرب میں رہتا ہے۔ اس نے نہ ہم کو قربانی کرنے کے لئے لکھا اور نہ قربانی کرنے کے لئے پیسے بھیجے۔ لیکن ہم والدین نے اس کی محبت میں اس کی طرف سے بکرا قربان کر دیا۔ یہ قربانی صحیح ہوئی یا غلط؟

ج..... نقلی قربانی ہوگئی۔ لیکن واجب قربانی اس کے ذمہ رہے گی۔

س..... یا بجائے بکرے کے اس بیٹے کی طرف سے اس کی بے خبری میں گائے میں ایک حصہ لے لیا۔ کیا اس کی طرف سے اس طرح حصہ لینا صحیح ہوا؟ اگر غلط ہوا تو گائے کے باقی حصہ داروں کی قربانی صحیح ہوئی یا غلط؟

ج..... چونکہ نقلی قربانی ہو جائے گی، اس لئے گائے میں حصہ لینا صحیح ہے۔

عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے

س..... کیا عورت کو اپنی قربانی خود کرنی چاہئے یا شوہر کرے؟ اکثر شوہر حضرات بہت سخت ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں تنگ دست رکھتے ہیں، ایسی صورت میں شری مسئلہ بتائیے۔

ج..... عورت اگر خود صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ورنہ مرد کے ذمے بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ گنجائش ہو تو کر دے۔

برسر روز گلر صاحب نصاب لڑکے، لڑکی سب پر قربانی واجب ہے
چاہے ابھی ان کی شادی نہ ہوئی ہو

س..... والد محترم اچھے عمدے پر فائز ہیں۔ پہلی بیوی سے ماشاء اللہ سے پانچ بہن بھائی ہیں۔
جس میں تین لڑکیاں بھی ہیں جب کہ دونوں جوان بھائی اور ایک بہن برسر ملازمت ہیں۔ سوتیلی
ملاں کی دو چھوٹی بچیاں ہیں جو اسی گھر میں فلک فلک کمرے میں رہتی ہیں۔ والد محترم نے دو
بکروں کی قربانی کی اور دونوں بیٹے، ایک بیٹی نے گائے میں حصہ لیا جو کہ تینوں غیر شادی شدہ
ہیں۔ اپنی کھلی سے انہوں نے گائے میں حصہ لیا تھا جب کہ دونوں نوجوان بھائی کھلے ہیں اور
والد بھی ابھی خاصی اکم لار ہے ہیں۔ پوچھتا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غیر شادی
شدہ لڑکی کا قربانی کرنا جائز ہے؟ باپ بیٹے اور بیٹی سب نے مل کر پانچ قربانیاں کی ہیں کیا ایک گھر
میں پانچ قربانی کرنا جائز ہے؟

ج..... اگر، باپ بیٹے اور بیٹیاں سب برسر روز گلر اور صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے ذمہ فلک
فلک قربانی واجب ہے اس لئے گھر میں اگر پانچ قربانیاں ہوئیں تو ٹھیک ہوا۔ کیونکہ ہر عاقل بالغ
مرد عورت پر ملک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر
شادی شدہ۔

خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولاد کی طرف سے
قربانی

س..... ہم پانچ بھائی ہیں، تمام شادی شدہ ہیں اور والدین کے ساتھ اکٹھا رہتے ہیں۔ تمام
برادران جو کھلتے ہیں، والد صاحب کو دیتے ہیں صرف جیب خرچہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس
صورت میں ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ اب تک والدین اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہم
نہیں کرتے لیکن اس دفعہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے کیونکہ والد صاحب کے پاس تقریباً تیس ہزار
روپیہ سرمایہ ہے۔ برائے کرم از روئے شرع ہمدے لئے کیا حکم ہے والدین کا قربانی کرنا کلنی
ہے یا ہم بھی کریں گے؟

ج..... آپ کے والد صاحب کو چاہئے کہ آپ پانچوں بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں بلکہ پانچوں کی بیویوں کے پاس بھی زیورات اور نقدی وغیرہ اگر اتنی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو ان کی طرف سے بھی قربانیاں ہونی چاہئیں۔ بہر حال گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے لہذا پر قربانی واجب ہوگی اور اگر کمانے کے باوجود مالک نصاب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔

کیا مقروض پر قربانی واجب ہے

س..... کیا مقروض پر قربانی واجب ہے؟ جب کہ مقروض خود کو پابند شریعت بھی کہتا ہو اور قرض کی رقم قربانی کے لئے خریدے جانے والے جانور سے بھی کم ہو؟
ج..... اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں ساڑھے بان تو لے چاندی کی مالیت حاجات اصلہ سے زائد موجود ہو تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔

قربانی کے بدلہ میں صدقہ و خیرات کرنا

س..... اگر باوجود استطاعت کے قربانی نہ کی تو کیا کفارہ دے؟
ج..... اگر قربانی کے دن گزر گئے، بلا غنیمت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہو گا ہمیشہ گناہ گار رہے گا کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر اجماع صحابہؓ اس پر شہد ہیں۔

صاحب نصاب پر گزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے

س..... کیا صاحب نصاب عورت پر پچھلے سالوں کی بقر عید کی قربانی دینی ضروری ہے جب کہ وہ ان سالوں میں صاحب نصاب تھی۔ اگر ضروری ہے تو لیک بکرے کی قیمت ۵۰۰ اگر لوسط قیمت طے کر لیں تو ہر سال کی اتنی ہی رقم کسی غریب کو یا مدرسے یا مسجد کس کو دیں؟ بقر عید کی قربانی

واجب ہے یا سنت موکدہ؟

ج..... اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ہی ضروری ہے اس کی رقم دینا جائز نہیں لیکن اگر قربانی نہ کی ہو تو جتنے سالوں سے قربانی واجب تھی اور ادا نہیں کی تھی ان سالوں کا حساب کر کے (ایک حصہ کی قیمت جتنی بنتی ہے) وہ رقم ادا کرے اور یہ رقم کسی فقیر پر صدقہ کرنا واجب ہے۔

تابلغ بچے کی قربانی اسکے مال سے جائز نہیں

س..... زید کا انتقال ہوا اس کے تین بچے ہیں عمر، بکر، فاطمہ اور وہ تینوں تابلغ نہیں ہیں اور ان کا رشتہ داری یعنی ان کے اوپر خرچہ کرنے والا ان کا چچا شعیب ہے اب ان کا وارث تو وہی ہوا۔ اب شعیب کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ یا قربانی وغیرہ دے؟

ج..... امام ابو حنیفہؒ کے ہاں تابلغ بچے کے مال پر نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ قربانی واجب ہے۔ اس لئے دلی کو ان کے مال سے زکوٰۃ اور قربانی کی اجازت نہیں۔ البتہ ان کے مال سے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور ان کی دیگر ضروریات پر خرچ کرے۔

گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا ثواب اسی کو ملے گا

س..... گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے کیا جو لوگ گھر میں اس کی کفالت میں ہیں ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ ایک سال گھر کے سربراہ نے اپنے نام سے قربانی کی تو دوسرے سال وہ اپنے لڑکے، لڑکی یا بیوی کے نام سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا؟ اور صحیح ہے یا نہیں؟

ج..... گھر کا سربراہ اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ثواب صرف اسی کو ملے گا دوسرے لوگوں کو نہیں اگرچہ وہ اس کی کفالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔

گھر کا سربراہ اگر اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہو جائے گی اور ثواب بھی اسی کو ملے گا چاہے جس کی طرف سے قربانی کی جلد ہی ہے اس پر قربانی

واجب ہو یا نہیں لیکن گھر کے سربراہ کے سلسلہ میں دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تو اب سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے مستقل قربانی کرے اور نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوگا، کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپنا ذمہ ساقط نہیں ہوتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سربراہ پر شرعی طور پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی اور گھر کے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی اس لئے اس کو مستقل قربانی کی ضرورت نہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

کیا مرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے

س..... میں نے سنا ہے کہ اگر اپنے کسی مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سال تو میں نے اپنے نام سے قربانی کر دی دوسرے سال کسی عزیز کے نام سے قربانی کر سکتا ہوں یا جب بھی اپنے مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہوں تو ساتھ مجھے اپنے نام سے بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو؟

ج..... اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے کرنا تو ضروری ہے۔ بعد میں گنجائش ہو تو مرحوم کی طرف سے بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے خواہ نہ کریں۔

مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی
دینا

س..... جس صاحب حیثیت شخص پر قربانی فرض ہے۔ وہ اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ اپنی بیوی، مرحوم والدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین اپنے مرحوم دادا، دادی کی طرف سے بھی قربانی کرے تو کیا جائز ہے؟ اور کیا ثواب ان کو پہنچ جائے گا؟

ج..... منجائش ہو تو اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کی جائے، بہت ہی مبارک عمل ہے، ان سب کو اس کا ثواب انشاء اللہ پہنچے گا۔

اگر کفایت کر کے جانور خرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں

س..... ہمارے والد صاحب ملازم ہیں اور تنخواہ ملتی ہے وہ مہینے کے مہینے کھاپی لیتے ہیں، لیکن تنخواہ اتنی ہے کہ اگر کفایت سے خرچ کی جائے تو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں بتائیے والد صاحب پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟

ج..... اس صورت میں قربانی واجب نہیں البتہ اگر گھر میں اتنی نقدی ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے۔ یا کفایت شعاری کر کے اتنی رقم جمع کر لیں جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ اور اگر کفایت شعاری کر کے قربانی کی رقم بچائی جاسکتی ہے تو قربانی کرنا بہتر ہے۔ واجب نہیں۔

فوت شدہ آدمی کی طرف سے کس طرح قربانی دیں

س..... کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے فوتگی کے بعد اس کے ورثاء اس کے لئے قربانی دینا چاہتے ہیں قربانی دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ گوشت کی تقسیم کا طریقہ اور قربانی کی حد کیا ہے؟

ج..... وفات یافتہ حضرات کی طرف سے جتنی قربانیاں جی چاہے کر سکتے ہیں گوشت کی تقسیم کا کوئی الگ طریقہ نہیں۔ بس فوت شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔

مرحوم والدین کی طرف سے قربانی دینا

س..... کیا قربانی فوت شدہ والدین کی طرف سے دی جاسکتی ہے جب کہ خود اپنی ذاتی نہ دے سکے؟

ج..... جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کا اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے اگر منجائش ہو تو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی دے اور اگر خود صاحب نصاب نہیں اور قربانی اس

پر واجب نہیں تو اختیار ہے کہ خواہ اپنی طرف سے کرے، یا والدین کی طرف سے، اگر میں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو دونوں کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، اسی طرح اگر باپ بھی صاحب نصاب ہو اور اس کے بیٹے بھی برسر روزگار اور صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، بہت سے گھروں میں یہ دستور ہے کہ قربانی کے موقع پر گھرانے کے بہت سے افراد کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود ایک قربانی کر لیتے ہیں، کبھی شوہر کی نیت سے، کبھی بیوی کی طرف سے اور کبھی مرحومین کی طرف سے، یہ دستور غلط ہے بلکہ جتنے افراد مالک نصاب ہوں ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔

زکوٰۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا

س..... اگر کوئی شخص زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا، لیکن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟

ج..... اگر خلوص سے قربانی کرے تو قربانی کا ثواب ہو گا اور زکوٰۃ نہ دینے کا وہیل الگ ہو گا اور اگر محض گوشت کھانے یا لوگوں کے طعنہ سے بچنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ مخلوق یا دکھاوے کے لئے عمل کرنے کی وجہ سے مزید عذاب ہوگا۔

جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ کرے تو اسے بھی ثواب ہوگا

س..... ہمارا خاندان پانچ افراد پر مشتمل ہے، محدود آمدنی ہے بڑے بھائی کا اپنا چھوٹا موٹا کلر و بڈ ہے اور میری ۱۰۰۰ تنخواہ ہے جس میں ۸۰۰ ملتی ہے۔ ۱۹۷۴ء میں تباہ حال ہو کر مشرقی پاکستان سے آئے ہیں، کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، صرف ضرورت کی اشیاء موجود ہیں جو کچھ کماتے ہیں وہ تمام خرچ ہو جاتا ہے، اس سے بچت مشکل ہے، نہ ہی سونا چاندی ہے۔ کیا میرے تمام حالات کے تحت مجھ پر قربانی فرض ہے اور کیا اس طرح، ۱۰ روپے روزانہ جمع کر کے اس سے جانور لانا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کن حالات میں جائز ہے؟

ج..... قربانی اس شخص کے ذمہ واجب ہے جس کے پاس ضروری استعمال کی اشیاء اور ضروری اخراجات سے زائد نصاب کی مالیت ہو یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی کی مالیت کے برابر۔ آپ

نے جو حالات تحریر فرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں لیکن اگر آپ کچھ رقم پس انداز کر کے قربانی کر دیا کریں تو بہت اچھی بات ہے، راقم الحروف کو رقم پس انداز کرنے کی عادت تو کبھی نہ پڑی البتہ اس خیل سے قربانی ہمیشہ کی کہ جب ہم اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کے معاملہ میں ناداری کا بہانہ کیوں کیا جائے۔ الغرض اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کو پورا ثواب ملے گا۔

قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا

س..... اگر کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ قربانی کے پیسوں سے قربانی دینے کے بجائے کسی مستحق شخص کی خدمت کرے، جس کو واقعتاً ضرورت ہو تو کیا قربانی کا ثواب مل جائے گا، یا قربانی کا ثواب صرف قربانی سے ہی ملتا ہے؟ یاد رہے کہ قربانی دینے والا ویسے اس غریب شخص کی خدمت نہیں کر سکتا۔

ج..... جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو، اس کے ذمہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے، غریبوں کو پیسے دینے سے قربانی کا ثواب نہیں ہو گا بلکہ یہ شخص گناہ مکر ہو گا۔ اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس کو اختیار ہے خواہ قربانی کرے یا غریبوں کو پیسے دے دے۔ لیکن دوسری صورت میں قربانی کا ثواب نہیں ہو گا۔ صدقہ کا ثواب ہو گا۔

کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دیں

س..... اکثر دیکھنے میں آتا ہے عید قربان کے موقع پر مسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور یوں اکثر لوگ گوشت زیادہ یا خراب ہونے کی وجہ سے ٹالیوں میں ضائع کر دیتے ہیں مختصر یہ کہ یوں پھینک دیتے ہیں کیا اگر کوئی انسان چاہے تو قربانی کے جانور جتنی رقم کسی شخص کو بطور امداد دے سکتا ہے کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے؟

ج..... قربانی اہل استطاعت پر واجب ہے۔ قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوتا۔ بلکہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے گوشت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے خود نہ کھاسکے تو دوسروں کو دیدے۔

قربانی کا جانور اگر فروخت کر دیا تو رقم کو کیا کرے

س..... اگر کسی آدمی نے قربانی کا بکرا لیا ہو اور اس کو قربانی سے پہلے کسی وجہ سے فروخت کر دے۔ اب وہ رقم کسی اور جگہ خرچ کر سکتا ہے؟
ج..... وہ رقم صدقہ کر دے اور استغفر کرے اور اگر اس پر قربانی واجب تھی تو پھر دوسرا جانور خرید کر قربانی کے دنوں میں قربانی کرے۔

سات سل مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے

س..... قربانی کے مسائل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں کہ منسن پر کتنی قربانیاں واجب ہیں کیونکہ میں نے یہ سنا ہے بلکہ عمل کرتے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے تو پھر اس پر لگاتار سات سات تک سات قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں اور وہ سات قربانیوں کے بعد بری الذمہ ہے کیا یہ حد درست ہے؟

ج..... جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر واجب نہیں۔ سات سات تک قربانی واجب ہونے کی بات بالکل غلط ہے اگر اس سل صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہے اور اگلے سل صاحب نصاب نہ رہے تو قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔

بقر عید پر جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں

س..... دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے اور اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے جناب عالی اب کچھ دنوں کی بات ہے بقر عید ہونے والی ہے اور اس موقع پر قربانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کام کے لئے تمام ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں اور پھر لوگ قربانی بھی کرتے ہیں اپنی، اپنے والدین کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اپنے پیر کے نام پر وغیرہ وغیرہ۔

رمضان میں ایک عزیز کے بیچ کا حقیقہ تھا ان کے ساتھ بکرے خریدنے گیا تو ایک ایک بکرا ۱۲۰۰ روپے کا ملا، پھر ابھی پچھلے ہفتے تقریباً بکرے ۱۵۰۰ اور ۱۶۰۰ روپے کے خرید کئے گئے، وجہ

گرانی قیمت بقرعید کی آمد بقتل فروخت کرنے والے کے بقرعید آرہی ہے، دام بڑھ گئے۔ کما جاتا ہے موقع سے فائدہ اٹھانا، دام بڑھاؤ تا اور اس خیل سے بل روک لینا کہ کل قیمت بڑھ جائے گی ان سب کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا اور ایسے تاجروں پر اللہ کی لعنت اور پھر یہ کہ ظالم سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ظلم سے ہاتھ روک لے وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال یہ ہے کہ ظلم سے کیوں کر بچا جائے؟ ہم میں سے کون کس کے خلاف جنگ کرے اور کیونکر؟ کیا ہم جانور کی قربانی نہ کریں اور اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ میں ذلتی طور پر گلن کرتا ہوں کہ اگر تمام علماء مل کر یہ اعلان کریں کہ چونکہ بقرعید پر تاجر دام بڑھا دیتا ہے اس لئے اب اس سل جانور کی قربانی نہ ہو بلکہ کچھ اور۔ اگر ایسا ہو گیا تو آج اگر نہیں تو کل قیمت کم ضرور ہوگی ورنہ ہم اور آپ سب قربانی کی فرضیت کے نام پر ظالم کو اور طاقتور کریں گے، یہ مسئلہ متوسط شہری آبادی کے لاکھوں افراد کا ہے۔

مولانا صاحب اس کا جواب مکمل بذریعہ اخبار بہتر ہو گا کیونکہ اگر فرض کر اہیت سے ادا ہو تو پھر بات بنتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔

بج..... قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے اور واجبہ شرعیہ کو اٹھا دینے یا موقوف و منسوخ کر دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، علماء کرام کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اس لئے آپ علماء سے جو اعلان کروانا چاہتے ہیں یہ دین میں ترمیم و تحریف کا مشورہ ہے، دین میں ترمیم و تحریف حرام اور گناہ عظیم ہے اور اس کا مشورہ دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔

جہاں تک قیمتوں کے اعتدال پر رکھنے کا سوال ہے اس کے لئے دوسری تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں اور ضرور کی جانی چاہئیں اور جن لوگوں کے پاس مہنگے جانور خریدنے کی گنجائش نہیں ان پر قربانی واجب نہیں۔ وہ نہ کریں، مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ اس سل قربانی ہی کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔

ایام قربانی

قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں

س..... قربانی کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی سات دن تک جائز ہے حالانکہ ہم لوگ صرف ۳ دن قربانی کرتے ہیں، وضاحت فرمائیں کہ تین دن کر سکتے ہیں یا سات دن بھی کر سکتے ہیں؟

ج..... جمہور ائمہ کے نزدیک قربانی کے تین دن ہیں، امام شافعی چوتھے دن بھی جائز کہتے ہیں، حنفیہ کو تین دن ہی قربانی کرنی چاہئے۔

قربانی دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کو کرنی چاہئے

س..... قربانی کس دن کرنی چاہئے؟

ج..... قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں، قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں، گیارہویں، اور بارہویں تہہ نگیں ہیں۔ ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔

شہر میں نماز عید سے قبل قربانی کرنا صحیح نہیں

س..... شہر میں زید نے نماز عید سے پہلے صبح ہی قربانی کی۔ یہ قربانی ہوئی یا نہیں؟

ج..... یہ قربانی نہیں ہوئی، لہذا اگر اس پر قربانی واجب تھی تو قربانی کے دنوں میں دوسری قربانی کرنا اس پر واجب ہوگا۔

قربانی کرنے کا صحیح وقت

۱..... برہ کرم قربانی کرنے کا صحیح وقت، نماز سے پہلے ہے یا بعد میں ہے اس پر روشنی ڈالئے۔

ج..... جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گلوں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ (درمختار) قربانی رات کو بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں (شامی)

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز

کن جانوروں کی قربانی جائز ہے

س..... بکرا، بکری، بھیڑ، دنبہ کن کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں؟
 ج..... بھیڑ، بکرا، دنبہ، ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کلنی ہے۔ بشرطیکہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری ایک سل کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دنبہ اگر اتنا فریہ اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سل بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس دو سل کی، اونٹ پانچ سل کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کلنی نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بیتاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینک پیدائشی طور پر نہ ہوں یا بیچ میں سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں! سینک جڑ سے اکڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ (شامی) خصی (بدھیا) بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ (شامی) اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جاسکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا تملی سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی) جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی، درمقلد) اسی

طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور صحیح سالم خریدتا تھا پھر اس میں کوئی عیب ملے تو قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ (در مختار وغیرہ)

قربانی کا بکرا ایک سل کا ہونا ضروری ہے۔ دو دانت ہونا علامت ہے۔

س..... بکرے کے دو دانت ہونا ضروری ہے۔ یا تندرست توانا بکرا دو دانت ہوئے بغیر بھی ذبح کیا جاسکتا ہے یا یہ حکم صرف دہنے کیلئے ہے؟
ج..... بکرا پورے لیک سل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہو گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ دو دانت ہونا اس کی علامت ہے۔ بھینڑ اور دنبہ اگر عمر میں سل سے کم ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ سل بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔

کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے

س..... چند جانور فروش یہ کہہ کر جانور فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگ وغیرہ کا جو عیب ہے، یہ اس کا پیدائشی ہے یعنی قدرتی ہے۔ جبکہ عیب دار جانور عقیدہ و قربانی میں شامل کرنے کو روکا جاتا ہے۔
ج..... عیب خواہ پیدائشی ہو، اگر ایسا عیب ہے جو قربانی سے ملنے ہے، اس جانور کی قربانی اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔

گابھن جانور کی قربانی کرنا

س..... اگر گائے کی قربانی کی اور وہ گائے گابھن تھی لیکن ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ یعنی یہ معلوم

نہیں ہوتا تھا کہ گا بھن ہے یا نہیں؟ لیکن جب قربانی کی تو پیٹ سے بچہ نکلا تو بتائیں کہ وہ قربانی ہو گئی ہے یا دوبارہ کریں؟

ج..... گا بھن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، بچہ اگر زندہ نکلے تو اسکو بھی ذبح کر لیا جائے اور اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں اس کو پھینک دیا جائے، بہر حال حلالہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں۔

اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے

س..... کسی شخص نے قربانی کی بکری خریدی۔ اس میں یہ عیب ہے کہ اس کا دایاں سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا اس کی قربانی درست ہے؟

ج..... سینگ اگر جڑ سے اکڑ جائے تو قربانی درست نہیں۔ اور اگر اوپر کا خول اتر جائے یا ٹوٹ جائے مگر اندر سے گودا سالم ہو تو قربانی درست ہے۔

کیا خصی جانور عیب دار ہو جاتا ہے

س..... پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانور کو خصی کرنا گناہ ہے۔ چونکہ یہ نسل کشی میں شامل ہے۔ یہ جانور اپنے مقصد حیات میں ناکارہ کر دیا گیا، یہ ایک طرح کا عیب ہو گیا۔ انسان نے صرف اپنے حزرے کیلئے گوشت بہتر ہونے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟

ج..... آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے۔ خصی جانور کی قربانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جس سے جانور خصی کرانے کا جواز اور اس قسم کے جانور قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہو جاتے ہیں۔

خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے

س..... یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہئے۔ لیکن ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ خصی بکرے کی قربانی دی جاتی ہے۔ اب کیا اس بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں؟

ج..... بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت دوسرے بکرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے خصی بکرے کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔

خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث

س..... کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ مندرجہ ذیل عبارت میں حدیث کی دلیل سے بہائم کو خصی کرنا سختی سے ممنوع قرار دیا ہے۔ جبکہ آپ نے شامی کے حوالہ سے قربانی کے لئے خصی جانور نہ صرف جائز بلکہ افضل قرار دیا ہے۔

”جانور کو خصی بنانا منع ہے“

عن ابن عباس « أن رسول الله ﷺ نهى عن صبر

ذی الروح وعن إخصاء البهائم نهياً شديداً »

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذی روح کو باندھ کر تیر اندازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خصی بنانے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔“

اس حدیث کو بزاز نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ”صحیح بخاری“ یا ”صحیح مسلم“ کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۵، صفحہ ۲۱۵۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نیل الاوطال ج ۸، صفحہ ۷۳) برائے مہربانی مسئلہ صور تحمل کی وضاحت سند صحیح سے فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

ج..... متعدد احادیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈھوں کی قربانی کی۔ ان احادیث کا حوالہ مندرجہ ذیل ہے:-

۱..... حدیث جابر رضی اللہ عنہ، ابو داؤد۔ صفحہ ۳۰، جلد ۲۔ مجمع الزوائد صفحہ ۲۲، جلد ۳

۲..... حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن ماجہ صفحہ ۲۲۵

۳..... حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ۔

۴..... حدیث ابی رافع رضی اللہ عنہ، مسند احمد صفحہ ۸، جلد ۶۔ مجمع الزوائد صفحہ ۲۱، جلد ۳

۵..... حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، مسند احمد صفحہ ۱۹۶، جلد ۶۔
 ان احادیث کی بنا پر تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہے۔
 حافظ موفق الدین ابن قدامہ المقدسی المنہبلی (متوفی ۶۳۰ھ) السننی میں لکھتے ہیں:

”ویجزی الغصی لأن النبی ﷺ ضحی بکبشین
 موجونین ولأن الخصاء ذهاب عضو غیر مستطاب
 یطیب اللحم بذہابه ویكثر ویسمن قال الشعبي ما زاد فی
 لحمه وشحمه أكثر نما ذهب منه وبهذا قال الحسن وعطاء
 والشعبي والنخعی ومالك والشافعی وأبو ثور وأصحاب
 الرأی ولا نعلم فیہ مخالفاً“

(السننی مع الشرح الکبیر۔ صفحہ ۱۰۲، جلد ۱۱)

”اور خصی جانور کی قربانی جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خصی مینڈھوں کی قربانی کی تھی۔ اور جانور کے خصی ہونے سے
 ناپسندیدہ عضو جاتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے گوشت عمدہ ہو جاتا ہے
 اور جانور موٹا اور فریہ ہو جاتا ہے۔ امام شعبیؒ فرماتے ہیں خصی جانور
 کا جو عضو جاتا رہا اس سے زیادہ اس کے گوشت اور چربی میں اضافہ
 ہو گیا۔ امام حسن بصریؒ، عطاء، شعبیؒ، مالک، شافعیؒ، ابو ثور اور
 اصحاب الرأی بھی اسی کے قائل ہیں اور اس مسئلہ پر ہمیں کسی مخالف
 کا علم نہیں۔“

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی ثلاث ہے اور تمام ائمہ
 دین اس پر متفق ہیں کسی کا اس میں اختلاف نہیں، تو معلوم ہوا کہ حلال جانور کا خصی کرنا بھی
 جائز ہے۔ سوال میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ان جانوروں کے بدلے میں ہوگی جن کا

گوشت نہیں کھایا جاتا اور جن کی قربانی نہیں کی جاتی۔ ان کے خصی کرنے میں کوئی منفعت نہیں۔

قربانی کے جانور کے بچہ ہونے پر کیا کرے

س..... قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو اس کا کیا کرنا چاہئے؟

ج..... قربانی کے جانور کے اگر ذبح کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کرنا چاہئے۔

قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا کرے

س..... ایک شخص نے قربانی کرنے کیلئے بکرا خریدا۔ لیکن وہ گم ہو گیا۔ بقر عید کے چوتھے یا پانچویں دن وہ مل گیا تو اب اس کا کیا کرے؟

ج..... جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اگر دوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے۔ لیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں۔ اگر یہ غریب ہے جس پر پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، فظلی طور پر اس نے قربانی کے لئے جانور خریدا پھر وہ مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں۔ ہاں! اگر گمشدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تو اس کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایام قربانی کے بعد ملے تو اس جانور کا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ (بدائع صفحہ ۶۶، جلد ۵)

قربانی کے حصے دار

پوری گائے دو حصہ دار بھی کر سکتے ہیں

س..... گائے دو حصہ دار بھی کر سکتے ہیں یا سات حصہ دار ہونا ضروری ہے؟
ج..... دو تین حصہ دار بھی کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو یعنی
حصے پورے ہونے چاہئیں مثلاً ایک کے تین دوسرے کے چل یا ایک کا ایک دوسرے کا
چھ۔

مشترک خریدار ہوا بکرا قربانی کرنا

س..... بالفرض چند آدمیوں مثلاً ۶-۸ نے مل کر ایک بکرا خریدا جس میں سب برابر کے
شریک ہیں۔ ایام النحر میں سب نے بلا اتفاق اس بکرے کو منجانب حضور پاک قربان کیا۔ تو
یہ قربانی صحیح اور درست ہوئی یا نہیں؟

ج..... یہ درست نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جانب سے قربانی کرے تو صحیح ہو گا کیونکہ یہ نقلی قربانی برائے ایصال ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم ہے اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے اور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ
ایک ہی آدمی کی جانب سے ہو سکتا ہے جب کہ مذکورہ صورت ایک حصہ کئی آدمیوں کی
جانب سے ہے۔

جانور ذبح ہو جانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں

س..... پچھلے دنوں عید الاضحیٰ پر چند افراد نے مل کر یعنی حصے رکھ کر ایک گائے کی قربانی کرنا چاہی، اس طرح حصے رکھ کر گائے کو ذبح کر دیا گیا گائے کے ذبح کر دینے کے بعد مذکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے (جس کے اس گائے میں چند حصے تھے) دوسرے افراد سے (جنہوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا) کہا کہ میں حصہ نہیں رکھتا چاہتا لہذا میری جگہ آپ اپنے حصے رکھ لیں۔ کیا مذکورہ شخص جب کہ قربانی کی نیت کر چکا ہے، اور سب نے مل کر گائے ذبح بھی کر دی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کر سکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہو سکتی ہے جب کہ ہمارے گلوں کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔

ج..... قربانی ذبح ہو جانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ قربانی صحیح ہو گئی جس کے چند حصے تھے اس کی طرف سے اتنے حصوں کی قربانی ہو گئی۔

ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے

س..... اگر ایک گائے میں چار زندہ اور تین مرحوم کی طرف سے قربانی ہو تو کیا جائز ہے؟ اور طریقہ کیا ہے؟

ج..... کر سکتے ہیں اور طریقہ وہی ہے جو سات زندہ آدمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔

قربانی کیلئے دعا

جانور ذبح کرتے وقت کی دعا

بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ ﴿ اِنِّي وَجِهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ خَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ
صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لَهٗ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴿

”میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور
زمین سب سے یکسو ہو کر۔ اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں
سے۔ بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کیلئے ہے
جو پالنے والا سارے جملوں کا ہے۔“

جانور ذبح کرنے کے بعد کی دعا

«اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ

وَخَلِيْلِكَ اِبْرٰهِيْمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ»

”اے اللہ اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما جیسے کہ آپ نے قبول کیا اپنے

حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام سے۔“

قربانی کے بعد کی دعا کا ثبوت

س..... جمعہ کی اشاعت میں اقرآ کے صفحہ پر آپ نے قربانی کرتے وقت کی دعا اور قربانی کے بعد کی دعا تحریر فرمائی ہے۔ لیکن آپ نے اس پر کسی کا حوالہ درج نہیں کیا۔ آیا یہ کس حدیث سے اخذ کی گئی ہے؟ یہ اعتراض مجھے اس وقت ہوا جب ہمارے محلے کی ”دلی مسجد“ المعروف بڑی مسجد دہلی کالونی کراچی کے خطیب نے بھری مسجد میں یہ بات کہی کہ میں نے اب تک یہ دعا کسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ اور اس کی تصدیق انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کی جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اور اسی مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔ یہ خطیب صاحب ہر جمعہ آپ کا اقرآ کا صفحہ پڑھ کر آتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے میں نے لگایا ہے کہ وہ عموماً آپ کے صفحے کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ ”آج جنگ میں آیا۔“ انہوں نے اس مسئلہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا جائے تو میں رجوع کر لوں گا۔ اس لئے آپ نے جو بعد از قربانی کی دعا درج کی ہے وہ کس حدیث سے ماخوذ ہے؟ اور اس کا اتباع کس کس نے کیا؟

رج..... مشکوٰۃ شریف ”باب فی الاضحیۃ“ میں صحیح مسلم کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کا سینگوں والا مینڈھا زینع فرمایا پھر یہ دعا فرمائی « بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » (صفحہ- ۱۲۷)

اور اسی کتب میں ہی بروایت احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور دلرمی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے یہ دو آیتیں پڑھیں:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور ﴿قُلْ إِن
صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

اور پھر یہ دعا پڑھی۔

«اللهم منك ولك عن محمد وأمته» اور پھر ”بسم اللہ اللہ

اکبر“ کہہ کر ذبح فرمایا۔ اور مجمع الزوائد (۳-۲۱) میں اس مضمون کی اور بھی متعدد احادیث
ذکر کی ہیں۔ اس سے قطع نظر آیت کریمہ ”رَبَّنَا قَبَلْ مَنَاكَ اَنْتَ اَسِيحُ الْعَلِيمُ“ سے واضح
ہوتا ہے کہ قبولیت عبادت کی دعا خود بھی مطلوب ہے۔

قریبانی کے ثواب میں دوسرے مسلمانوں کی شرکت

س..... جنگ میں ”قریبانی کے بعد کی دعا کا ثبوت“ کے عنوان کے تحت جواب میں آپ نے
مشکوٰۃ شریف ”باب فی الاضحیۃ“ میں صحیح مسلم کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
حدیث ذکر کی ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ سینگوں والا مینڈھا ذبح فرمایا۔

پھر یہ دعا فرمائی ”بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد“

(صفحہ۔ ۱۲۷)

اس حدیث سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مینڈھے، بکرے وغیرہ جیسے جانور کی
قریبانی ایک شخص سے زیادہ افراد کی طرف سے دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی دعا میں اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور پوری امت محمدیہ کی طرف سے قریبانی
کی قبولیت چاہی ہے۔ کیا اسی سنت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر عمل کر کے ہر مسلمان اپنی قریبانی
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدک نام شامل کر سکتا ہے؟ جبکہ انہوں نے امت مسلمہ کو
اپنی طرف سے دی ہوئی قریبانی میں شامل کیا۔

ج..... ایک بکری یا مینڈھے کی قریبانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے۔، آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈھا ذبح فرمایا تھا اس کے ثواب میں پوری امت کو شریک فرمایا تھا۔ ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب کئی آدمیوں کو بخشا جاسکتا ہے۔

ذبح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم

س..... شر میں جو جانور ذبح خانہ سے ذبح ہو کر آتے ہیں ان میں سے شرعی ذبح شدہ و نادر ہی کوئی ہوتا ہے ورنہ اکثر بغیر کلمہ پڑھے یا تکبیر کہہ کے زمین پر لٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہے یہ احقر کا چشم دید مشاہدہ ہے اور اس بارے میں قصب حضرات بھی تقریباً معذور ہیں اس لئے کہ اکثر ان میں سے نماز روزہ سے ناواقف اور احکام شریعت سے غافل ہیں اور شرعی ذبیحہ کی پابندی کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔

ج..... اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے وہ ذبیحہ تو حلال ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ حلال نہیں اور جس شخص کو معلوم ہو کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں اس کے لئے اس کا کھانا اور پینا بھی حلال نہیں۔ بہر حال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرعی طریقہ پر ذبح کرائے اور اس کی نگرانی بھی کرے کہ شرعی طریقہ پر ذبح کیا جاتا ہے یا نہیں۔

مسلمان قصائی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں یہ شک غلط ہے

س... دیکھنے میں آیا ہے کہ قصائی نماز جمعہ تک ادا نہیں کرتے اور گوشت میں مصروف نظر

آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس چیز (جاوڑ) پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ لہذا ہمیں شک ہے یہ بات کسی جاوڑ ذبح کرتے وقت تکبیر نہیں کہتے ہوں گے۔ قصائیوں سے منہ لگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ استہلالی بد اخلاق ہوتے ہیں آخر گوشت سے کب تک اجتناب کیا جاسکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ آیا قصائی غیر مسلم نہ ہو؟ یا اگر ہم کسی پڑوس یا رشتہ دار کے ہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں علم نہیں کہ یہ کہاں سے ذبح شدہ ہے۔ اگر قصائی غیر مسلم ہو یا مسلمان بھی ہو، تو بھی تکبیر پڑھتا ہے یا نہیں اور رشتہ داروں سے پوچھنا جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے لہذا ہمیں خود بھی علم نہیں ہو گا۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

ج..... ذبح کرنے والے عموماً مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہئے کہ وہ ذبح کے وقت تکبیر پڑھتے ہوں گے ایسے احتمالات جو آپ نے لکھے ہیں قتل انتہا نہیں البتہ اگر یقینی طور پر کسی قصائی کا جان بوجھ کر قصداً بسم اللہ نہ پڑھنا معلوم ہو جائے تو پھر اس کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہئے۔

آداب قربانی

س..... قربانی کرنے کے کیا آداب ہیں؟

ج..... قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بل کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بل یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے (بدائع) قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے اور ذبح کے بعد کھل اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ (بدائع)

قربانی کا مسنون طریقہ

س..... قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

ج..... اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ قربانی

کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔

قربانی کا جانور کس طرح لٹانا چاہئے

س... قربانی کا جانور ذبح کے وقت کس طرح لٹانا چاہئے؟ جانور کا سر قطب کی جانب ہو اور گلا کعبہ کی جانب یا جانور کا سر کعبہ کی جانب ہو اور گلا قطب کی جانب یعنی ذبح کرنے والے کا منہ کس جانب ہو؟

ج... جانور کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو، کوئی حرج نہیں۔

بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت ہے

س... کیا بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟

ج... جائز ہے مگر خلاف سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر خلاف سنت بھی نہ ہوگا۔

بغیر دستے کی چھری سے ذبح کرنا

س... کیا بغیر دستے کی چھری کا ذبیحہ جائز ہے؟

ج... خالص لوہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر لکڑی نہ لگی ہو تو ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے۔

عورت کا ذبیحہ حلال ہے

س... ہماری امی، نانی اور گھر کی دوسری خواتین بذات خود مرغی وغیرہ ذبح کر لیا کرتی ہیں، میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا تو چند نے کہا کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے بعض نے کہا کہ حرام ہو جاتا ہے برائے کرم بتائیں کہ عورت کا طعام کی نیت سے جانور اور

پرندوں (حلال) کو ذبح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

ج... جائز ہے، آپ کی سہیلیوں کا مسئلہ غلط ہے۔

مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت صحیح نہیں

س..... کیا مشین کے ذریعہ سے ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے؟
ج..... مشینی ذبیحہ کو اہل علم نے صحیح قرار نہیں دیا اس لئے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

سرپرچوٹ ملہ کر مشین سے مرغی ذبح کرنا غلط ہے

س..... آج کل ملک میں ”آٹومٹک پلانٹ“ پر مرغیوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر ڈبوں میں پیک کر کے پلائی کیا جاتا ہے تو عرض یہ ہے کہ ذبح کا یہ طریقہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے کیونکہ پہلے تو اس کے سرپرچوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے پھر ذبح کیا جاتا ہے آیا یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اس لئے کہ میں نے لندن کی شائع کردہ ایک کتاب میں اس کے متعلق پڑھا تھا پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائج تھا لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر یہ نظام بند کر دیا گیا اور اب مرغیوں کو زندہ ذبح کیا جاتا ہے۔

ج..... ذبح کا یہ طریقہ غلط ہے اگر سرپرچوٹ ملہ کر ذبح کرنے میں جاہور کو راحت ہوتی اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود تعلیم فرماتے جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور فہمند ثابت کرنے جلد ہے ہیں۔ اگر پاکستان میں یا کسی اور مسلمان ملک میں یہ طریقہ رائج ہے تو فوراً بند کرنا چاہئے۔

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے

س..... یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیکٹ ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر غیر مسلم ممالک (جو کہ مسلم ممالک نہیں ہیں) سے آتے ہیں معلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذبح کیا ہوگا ذبح پر تکبیر پڑھنا تو درکنار کیا ایسا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

ج..... جس گوشت کے بدلے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقہ سے ذبح کیا گیا ہو گا اس سے پرہیز کرنا چاہئے یورپ اور غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے۔

اگر مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق گوشت مہیانہ ہو تو کھانا جائز نہیں

س..... جہاز پر گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت غیر مسلمانوں کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ مسلمان کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟

ج..... کسی مسلمان یا صحیح اور واقعی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ صحیح طریقہ سے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو، دیگر غیر مسلموں کے ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت حلال نہیں۔ غیر مسلم کپنیوں کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت فراہم نہیں کیا جاتا تو اس کا کھانا جائز نہیں۔

سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال

س..... سعودی عرب میں جو گوشت بکتا ہے خاص طور پر ایام حج میں وہ چند قسم کا ہوتا ہے۔ ۱..... بیرونی مملکت سے آنے والا گوشت جو ہوتا ہے اس پر ایک توشیپ ریکارڈر کے ذریعہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح ہوتا ہے۔ ۲..... چھری پر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اور ذبح ہوتا ہے۔ ۳..... وہاں کے اہل کتاب ذبح کرتے ہیں اگرچہ اہل کتاب کا ذبح شدہ جائز ہے لیکن آج کل کے مسلمان برائے نام کے ہیں الا ماشاء اللہ تو اہل کتاب تو بدرجہ اولیٰ برائے نام ہوں گے۔ اب تو سو میں ایک بمشکل ملے گا جو صحیح اہل کتاب ہو، بہر حال یہ مسئلہ بات ہے کہ یہ لوگ (اہل کتاب) اپنے دین پر نہیں تو کیا اس حالت میں بھی ان کا ذبح شدہ اور ان کی عورتوں سے نکاح مسلمان کے لئے جائز ہو گا؟ یہ تو باہر سے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔ سعودی عرب کے ملک میں یعنی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں ایک مرغی کو کاٹ کر بغیر ٹھنڈا کئے گرم پانی یا مشین میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے پر وغیرہ اتر جائیں کھل وہ لوگ نہیں اتارتے دوسری صورت مٹی میں مذبح خانے میں دیکھی گئی ہے کہ جلاور کے ذبح ہوتے ہی ابھی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا بعض مرتبہ تو رگیں بھی صحیح نہیں کٹتیں اور دوسرا جلاور اس پر مگر اگر کاٹ لیتے ہیں۔ آیا اس طرح کا کٹنا کیا ہمدلی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ ساتھ یہ بھی بتلا دیں کہ آیا یہاں

کردہ وہ تمام صورت حل عربوں کے ہاں جائز ہے؟

ج..... اگر گوشت کے بدے میں پورا اطمینان نہ ہو کہ یہ صحیح شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہے تو احتیاطاً اس کا کھانا درست نہیں۔

س..... اب کس طرح معلوم ہو گا کہ اس ہوٹل میں غیر شرعی گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ آج مجھے سعودی عرب میں چالیس سل ہو گئے مجھے پکا علم ہے کہ ۹۰ فیصد ہوٹلوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے کیونکہ کثرت ہجوم کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ بکرے وغیرہ ذبح کر لیں۔ اسی بناء پر یہ لوگ باہر کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بتا دیتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس تمام صورت حل کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں جب کہ حقیقت تجربہ کے ذریعہ معلوم ہو چکی ہے۔

ج..... اگر کوئی دیندار مسلمان کہہ دے کہ یہ حلال گوشت ہے تو اس کا نقل معتبر ہوگا۔

کیا مسلمان غیر مسلم مملکت میں حرام گوشت استعمال کر سکتے ہیں

س..... میں امریکہ میں زیر تعلیم ہوں، یہاں پر اکثر مسلم ممالک کے طلباء ہیں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسر نہیں ہوتا تو اسٹور سے ایسا گوشت خریدتے ہیں جو اسلامی طریقہ پر ذبح شدہ نہیں ہوتا بتائیے ہم کیا کریں؟

ج..... صورت مسئلہ میں سب سے پہلے چند اصول سمجھ لیں اس کے بعد انشاء اللہ مذکورہ بالا مسئلہ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔

۱..... اکل حلال ضروری اور فرض ہے حلال کو ترک کرنا اور حرام کو اختیار کرنا بغیر ضرورت شرعی ناجائز و حرام ہے۔

۲..... حلال چیزیں جب تک مل جائیں حرام کا استعمال جائز نہیں۔

۳..... گوشت پسندیدہ اور مرغوب چیز ہے اگر حلال مل جائے تو بہتر ہے لیکن اگر حلال نہ مل سکے تو حرام کا استعمال درست نہیں۔

۴..... کسی کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی وجہ سے حرام کا استعمال حلال نہیں ہوتا۔

۵..... حرام اشیاء کا استعمال اس وقت جائز ہے جب کہ حاال بالکل نہ ملے۔ جان بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو اسی کو اضطرار شرعی کہا جاتا ہے۔

۶..... اضطرار شرعی کے موقع پر صرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کا استعمال درست ہے لذت حاصل کرنے کے لئے یا پیٹ بھر کر کھلنا درست نہیں۔

۷..... غیر مسلم میں سے یہود اور نصاریٰ جو اپنی اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال اور جائز ہے البتہ مجوس اور دھریہ اور جو یہود و نصاریٰ اپنی اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتے ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں مذکورہ بالا قواعد سے معلوم ہو گیا کہ جب تک حلال غذا میسر ہو اس وقت تک حرام غذا کا استعمال جائز نہیں ہے صرف پسندیدہ اور مقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت حلال نہیں ہو جاتا۔

حرام گوشت کے بجائے آپ مچھلی، انڈا، دودھ، دہی کا زیادہ استعمال کریں۔ جب کہیں سے حلال گوشت میسر ہو جائے تو اس کو وافر مقدار میں اشور کر لیں یا چند مسلمان مل کر کے شہر کے فذخ خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذبح کر لیں۔

قربانی کا گوشت

قربانی کے گوشت کی تقسیم

س قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی چاہئے؟
 ج جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے۔ اندازہ سے تقسیم نہ کریں۔ افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لئے رکھا جائے، ایک حصہ احباب و اعزہ میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے اور جس شخص کے عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے ذبح کرنے والے کی اجرت میں گوشت یا کھل دینا جائز نہیں۔ اجرت علیحدہ سے دینی چاہئے۔

قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا

س قربانی کے لئے حکم ہے کہ جانور صحت مند خوبصورت ہو اور ذبح کرنے کے بعد اس کو برابر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے جب کہ اس وقت یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے بعد بکرے کی ران وغیرہ کھل اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ہونٹوں میں روسٹ کر کر لے جاتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بکرے کی دونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس مسئلہ پر حدیث اور شریعت کی رو سے روشنی ڈالیں تاکہ قربانی کرنے والوں کو صحیح علم ہو

جائے۔

ج..... افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائیں ایک فقراء کے لئے، ایک دوست احباب کے لئے اور ایک گھر کے لئے لیکن اگر سدا تقسیم کر دیا جائے یا گھر میں رکھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ قربانی صحیح نیت کے ساتھ کی تھی عرف گوشت کھانے یا لوگوں میں سرخ روئی کے لئے قربانی نہیں کی تھی۔

قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا

س..... ہلکے محلے میں ایک صاحب نے گائے کی قربانی تیسرے دن کی اور چوتھے دن انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور قربانی کا آدھے سے زیادہ گوشت دعوت شادی میں لوگوں کو کھلا دیا، کیا ان کی قربانی ہو گئی؟

ج..... اگر قربانی صحیح نیت سے کی تھی تو انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایک تہائی صدقہ کر دے، ایک تہائی دوست احباب کو دے۔ ایک تہائی خود کھائے۔

کیا سدا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہو جاتی ہے

س..... بقرعید پر ہلکے گھر قربانی ہوتی ہے تو میرے بھائی اس کے تین حصے کرتے ہیں ایک گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ دو حصے محلے اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں جب کہ ہلکے محلے میں اکثر لوگ سدا گوشت گھر ہی میں کھا لیتے ہیں۔ محلے اور رشتہ داروں میں ذرا سا تقسیم کر دیتے ہیں اور کئی دن تک کھاتے ہیں۔ ضرور بتائیے گا کہ کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے؟

ج..... آپ کے بھائی جس طرح کرتے ہیں وہ بہتر ہے۔ باقی سدا گوشت اگر گھر پر کھالیا قربانی جب بھی صحیح ہے۔ بشرطیکہ نیت قربانی کی ہو صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔

قربانی کے گوشت کا اشاک جائز ہے

س..... شرعی احکام کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم غریب مسکین عزیز و اقارب اڑوس پڑوس اور جو مستحق ہوں میں کی جائے لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ اکثر گھروں میں

بقر عید کی قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ تو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور زیادہ بچا ہوا گوشت فرج ڈسپ
فریزر میں بھر کر رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ نیاز نذر میں بھی استعمال کیا جاتا
ہے اور یہ گوشت آئندہ بقر عید تک استعمال میں آتا رہتا ہے جب کہ زیادہ عرصہ فرج اور فریزر
میں رہنے سے اس کی ماہیت اور ذائقہ بھی بے حد خراب ہو جاتا ہے اور اسے دیکھنے اور کھانے میں
کراہیت آتی ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں شرعی طور پر مطلع فرما دیجئے کہ کیا بقر عید کا گوشت آئندہ
بقر عید (ایک سال) تک اسٹاک کیا جاسکتا ہے؟

ج..... افضل تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائیں ایک حصہ گھر کے لئے ایک
دوست احباب کے لئے اور ایک فقراء و مساکین کے لئے لیکن اگر کوئی شخص سدا گھر میں رکھ
لیتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے تب بھی جائز ہے اور جب گوشت کار کھنا جائز ہو تو اس کا استعمال کسی
بھی جائز مقصد کے لئے صحیح ہے۔

قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا

س..... کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جاسکتا ہے؟
ج..... دیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ نذر کی قربانی نہ ہو۔

منت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں

س..... میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کے سلسلے میں منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو
مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی بھلا اللہ نوکری مل گئی خدا کا شکر ہے
لیکن کافی عرصہ گزر گیا ابھی تک منت پوری نہیں کی اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی ہے لیکن
اس میں ہلکی نیت میں کوئی فتور نہیں، صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقہ کلر کیا ہو جو صحیح اور
عین اسلامی ہو۔ اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت
رشتہ داروں، گھر کے افراد کے لئے جائز ہے یا یہ پورا کا پورا غریب و مسکین یا کسی دارالعلوم
مدرسہ کو دے دینا چاہئے؟

ج..... آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے اور اس گوشت کا فقرا پر تقسیم
کرنا لازم ہے۔ منت کی چیز غنی اور ملدار لوگ نہیں کھا سکتے جس طرح کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر
مداروں کے لئے حلال نہیں۔

قربانی کی کھالوں کے مصارف

چرمہائے قربانی مدارس عربیہ کو دینا

س..... ہمارے شہر کے کسی خطیب صاحب نے کسی جمعہ میں اس مسئلہ پر وضاحت فرمائی کہ مل زکوٰۃ وچرمہائے قربانی تعمیر مدارس و تنخواہ مدرسین میں صرف کرنا جائز نہیں اس سے کافی عرصہ پہلے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ زکوٰۃ یا قربانی کے چمڑے وغیرہ خاص طور پر دینی خدمت کی وجہ سے مدارس عربیہ میں پہنچا دیتے تھے۔ اس سال قربانی کے موقع پر جب مولانا صاحب کی تقریر سنی تو انہوں نے بجائے مدارس کے، گھونٹے پھرنے والے فقیروں میں یہ رقم صرف کر دی جس کی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان ہوا اور عوام کو بھی یہ شبہ دل میں جم چکا کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں صرف کریں، اس لئے خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو باقاعدہ وضاحت سے تحریر فرمادیں تاکہ شکوک رفع ہو جائیں۔

ج..... خطیب صاحب نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ اس پہلو سے درست ہے کہ چرمہائے قربانی مدارس یا مساجد کی تعمیر میں اور مدارس کے مدرسین کی تنخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے لیکن مدارس میں جو چرمہائے قربانی دی جاتی ہیں وہ مدارس کی تعمیر یا مدرسین کی تنخواہوں میں صرف نہیں کی جاتی بلکہ علم دین حاصل کرنے والے غریب و نادار طلباء پر صرف کی جاتی ہیں لہذا مدارس میں چرمہائے قربانی کی رقم دینا بالکل جائز ہے بلکہ موجودہ زمانہ میں مدارس میں چرمہائے قربانی دینا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس میں غریب طلباء کی امداد بھی ہے اور علم دین کی خدمت بھی۔

کھال کیسے ادارے کو دے سکتے ہیں

س..... کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہر وہ ادارہ ہے جو کہ دین کی خدمت کر رہا ہو جیسے کہ آج کل دینی مدارس وغیرہ لیکن پوچھنا یہ ہے کہ آج ہر قوم والے خدمتِ خلق کے جذبہ سے جمع کرتے ہیں تو کیا ہر آدمی اپنی برادری والوں کو دے سکتا ہے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو جو کہ دعویدار ہیں خدمتِ خلق کے حالات کہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے بلکہ ہر ایک اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس کی رقم خرچ کرتا ہے بتلائیے کہ کیا کریں؟ یہ بھی بتلائیں کہ کھال دیتے وقت کیا نیت کرنی چاہئے اور اس کو دینے کے لئے کیا شرائط ہیں اور صحیح مصرف بتلائیں؟

ج..... قربانی کی کھال فروخت کر دی جائے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے لہذا قربانی کی کھال ایسے ادارے یا جماعت کو دی جائے جس کے ہلے میں پورا اطمینان ہو کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ کرے گی۔

قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو دے سکتے ہیں

س..... قربانی کا گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن کھال کے لئے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لئے مستحقِ شخص کی پابندی کس وجہ سے ہے؟

ج..... قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں کی گئی اس کا حکم گوشت کا ہے اور کسی کو بھی دے دینا جائز ہے، فروخت کے بعد اس کا صدقہ واجب ہے۔ وہ غریب ہی کو دے سکتے ہیں۔

امام مسجد کو چرم قربانی دینا کیسا ہے

س..... چرم قربانی امام مسجد کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ براہ کرم اس مسئلہ کو ذرا تفصیل سے بیان فرما کر مشکور فرمائیں۔

ج..... اگر امام مسجد کی امت کی تنخواہ یا وظیفہ علیحدہ مقرر ہو اور تقرر کے وقت اس کے ساتھ صریحا یا اشدۃً یہ بات طے نہ ہوئی ہو کہ امام کی حیثیت سے ہم آپ کو قربانی کی کھالیں بھی دیا

کریں گے اور وہ امام بھی کھالوں کو مقتدیوں پر اپنا حق نہ سمجھے تو اس صورت میں اگر مقتدی واقعتاً گوشت کے ہدیہ کی طرح کھال کا بھی ہدیہ دے دیں تو جائز ہے لیکن اگر دونوں طرف نیت یہی ہو کہ یہ امامت کے عوض کے طور پر دی جا رہی ہیں تو ظاہری تاویل کر کے ہدیہ نام رکھنے سے ان کو دینا جائز نہیں ہوگا۔ امام مسجد اگر غریب ہو اور اس کی تنخواہ اور اجرت کی نیت کے بغیر صرف غریب یا عالم اور حافظ سمجھ کر اس کو کھالیں دی جائیں تو میری رائے میں نہ صرف یہ جائز بلکہ بہتر ہے ایسے علماء و حفاظ اگر محتج ہوں تو ان کی امداد کرنا سب سے بڑھ کر اولیٰ ہے۔

صاحب حیثیت امام کو قربانی کی کھالیں اور صدقہ فطر دینا

س..... اگر ایک امام جو صاحب حیثیت ہو اور تنخواہ دار بھی ہو اور پھر عید الفطر کا فطرانہ اور عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے چمڑے کے پیسے خود مانگے اور کہے کہ اس بات کا میں خود ذمہ دار ہوں کہ مجھ پر ان چیزوں کے پیسے لگتے ہیں۔ آپ اسلام کی شرعی حیثیت سے اس مسئلہ کا منصل جواب دیں نیز یہ بھی بتائیں کہ اس امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اگر ہوگی تو کس طرح اور اگر نہ ہوگی تو کس طرح؟ وضاحت کے ساتھ جواب دیں۔

ج..... امام کو حق اجرت تو صدقہ فطر اور قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں البتہ اگر وہ نادار اور عیالدار ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اپنی ناداری کی وجہ سے وہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ رہا یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اگر اس کی بات پر اعتماد نہ ہو تو اپنی صوابدید پر عمل کیا جائے (۲) اگر وہ امام نیک اور متدین ہے تو نماز اس کے پیچھے درست ہے۔

چرم قربانی یا صدقہ فطر اگر غریب آدمی لیکر بخوشی مسجد و مدرسہ کو دے تو جائز ہے

س..... کسی غریب آدمی کو قربانی کی کھال اور صدقہ فطر ملا۔ اب اگر وہ آدمی چاہے کہ کھال اور صدقہ مسجد یا مدرسہ کو دے دے تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ کیا مسجد و مدرسہ میں اس کو تعمیر خرچ کیا جاسکتا ہے؟

ج..... قربانی کی کھالوں یا صدقہ فطر کی رقم کا فقیر یا مسکین کو مالک بنانا ضروری ہے اس لئے مسجد

اور مدرسہ کی تعمیر پر اس رقم کو صرف نہیں کیا جاسکتا اگر کسی مسکین یا غریب شخص کو ان اشیاء کا مالک بنایا اور وہ برضا و رغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ دے دے تو اب اس رقم کی صورت تبدیل ہو گئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیمت یا صدقہ فطر نہیں رہی اس لئے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں دیگر چندوں کی طرح صرف کی جاسکتی ہے۔

فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا

س..... اگر کوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو ان کو قربانی کی کھالیں اور چندہ دینا چاہئے یا نہیں؟
ج..... قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد ان کا حکم زکوٰۃ کی رقم کا ہے جس کی تملیک ضروری ہے اور بغیر تملیک کے رفاہی کاموں میں اس کا خرچ درست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ خرچ کر سکے۔

قربانی کی کھالوں کی رقم سے مسجد کی تعمیر صحیح نہیں

س..... صدقہ فطر اور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تعمیر پر خرچ ہو سکتی ہے یا نہیں؟
ج..... زکوٰۃ صدقہ فطر اور حرم قربانی کی قیمت کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کرنا صحیح نہیں۔

اشاعت کتب میں حرم قربانی کی رقم لگانا

س..... ہم چند ساتھیوں نے مل کر ایک ادارہ بنام ”ادارہ دعوت و اصلاح“ قائم کیا ہے جس کے قیام کا مقصد علماء کرام کی تصنیفات و تالیفات کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچانا ہے نیز بدعات و رسومات مروجہ کی روک تھام کے لئے حضرت تھانویؒ اور مختلف علماء عظام کی تحریرات کو منظر عام پر لانا ہے فی الحال اشاعتوں پر اخراجات کی تمام تر ذمہ داری کارکنان ادارہ پر ہے چند

ماہ قبل بعض ساتھیوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم قربانی کی کھالوں سے حاصل شدہ رقوم کو ادارے کے فنڈ میں جمع کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ادارہ کا مقصد محض اشاعت کتب ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے رسائل کی خریداری، لائبریری کا قیام نیز دوسری دینی تنظیموں کے ساتھ معاونت بھی ہے تو کیا ہم عزیزوں کے ہاں سے حاصل شدہ چرم قربانی کی رقوم کو ان مدوں میں لگا سکتے ہیں؟

ج..... چرم قربانی سے حاصل شدہ رقوم کا حکم زکوٰۃ کی رقم جیسا ہے لہذا مستحقین میں اس کی تملیک کرانا ضروری ہے۔ خواہ وہ نقد کی صورت میں ہو یا کتابوں وغیرہ کی صورت میں ہو۔ بہر حال ایسی مدوں میں لگانا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہ پائی جائے۔

مسجد سے متصل دوکانوں میں چرم قربانی کی رقم خرچ کرنا

س..... مسجد کی کمیٹی کے صدر نے لوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کیں اور ان کھالوں کو فروخت کر دیا۔ بقول اس کمیٹی کے صدر کے، کھالوں کی رقم مسجد کی متصل دوکانوں کی تعمیر میں صرف کی گئی ہے۔ کیا یہ رقم جو کہ قربانی کی کھالوں کی تھی مسجد کی دوکانوں میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟

ج..... صورت مسئلہ میں چرم قربانی کی رقم کا مسجد سے متصل دوکانوں پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ قربانی کی کھالوں کو صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جاسکتا ہے کہ جن مصارف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے اور زکوٰۃ کے مصارف سورۃ توبہ کی آیت میں بیان کر دیئے گئے ہیں مسجد سے متصل دوکان تو دور کی بات ہے مسجد کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ یہ صدقات واجبہ ہیں اور صدقات واجبہ میں تملیک ضروری ہے جب کہ صورت مسئلہ میں تملیک مفقود ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو بہر شخص کو اس کا دینا اور خود بھی اس سے مستفیع ہونا جائز ہے۔
(البتہ تعلقاً وغیرہ کو یا کسی اور کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے)

اور جب فروخت کر دی تو اس کی قیمت کا تصدق کرنا واجب ہے اور تصدق کی ماہیت میں تملیک مانوڑ ہے اور چونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے اس لئے اس کے مصارف مثل مصارف زکوٰۃ کے ہیں“

(امداد الفتویٰ جلد دوم ص ۵۳۶)

جن حضرات نے مذکورہ مسجد کی کمیٹی کے صدر کو تعمیر مسجد یا تعمیر دو کلاں کی غرض سے قربانی کی کھالیں دی ہیں اور صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بمقدار رقم صدقہ کریں یا مسجد کمیٹی کے صدر کھالیں دینے والوں کی اجازت سے مستحقین میں ہی رقم صرف کر دیں۔

طالب علم کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لئے چرم قربانی کی خطیر رقم دینا س..... ایک طالب علم جنہوں نے انجینئرنگ میں بی۔ ای کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ اسی شعبے میں مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے کینیڈا (شمالی امریکہ) کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لئے وہ یونیورسٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور داخلہ کے تمام ضروری کاغذات تیار ہیں۔ اور اب یونیورسٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈا کے سفر کے لئے ان کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن ان کو یہ دشواری درپیش ہے کہ ان کے پاس ذاتی طور پر اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ پچھتر ہزار روپے اپنے حلقہ تعارف سے اس مقصد کے لئے جمع کر لیں تو بقیہ نصف رقم پچھتر ہزار روپے جمعیت ”چرمائے قربانی فنڈ“ سے ان کی اعانت کر دے۔ تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے بیرون ملک جا سکیں اور اس اعلیٰ تعلیم کو ملک و قوم کی خدمت کا ذریعہ بنا سکیں۔ دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک فرد واحد کی یہ اعانت چرمائے قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مدد سے کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جب کہ درخواست دہندہ خود کو اس کا مستحق بتاتا ہے۔

ج..... مجھے تو یہ قطعاً ناجائز معلوم ہوتا ہے دوسرے اہل علم سے دریافت کر لیا جائے۔ اگر ان صاحب کو یہ رقم دینی ہو تو اس کی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اتنی رقم بطور قرض کے دے دی جائے اور جب وہ خرچ کر لیں تو اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔

غیر مسلم کے ذبیحے کا حکم

مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے مرتد و دہریے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں

س..... گزارش خدمت یہ ہے کہ میری بڑی بن امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھٹکے کا ہوتا ہے اس لئے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ویسے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ناجائز طریقہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ مگر وہاں پر جو دوسرے پاکستانی ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی میں کون ہر جانور پر اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ وہاں پر بھی گوشت ایسے ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں ذرا وضاحت سے تحریر کریں تاکہ وہ اس کا جواب دوسروں کو دے سکیں آیا وہ گوشت جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت کو اگر ویسے نہیں کھایا جائے تو کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔

ج..... جو حلال جانور کسی مسلمان یا کتابی نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا ہو اس کا کھانا حلال ہے اور کسی مرتد، دہریے کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اسی طرح جھٹکے کا گوشت بھی حلال نہیں، ہمدی معلومات کے مطابق کراچی میں جھٹکے کا گوشت نہیں ہوتا۔

نوٹ: ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر

بسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکا تو ذبیحہ جائز ہے۔

کن اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے

س..... ہم دو دوست امریکہ میں رہتے ہیں ہم کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اہل کتاب چاہے کیسا بھی ہو اس کا ذبح کیا ہوا جانور جائز ہے اور وہ دلیل قرآن کی آیت سے پیش کرتا ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہر اہل کتاب کا جانور ذبح کیا ہوا جائز نہیں بلکہ ہر وہ اہل کتاب جو اپنی شریعت سابقہ پر مع اعتقاد عمل کرتا ہو اور اس کے ذبح کا طریقہ بھی وہی ہو جو ان کی کتاب میں ہے کیونکہ ان کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہے یعنی بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنا اگر اس کے خلاف ہو تو حرام ہے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا ہم دونوں میں سے کون درست عمل پر ہے اور اگر دونوں غلط عمل پر ہیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے براہ مہربانی اس کو قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل سے لکھیں اور اس کے ساتھ ذبح کرنے والے کے لئے کوئی شرائط ہوں جن کی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہے وہ بھی واضح فرمائیں۔

ج..... اس گفتگو میں آپ کی بات صحیح ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اس میں چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول..... ذبح کرنے والا واقعاً صحیح اہل کتاب بھی ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قومی حیثیت سے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں، مگر عقیدتاً دہریئے ہیں اور وہ کسی دین و مذہب کے قائل نہیں ایسے لوگ شرعاً اہل کتاب نہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ دوم..... بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے پھر یہودی یا عیسائی بن گئے یہ لوگ بھی اہل کتاب نہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں اور مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔ سوم..... یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام لیکر (بسم اللہ کے ساتھ) ذبح کیا ہو۔ اس کے بغیر بھی حلال نہیں، چہ جائیکہ کسی کتابی کا۔ چہلم..... ذبح کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہو۔ آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کاٹے جاتے ہیں اور ساتھ میں ”بسم اللہ اللہ اکبر“ کی ٹیپ لگادی جلتی ہے گویا بسم اللہ کہنے کا کام آدمی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے اور ذبح کا کام آدمی کے بجائے مشین کرتی ہے ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے حکم میں ہیں۔

یہودی کا ذبیحہ جانز ہونے کی شرائط

س..... اسلامی طریقہ پر ذبیحہ گوشت اگر دستیاب نہ ہو سکے تو یہودیوں کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جانز ہے یا نہیں؟

ج..... یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو اور اپنی کتب کو ماننا ہو تو وہ اہل کتب ہے، اس کا ذبیحہ جانز ہے بشرطیکہ اللہ کے نام سے ذبح کرے۔

یہودی کا ذبیحہ استعمال کریں یا عیسائی کا

س..... بیرون ملک ذبیحہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر جو ذبیحہ دستیاب ہوتا ہے وہ یا تو یہودیوں کا ہوتا ہے یا پھر عیسائیوں کا ذبیحہ۔ اہل کتب کے نقطہ نظر سے زیادہ تر یہودیوں کا ذبیحہ صحیح سمجھا جاتا ہے جب کہ عیسائیوں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنی کتب کے مطابق بھی ذبح نہیں کرتے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی الجھن پائی جاتی ہے ازراہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل بیان فرمائیے۔

ج..... اہل کتب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر یہ اطمینان ہو کہ یہودی صحیح طریقہ سے ذبح کرتے ہیں اور عیسائی صحیح طریقہ سے ذبح نہیں کرتے تو یہودی کے ذبیحہ کو ترجیح دی جائے۔ نصرانی کے ذبیحہ سے پرہیز کیا جائے۔

روافض کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے

س..... ۱ شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟ ۲ شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ۳ کیا شیعہ کے گھر کی کچی ہوئی چیزیں کھانا جانز ہے؟ ۴ کیا شیعہ کا ذبیحہ جانز ہے؟

ج..... اثنا عشری شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ تین چار کے سوا باقی تمام صحابہ کرامؓ کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں اور حضرت علیؓ اور ان کے بعد گیلہ بزرگوں کو معصوم مفترض الطاعت اور انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل سمجھتے ہیں اور یہ تمام عقائد ان کے مذہب کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہوں وہ مسلمان نہیں۔ نہ ان کا ذبیحہ

حلال ہے نہ ان کا جنازہ جائز ہے اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں تو اس مذہب سے برأت کا اظہار کرنا لازم ہے جس کے یہ عقائد ہیں اور ان لوگوں کی تکفیر ضروری ہے جو ایسے عقائد رکھتے ہوں، جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس کو بھی ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا اور اس کے انکار کو ”تقیہ“ پر محمول کیا جائے گا۔

قربانی کے متفرق مسائل

جانور ادھار لے کر قربانی دینا

س..... جس طرح دنیا کے کلاباد میں ہم ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں، اور بعد میں وہ ادھار ادا کر دیتے ہیں۔ کیا اسی طرح ادھار پر جانور لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟
ج..... جائز ہے۔

قسطوں پر قربانی کے بکرے

س..... چند روز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کے بکرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آرہا ہے۔ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قسطوں پر بکرایا گائے لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے اور دوسروں کو بھی شرعی حل معلوم ہو سکے۔

ج..... جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے، خواہ آپ نے نقد قیمت پر خریدی ہو، خواہ ادھار پر، خواہ قسطوں پر۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ صرف جانور کو بک کر لینے سے آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے۔ اور نہ بک کرانے سے بیع ہوتی ہے۔ بلکہ جس دن آپ کو اپنی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے۔

غریب کا قربانی کا جانور اچانک بیمار ہو جائے تو کیا کرے

س..... زید نے اپنی قربانی کا جانور لیا ہوا تھا جو عید الاضحیٰ سے ایک دو دن پہلے بھری کی وجہ سے علیل ہو جاتا ہے پھر اس کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے کیا اس کی قربانی ہوگئی یا نہیں؟ اور زید بالکل غریب آدمی ہے ملازم پیشہ ہے جس نے اپنی تین چار ماہ کی تنخواہ میں سے رقم جمع کر کے یہ قربانی خریدی تھی اب اس قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس دوسری قربانی خریدنے کی گنجائش نہیں ہے اب یہ کیا کرے؟

ج..... اس کے ذمہ قربانی کا دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں البتہ قربانی نہیں ہوئی لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرمادے۔

قربانی کا بکرا خریدنے کے بعد مر جائے تو کیا کرے

س..... ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ بقر عید کے لئے قربانی کی نیت سے بکرا خریدتا ہے لیکن قبل از قربانی بکرا مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے ایسی صورت میں اس شخص پر دوبارہ بکرا خرید کر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں اور اگر وہ صاحب نصاب ہے اور بکرا مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بکرا خرید کر قربانی دینا چاہئے یا نہیں؟

ج..... اگر اس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں اور اگر صاحب نصاب ہے تو دوسرا جانور خریدنا لازم ہے۔

جس شخص کا عقیدہ نہ ہوا ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے

س..... ہمارے محلے میں ایک مولانا رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کر سکتا ہے جس کے گھر میں ہرنچے اور بڑے کا عقیدہ ہو چکا ہو مگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کا عقیدہ اس کی شادی پر کر دیں گی۔

ج..... مولانا صاحب کا یہ مسئلہ صحیح نہیں، عقیدہ خواہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو قربانی ہو جاتی ہے نیز مسنون عقیدہ ساتویں دن ہونا ہے شادی پر عقیدہ کرنے کی شرعا کوئی حیثیت نہیں۔

لاعلمی میں دنبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی

س..... ہم نے گزشتہ عید کو قربانی کی، ہماری یہ پہلی قربانی تھی اس لئے ہم دھوکہ کھا گئے اور بجائے دنبہ کے بھیڑ لے آئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ دنبہ نہیں بھیڑ ہے اب آپ بتائیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی بدرگاہ الہی میں قبول ہونی چاہئے؟

ج..... اگر اس کی عمر ایک سال کی تھی تو قربانی ہو گئی کیونکہ دنبہ اور بھیڑ دونوں کی قربانی جائز ہے۔

حلال خون اور حلال مردار کی تشریح

س..... ایک حدیث کی رو سے دو قسم کے مردار اور دو قسم کا خون حلال ہیں برائے مہربانی وہ دو قسم کے مردار جانور اور دو قسم کے خون کون سے ہیں اور وہ حدیث بھی تحریر فرمائیں بقول الف کے دو قسم کا مردار (۱) مچھلی، (۲) ٹڈی دو قسم کا خون (۱) قاتل کا خون (۲) مرتد کا خون حلال ہے کیا یہ قول درست ہے؟

ج..... الف نے جو کہا ہے کہ مردار جانور سے مراد (۱) ٹڈی (۲) مچھلی ہے تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے لیکن مردار سے حرام مرد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کو اگر زندہ پکڑا جائے تو یہ دونوں بغیر ذبح کرنے کے حلال ہیں کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے مر گئے تو ان کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے اور اس حدیث میں جو خون کا ذکر ہے اس سے مراد (۱) جگر (۲) تلی ہے زید نے جو خون کے متعلق کہا ہے کہ دونوں خون سے مراد خون قاتل اور خون مرتد ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ مذکورہ حدیث میں دونوں خونوں کو تصریحاً ذکر کیا گیا ہے۔ باقی قاتل اور مرتد کا ذکر دوسری حدیث میں ہے ان دونوں کو مباح الدم قرار دیا گیا ہے یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیل دین کی وجہ سے قتل کیا جائے باقی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان دونوں کا خون حلال ہے۔

ذبح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرعی حکم

س..... گائے اور بکرے کا خون ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینے جاتا ہوں تو

قصائی کی دوکان پر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے لگ جاتے ہیں تو یہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں؟

ج..... گوشت میں جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے البتہ بوقت ذبح جو خون جانور کی رگوں سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔

قربانی کے خون میں پاؤں ڈبونا

س..... ہلکے ایک رشتہ دار جب قربانی کرتے ہیں یا صدقے کا بکرا کاٹتے ہیں چھری پھیرنے کے بعد جب خون لکھنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں پیر خون میں ڈبو لیتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی اعتقاد ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟

ج..... یہ خون نجس ہوتا ہے اور نجاست سے بدن کو آلودہ کرنا دین و مذہب کی رو سے عبادت نہیں ہو سکتا اس لئے یہ اعتقاد گناہ اور یہ فعل ناجائز ہے۔

قربانی کرنے سے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جائز نہیں

س..... قربانی کے جانور کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

ج..... قربانی کے جانور کا ہستا ہوا خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا۔ خون کے اگر معمولی چھینٹے پڑ جائیں جو مجموعی طور پر انگریزی روپیہ کی چوڑائی سے کم ہوں تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں البتہ جو خون گردن کے علاوہ گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں۔

قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنانا جائز ہے

س..... قربانی کے بکرے کی چربی سے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے اگر معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے؟

ج..... قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنالینا جائز ہے۔ کوئی گناہ نہیں۔

عقیقہ

عقیقہ کی اہمیت

س..... اسلام میں عقیقہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر عقیقہ کئے مر گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج..... عقیقہ سنت ہے۔ اگر گنجائش ہے تو ضرور کر دینا چاہئے۔ نہ کرے تو گناہ نہیں صرف عقیقہ کے ثواب سے محرومی ہے۔

عقیقہ کا عمل سنت ہے یا واجب

س..... بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عقیقہ کیا جاتا ہے اور بکرا صدقہ کیا جاتا ہے یہ عمل سنت ہے یا واجب؟

ج..... عقیقہ سنت ہے لیکن اس کی میعاد ہے ساتویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن، اس کے بعد اس کی حیثیت نفل کی ہوگی۔

بالغ لڑکی لڑکے کا عقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈانا ضروری ہے

س..... عقیقہ کس عمر تک ہو سکتا ہے بالغ مرد و عورت خود اپنا عقیقہ اپنی رقم سے کر سکتے ہیں یا والدین ہی کر سکتے ہیں؟ بڑی لڑکیوں یا بالغ عورت کا عقیقہ میں سر منڈانا چاہئے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کتنے بال کاٹے جائیں اور کس طریقے پر؟

ج..... عقیقہ سنت ہے۔ اس سے بچے کی الابلادور ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ساتویں دن بچے کے سر کے بال اتارے جائیں، ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دیجائے اور لڑکے کیلئے دو بکرے اور لڑکی کیلئے ایک بکرا کیا جائے۔ اسی دن بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ اگر گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کر دے۔ مگر ساتویں دن کے بعد بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی۔ بڑی عمر کے لڑکوں لڑکیوں کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ عقیقہ کیلئے ان کے بال اتارنے چاہئیں۔

عقیقہ کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقہ کی سنت ادا نہیں ہوگی

س..... کیا بچی کے عقیقے کیلئے خریدی جانے والی بکری کی رقم اگر کسی ضرورت مند اور غریب رشتہ دار کو دیدی جائے تو عقیقے کی سنت پوری ہو جائے گی؟

ج..... اس سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ البتہ صدقہ اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔

بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کر سکتی ہے

س..... ماں اور باپ دونوں کلمتے ہیں باپ کی تنخواہ گھر کی ضروریات کے لئے کافی ہوتی ہے اور ماں کی تنخواہ پوری پہنچتی ہے جو کہ سال بھر جمع ہوتی ہے تو کیا ماں اپنے بچوں کا عقیقہ اپنی تنخواہ میں سے کر سکتی ہے؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہ کیا بچوں کا عقیقہ ماں کی کلمت میں سے ہو سکتا ہے جبکہ والد زندہ ہیں اور کلمتے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دونوں سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیکر ممنون فرمائیں گے۔

ج..... بچوں کا عقیقہ اور دوسرے اجزا باپ کے ذمہ ہیں اگر ماں ادا کر دے تو اس کی خوشی ہے اور شرعاً عقیقہ بھی صحیح ہوگا۔

اپنے عقیقہ سے پہلے بچی کا عقیقہ کرنا

س..... میرا خود کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا پہلے مجھے اپنا عقیقہ کرنے کے بعد بچی کا کرنا چاہئے؟

ج..... آپ اپنی بی بی کا عقیقہ کر سکتی ہیں۔ آپ کا عقیقہ اگر نہیں ہوا تو کوئی مضائقہ نہیں۔

قرض لے کر عقیقہ اور قربانی کرنا

س..... میری مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں سے اپنے بچوں کا عقیقہ یا قربانی کر سکوں جبکہ دونوں فرض ہیں۔ کیا میں بینک سے قرضہ لے کر ان دونوں فرضوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ یہ قرض میری تنخواہ سے برابر کتنا رہے گا جب تک کہ قرضہ پورا نہ اتر جائے۔

ج..... صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے اور عقیقہ سنت ہے۔ جس کے پاس گنجائش نہ ہو اس پر نہ قربانی واجب ہے نہ عقیقہ۔ آپ سودی قرض لے کر قربانی یا عقیقہ کریں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔

عقیقہ امیر کے ذمہ ہے یا غریب کے بھی

س..... عقیقہ سنت ہے یا فرض اور ہر غریب پر ہے یا امیروں پر ہی ہے اور اگر غریب پر ضروری ہے تو پھر غریب طاقت نہیں رکھتا تو غریب کے لئے کیا حکم ہے؟

ج..... عقیقہ سنت ہے، اگر ہمت ہو تو کر دے، ورنہ کوئی گناہ نہیں۔

غریب کے بچے بغیر عقیقہ کے مر گئے تو کیا کرے

س..... اگر غریب کے بچے دو دو چل چل سہل کے ہو کر فوت ہو گئے ہوں تو ان کا عقیقہ بھی ضروری ہے؟

ج..... نہیں۔

دس کلو قیمہ منگوا کر دعوت عقیقہ کرنا

س..... کیا دس کلو قیمہ منگوا کر رشتہ داروں کی دعوت عقیقہ یا صدقے (کیونکہ ساتویں دن کے بعد ہے) کی نیت سے کر دی جائے تو اس طرح عقیقہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟

ج..... نہیں۔

رشتہ دار کی خبر گیری پر خرچ کو عقیقہ پر ترجیح دی جائے

س میرے آٹھ بچے ہیں۔ جن میں سے تین بچوں کا عقیقہ کر چکا ہوں۔ بقیہ پانچ بچے (۳ لڑکے، ۲ لڑکیاں) ہیں ملی مجبوری کی وجہ سے ان کا عقیقہ نہیں کر سکا۔ ارادہ تھا کہ کسی سے کچھ رقم مل جائے تو ان کا عقیقہ کر دوں۔ اسی فکر میں تھا کہ میرے ایک قریبی عزیز تپ دق کے علاضہ میں مبتلا ہو گئے وہ بھی غریب تو پہلے ہی تھے۔ مگر بیلری کی وجہ سے آمدنی بالکل بند ہو گئی اب ان کے تین بچے اور ایک بیوی اور ان کی بیلری کے جملہ مصارف میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس صورت حال کے پیش نظر درج ذیل امور کی وضاحت چاہتا ہوں۔ (۱) عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (۲) کیا عقیقہ پر خرچ ہونے والی رقم کسی قریبی رشتہ دار پر خرچ کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ان دونوں ذمہ داریوں میں اولت کس کو دی جائے، رشتہ دار کی خبر گیری اور اس پر خرچہ وغیرہ کی ذمہ داری کو یا عقیقہ سے عمدہ براہونے کی ذمہ داری کو؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ قربانی کا ذبیحہ لازم ہے اس کی رقم کسی کو نہیں دی جاسکتی۔ کیا عقیقہ کا بھی یہی حکم ہے؟ (۳) کیا میرے لئے لازم ہے میں کسی نہ کسی طرح پانچ بچوں کے عقیقہ سے فارغ ہو جاؤں؟

ج (۱) عقیقہ شرعاً مستحب ہے ضروری یا واجب نہیں۔ (۲) اس لئے عقیقہ میں خرچ ہونے والی رقم اپنے رشتہ دار محتاج کو دے دیں کیونکہ ایسی حالت میں اس کی اعانت کرنا ضروری ہے لہذا اس کو اولت دی جائے گی۔ (۳) عقیقہ کرنا واجب یا لازم نہیں البتہ استطاعت ہونے پر عقیقہ کر دینا مستحب ہے، کلام ثواب ہے، نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔

کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے

س جن جانوروں میں سات حصے قربانی ہو سکتی ہے ان میں سات عقیقہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا لڑکے کے عقیقہ میں گائے ہو سکتی ہے اور کن جانوروں سے عقیقہ ہو سکتا ہے، کیا بھینس بھی ان میں شامل ہے؟

ج جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان سے عقیقہ بھی جائز ہے۔ بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے اسی طرح جن جانوروں میں سات حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں ان میں سات حصے عقیقہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لڑکے کے عقیقہ میں پوری گائے بھی ذبح کی جاسکتی ہے۔

لڑکے کے عقیقہ میں دو بکروں کی جگہ ایک بکرا دینا

س..... کوئی شخص اگر لڑکے کے لئے دو بکروں کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا وہ لڑکے کے عقیقہ میں ایک بکرا کر سکتا ہے؟

ج..... لڑکے کے عقیقہ میں دو بکرے یا دو حصے دینا مستحب ہے لیکن اگر دو کی وسعت نہ ہو تو ایک بھی کافی ہے۔

لڑکے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے عقیقہ میں دیں

س..... لڑکے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے ہونے چاہئیں؟

ج..... لڑکے کے لئے دو۔ لڑکی کے لئے ایک۔

تحفہ کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

س..... کیا تحفہ میں ملی ہوئی بکری کا عقیقہ میں استعمال کرنا جائز ہے؟

ج..... تحفہ میں ملی ہوئی بکری کا عقیقہ جائز ہے۔

قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا

س..... کیا عید قربان پر قربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک گائے

لے کر ایک حصہ قربانی اور چھ حصے چلہ بچوں (دو لڑکے دو لڑکیاں) کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟

ج..... قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جاسکتے ہیں۔

عقیقہ کے متعلق ائمہ اربعہ کا مسلک

س..... عقیقہ کے سلسلے میں آپ کے جواب کا یہ جملہ ”جن جانوروں میں سات حصے قربانی کے

ہو سکتے ہیں ان میں سات حصے عقیقہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔“ اختلافی مسئلہ چھیڑتا ہے۔ اس سلسلے

میں گزارش ہے کہ اس کی تائید میں قرآن کریم اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں شرعی دلائل

پیش فرما کر منکور ہونے کا موقع دیں۔ بعض علماء کے نزدیک سات بچوں کے عقیقہ پر ایک

گائے یا بھینس ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ ذیل میں کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔

”گائے بھینس کی قربانی (ذبیحہ) درست نہیں ہے تا وقتیکہ وہ دو سال کی عمر مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اسی طرح اونٹ ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے تا وقتیکہ وہ پانچ سال کی عمر مکمل کر کے چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ عقیقہ میں اشتراک صحیح نہیں ہے جیسا کہ سات لوگ اونٹ میں شراکت کرتے ہیں کیونکہ اگر اس میں اشتراک صحیح ہو تو مولود پر ”اراقۃ الدم“ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ ذبیحہ مولود کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بھیڑ یا بکری کے بدلے اونٹ یا گائے کو ذبح کیا جائے بشرطیکہ یہ ذبیحہ یعنی ایک جانور ایک مولود کے لئے ہو۔ امام ابن قیمؒ نے انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ ”انہوں نے اپنے بچہ کا ذبیحہ (عقیقہ) ایک جانور سے کیا۔“ اور ابی بکرہؓ سے مروی ہے کہ ”انہوں نے اپنے بچہ عبدالرحمنؓ کے عقیقہ پر ایک جانور ذبح کیا اور اہل بصرہ کی دعوت کی“ اور جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ”فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لئے ایک ایک بھیڑ ذبح کی۔“ امام مالکؒ کا قول ہے کہ ”عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے عقیقہ کیا ہر بچہ کے لئے ایک ایک بکری۔“ امام ابو داؤدؒ نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ ایک ایک بھیڑ سے کیا۔“ امام احمدؒ اور امام ترمذیؒ نے ام کرز کعبیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا ”لڑکے پر دو بکریاں اور لڑکی پر ایک بکری۔“ ابن ابی شیبہؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ ”ہم کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم لڑکے پر دو بکریوں سے عقیقہ کریں اور لڑکی پر ایک بکری سے۔“ ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف و خلف کا عمل اور فتویٰ یہی ہے کہ بھیڑ یا بکری کے علاوہ کسی دوسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنت مطہرہ سے ثابت و صحیح نہیں ہے۔ لیکن جن بعض علمائے خلف نے اونٹ یا گائے یا بھینس سے عقیقہ کرنے کی اجازت دی ہے ان کی دلیل ابن منذر کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ ”ہر بچہ پر عقیقہ ہے چنانچہ اس پر سے خون بہاؤ (مع الغلام عقیقہ فاہر یقوا عنہ دنا۔)“ چونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دم نہیں دیا فرمایا ہے پس اس حدیث سے ظاہر

ہے کہ مولود پر بھیڑ بکری اونٹ اور گائے ذبح کرنے کی اجازت و رخصت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی اتباع میں صرف بھیڑ یا بکری سے ہی حقیقہ کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تمام تفصیل کتاب ”تحفۃ المودودی احکام المولود۔ للان النمیم الجوزیہ اور تریبۃ الاولاد فی الاسلام الجز الاول، معنفہ الاستاذ الشیخ عبداللہ نامح علوان طبع ۱۹۸۱ء ص ۹۸ مطبع دار السلام لطباعته والنشر والتوزیع۔ حلب و بیروت۔“ وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ج آپ کے طویل گرامی نامہ کے ضمن میں چند گزارشات ہیں۔

اول آپ نے لکھا ہے کہ

”حقیقہ کے سلسلے میں یہ جملہ اختلافی مسئلہ چھیڑتا ہے.....“

یہ تو ظاہر ہے کہ فروعی مسائل میں ائمہ فقہاء کے اختلافات ہیں اور کوئی فروعی مسئلہ مشکل ہی سے ایسا ہو گا جس کی تفصیلات میں کچھ نہ کچھ اختلاف نہ ہو۔ اس لئے جو مسئلہ بھی لکھا جائے اس کے بارے میں یہی اشکال ہو گا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے۔ آنجناب کو معلوم ہو گا کہ یہ ناکارہ فقہ حنفی کے مطابق مسائل لکھتا ہے۔ البتہ اگر مسائل کی طرف سے یہ اشارہ ہو کہ وہ کسی دوسرے فقہی مسلک سے وابستہ ہے تو اس کے فقہی مذہب کے مطابق جواب دیتا ہوں۔

دوم آنجناب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آئندہ شلرے میں اس کی تائید میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کروں۔ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے دلائل سے بحث تصدا نہیں کرتا، کیونکہ عوام کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں منقح مسئلہ بتا دیا جائے۔ دلائل کی بحث اہل علم کے دائرے کی چیز ہے۔

سوم آنجناب نے حافظ ابن قیمؒ کی کتاب سے جو اقتباسات نقل کئے ہیں ان میں دو مسئلے زیر بحث آئے ایک یہ کہ کیا بھیڑ یا بکری کے علاوہ کسی دوسرے جانور کا حقیقہ درست ہے یا نہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ

”ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف و خلف کا عمل اور فتویٰ یہی ہے کہ بھیڑ یا بکری کے علاوہ کسی دوسرے جانور سے حقیقہ کرنا سنت مطہرہ سے ثابت و صحیح نہیں۔“

جہاں تک اس ناکرہ کی معلومات کا تعلق ہے۔ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ اونٹ اور گائے سے عقیقہ درست ہے۔ حنفیہ کا فتویٰ تو میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ دیگر مذاہب کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔

فقہ شافعی

امام نووی "شرح مہذب میں لکھتے ہیں۔

"المجزئ فی العقیقۃ ہو المجزئ فی الأضحیۃ، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن، أو الثنیۃ من المعز والإبل والبقر، هذا هو الصحیح المشہور، وبہ قطع الجمهور، وفیہ وجہ حکاہ الماوردی وغیرہ أنه یجزئ دون جذعة الضأن، وثنیۃ المعز، والمذہب الأول"

(شرح مہذب ص ۱۲۹ ج ۸)

"عقیقہ میں بھی وہی جانور کفایت کرے گا جو قربانی میں کفایت کرتا ہے۔ اس لئے جذعہ سے کم عمر کا دنبہ، اور ٹنٹی (دو دانت) سے کم عمر کی بکری، اونٹ اور گائے جائز نہیں۔ یہی صحیح اور مشہور روایت ہے اور جمہور نے اس کو قطعیت کے ساتھ لیا ہے۔"

اس میں ایک دوسری روایت، جسے ماوردی وغیرہ نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اس میں جذعہ سے کم عمر کی بھیڑ اور دنبہ اور ٹنٹی سے کم عمر کی بکری بھی جائز ہے۔ لیکن مذہب پہلی روایت ہے۔

فقہ مالکی

شرح مختصر الخلیل میں ہے:

"ابن رشد: ظاهر سماع أشهب أن البقر تجزئ"

أيضاً في ذلك ، وهو الأظهر قياساً على الضحايا“

(مواعب الجليل ص ۲۰۰ ج ۴)

”ابن رشد کہتے ہیں کہ اشہب کا ظاہر سلع یہ ہے کہ عقیقہ میں گائے بھی کفایت کرتی ہے اور یہی ظاہر تر ہے۔ قربانیوں پر قیاس کرتے ہوئے۔“

فقہ حنبلی :

”الروض المرئح“ میں ہے :

”وحكمها فيها يجوز ويستحب ويكره كالأضحية

إلا أنه لا يجوز في شرك في دم ، فلا تجزئ بدنة

ولا بقرة إلا كاملة“

(بحوالہ: الروض المرئح ص ۲۱۸ ج ۱ مشق کر دیکھنا کہ اس کا حکم کونسا ہے)

”حقیقہ میں کون کون سے جانور جائز ہیں؟ اور کیا کیا امور مستحب ہیں؟ اور کیا کیا مکروہ ہیں؟ ان تمام امور میں عقیقہ کا حکم مثل قربانی کے ہے۔ آئیے کہ اس میں جانور میں شرکت جائز نہیں۔ اس لئے اگر عقیقہ میں بڑا جانور ذبح کیا جائے تو پورا ایک ہی کی طرف سے ذبح کرنا ہوگا۔“

ان فقہی حوالوں سے معلوم ہوا کہ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ بھیڑ بکری کی طرح اونٹ اور گائے کا عقیقہ بھی جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر احکام میں اس کا حکم قربانی کا ہے اور جمہور علماء کا یہی قول ہے، چنانچہ ابن رشد” بدایۃ المجتہد میں لکھتے ہیں۔

”جمہور العلماء علی أنه لا يجوز فی العقیقة إلا

ما يجوز فی الضحایا من الأزواج الثمانية“

(بدایۃ المجتہد ص ۳۳۹ ج ۱ مکتبہ علمیہ لاہور)

”جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ عقیقہ میں صرف وہی آٹھ زوجہ جانور ہیں جو قربانیوں

میں جائز ہیں۔“

حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں:

”والجمہور علی أجزاء الإبل والبقر أيضاً، وفيه
حدیث عند الطبرانی وأبی الشیخ عن أنس رفعه“ یعق
عنه من الإبل والبقر والغنم“ ونص أحمد علی اشتراط
کامله، وذكر الرافعی بحثاً أنها تتأدی بالسبع كما فی
الأضحیة واللہ أعلم“

(فتح الباری ص ۹۳ ج ۹، دار نشر الکتب الإسلامیة لاہور)

”جمہور اس کے قائل ہیں کہ عقیقہ میں اونٹ اور گائے بھی جائز ہے اور اس میں طبرانی
اور ابو الشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی تخریج کی ہے کہ ”بچے کی
طرف سے اونٹ، گائے اور بکری کا عقیقہ کیا جائے گا۔“ اور امام احمد نے تصریح کی ہے کہ پورا
جانور ہونا شرط ہے اور رافعی نے بطور بحث ذکر کیا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کے ساتویں حصہ سے
بھی ہو جائے گا جیسا کہ قربانی۔ واللہ اعلم“

دوسرا مسئلہ یہ کہ آیا بڑے جانور میں عقیقہ کے سات حصے ہو سکتے ہیں۔ اس میں امام
احمدؒ کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ اوپر کے حوالوں سے معلوم ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا
گائے کا عقیقہ کرنا ہو تو پورا جانور کرنا چاہئے اس میں اشتراک صحیح نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک
اشتراک صحیح ہے۔

چنانچہ شرح منہب میں ہے۔

”ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك

(ص ۱۲۹ ج ۸)

فیہا جماعة جائز“

”اور اگر ذبح کی گائے یا اونٹ سات بچوں کی جانب سے، یا شریک ہوئی اس میں ایک

جماعت تو جائز ہے۔“

حنفیہ کے نزدیک بھی اشتراک جائز ہے۔ چنانچہ مفتی کفایت اللہ صاحبؒ لکھتے

ہیں۔

”ایک گائے میں عقیقہ کے سات صے ہو سکتے ہیں جس طرح قربانی کے سات صے ہو سکتے ہیں۔“ (کفایۃ المفتی ص ۲۶۳ ج ۸)

اور آپ کا یہ لرشاد کہ

”عقیقہ میں اشتراک صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ سات لوگ اونٹ میں شرکت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس میں اشتراک صحیح ہو تو مولود پر ”اراقۃ الدم“ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔“

یہ استدلال محل نظر ہے۔ اس لئے کہ قربانی میں بھی ”اراقۃ الدم“ ہی مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبویؐ میں اس کی تصریح ہے۔

عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول

اللہ ﷺ: « ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلی

اللہ من إهراق الدم » الحدیث

(رواه الترمذی وابن ماجہ ، مشکاة ص ۱۲۸)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔“

وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال

رسول اللہ ﷺ فی یوم الأضحی: « ما عمل آدمی فی

هذا الیوم أفضل من دم یهراق إلا أن یکون رحماً توصل »

(رواه الطبرانی فی الکبیر، ولہ یحییٰ بن الحسن الخثعمی وهو

ضعیف، وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد ص ۱۸ ج ۱)

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن میں آدمی کا کوئی عمل خون بہانے (یعنی قربانی کرنے) سے افضل نہیں لایا یہ کہ کوئی صلہ رحمی کی جائے“

چونکہ قربانی سے اصل مقصود ”اراقۃ الدم“ ہے اس لئے قربانی کے گوشت کا صدقہ کرنا کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں۔ اگر خود کھائے یا دوست احباب کو کھلا دے تب بھی قربانی صحیح ہے۔

پس جبکہ قربانی سے مقصود بھی ”اراقۃ الدم“ اور اس میں شرکت کو جائز رکھا گیا ہے تو حقیقہ میں شرکت سے بھی اراقۃ دم کا مضمون فوت نہیں ہوتا، اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے تو حقیقہ میں بدرجہ اولیٰ جائز ہونی چاہئے۔ کیونکہ حقیقہ کی حیثیت قربانی سے فروتر ہے، پس اعلیٰ چیز میں شریعت نے شرکت کو جائز رکھا ہے تو اس سے ادنیٰ میں بدرجہ اولیٰ شرکت جائز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ فقہاء حقیقہ میں قربانی ہی کے احکام جاری کرتے ہیں

چنانچہ شیخ الموفق بن قدامہ حنبلی المغنی میں لکھتے ہیں۔

”والأشبه قياسها على الأضحية؛ لأنها نسيسة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهت في صفاتها وسننها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها (المغنی مع الشرح الكبير ص ۱۲۴ ج ۱۱)

اور اشبہ یہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا جائے اس لئے کہ یہ ایک قربانی ہے جو مشروع ہے مگر واجب نہیں۔ پس قربانی کے مشابہ ہوئی۔ اور اس لئے بھی کہ یہ قربانی کے مشابہ ہے اس کی صفات میں، اس کی عمر میں، اس کی مقدار میں، اس کی شروط میں، پس مشابہ ہوئی اس کے مصرف میں بھی۔“

بڑی عمر میں اپنا حقیقہ خود کر سکتے ہیں حقیقہ نہ کیا ہو تو بھی قربانی جائز ہے

س کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا حقیقہ خود کر سکتا ہے؟ اگر عورت اپنا حقیقہ کرے تو کتنے بیل کنوئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا حقیقہ نہیں ہو اس کی قربانی جائز نہیں پہلے اپنا حقیقہ کرے

اس کے بعد قربانی کرے۔ کیا یہ ازروئے شرع درست ہے؟
 ج..... حقیقہ ساتویں دن سنت ہے بعد میں اگر کرنا ہو تو ساتویں دن کی رعایت مناسب ہے۔ یعنی
 پیدائش والے دن سے پہلے دن حقیقہ کیا جائے مثلاً پیدائش کا دن جمعہ تھا تو حقیقہ جمعرات کو ہو گا
 بڑی عمر میں حقیقہ کیا جائے تو قبل کاٹنے کی ضرورت نہیں جس کا حقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی کر سکتا
 ہے اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہو تو قربانی کرنا ضروری ہے، حقیقہ خواہ ہوا ہو کہ نہ ہو۔

شوہر کا بیوی کی طرف سے حقیقہ کرنا

س..... یہ بتائیں کہ شوہر اپنی بیوی کا حقیقہ کر سکتا ہے یا یہ بھی شادی کے بعد والدین پر فرض ہے
 کہ بیٹی کا حقیقہ خود کریں جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہے؟
 ج..... حقیقہ فرض ہی نہیں بلکہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن حقیقہ کرنا سنت ہے بشرطیکہ
 والدین کے پاس گنجائش ہو۔ اگر والدین نے حقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں اور
 شوہر کا بیوی کی طرف سے حقیقہ کرنا جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہو لغو حرکت ہے۔

ساتویں دن حقیقہ دوسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

س..... حقیقہ کرنا کیا سات دن کے اندر ضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتے دار وغیرہ
 نہیں ہیں تو کیا ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو پاکستان میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں حقیقہ کر
 دیں۔

ج..... حقیقہ ساتویں دن سنت ہے اگر ساتویں دن نہ کیا جائے تو ایک قول کے مطابق بعد میں
 سنت کا درجہ باقی نہیں رہتا۔ اگر بعد میں کرنا ہو تو ساتویں دن کی رعایت رکھنی چاہئے۔ یعنی بچے
 کی پیدائش کے دن سے پہلے دن حقیقہ کیا جائے مثلاً بچہ کی پیدائش جمعہ کی ہو تو حقیقہ جمعرات کو
 ہو گا۔ پاکستان میں بھی حقیقہ کیا جا سکتا ہے۔

کئی بچوں کا ایک ساتھ حقیقہ کرنا

س..... اکثر لوگ کئی بچوں کا حقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں جب کہ بچوں کے پیدائش کے دن

مختلف ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ فرمائیں کیا عقیقہ ہو جاتا ہے؟
ج..... عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن سنت ہے اگر گنجائش نہ ہو تو نہ کرے، کوئی گناہ
نہیں، دن کی رعایت کے بغیر سب بچوں کا اکٹھا عقیقہ جائز ہے مگر سنت کے خلاف ہے۔

مختلف دنوں میں پیدا شدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

س..... اگر گائے کا عقیقہ کریں تو اس میں سات حصے ہونے چاہئیں؟ اور بچوں کی پیدائش مختلف
ایام میں ہو تو ایک دن میں گائے کرنا چاہئے یا نہیں؟

ج..... ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن
عقیقہ کیا جاسکتا ہے اور تمام جانور یا گائے ایک ساتھ ذبح کر سکتا ہے۔ یعنی جائز ہے البتہ مسنون
عقیقہ ساتویں دن کا ہے۔

اگر کسی کو پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ عقیقہ کیسے کرے

س..... کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہئے اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا چاہے اور اس
کو اپنی پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟

ج..... ساتویں دن عقیقہ کرنا بلا تعلق مستحب ہے اسی طرح دارقطنی کی ایک روایت کے مطابق
چودھویں دن بھی مستحب ہے جبکہ امام ترمذی کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دو
دنوں میں عقیقہ نہیں کیا تو اکیسویں دن بھی کر لینا مستحب ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص ساتویں
دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو نفس عقیقہ ہو جائے گا
البتہ اس کا وہ استعجاب اور ثواب جو کہ ساتویں دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن کرنے
میں تھا وہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر بعد میں کرے تو ساتویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے یاد نہ ہو تو
کوئی حرج نہیں۔

عقیقہ کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا

س..... کیا عقیقہ کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا ضروری ہے جب کہ دو چار ماہ بعد عقیقہ کیا
جدا ہو؟

ج..... ساتویں دن بل اتارنا اور عقیقہ کرنا سنت ہے اگر نہ کیا تو بل اتار دیں، بعد میں جانور ذبح کرتے وقت پھر بل اتارنے کی ضرورت نہیں۔

عقیقہ کا گوشت والدین کو استعمال کرنا جائز ہے

س..... اپنی اولاد کے عقیقہ کا گوشت والدین کو کھانا چاہئے یا نہیں اور اگر اس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقہ کا گوشت استعمال نہ کیا جائے تو والدین کے لئے کیوں منع ہے کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقہ میں ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟

ج..... عقیقہ کا گوشت جیسے دوسروں کے لئے جائز ہے اسی طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لئے بھی جائز ہے۔

عقیقہ کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ

س..... عقیقہ کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ ہے؟

ج..... عقیقہ کے گوشت کا ایک تہائی حصہ مساکین کو تقسیم کر دینا افضل ہے اور باقی دو تہائی حصہ سے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بھئی، بسن، اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں کو تقسیم کر دے یا اس کو پکا کر ان کی ضیافت کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہر حال عقیقہ کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔

سات دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے گوشت کا حکم

س..... پچھلے دنوں آپ نے عقیقہ کے متعلق لکھا تھا کہ اگر ۷ یوم کے اندر عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ ہو گا ورنہ صدقہ تصور ہو گا (جبکہ عقیقہ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔) اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہوں گا کہ یہ کہ اگر ۷ یوم کے بعد عقیقہ کے طور پر بکرا ذبح کرتے ہیں جبکہ یہ صدقہ ہے تو اس پر صرف غریبوں کا حق ہو گا آیا پورا گوشت غریبوں کے لئے ہو گا، یا کچھ حصہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جس طرح عقیقہ میں ہوتا ہے؟

ج..... سات دن کے بعد جو عقیقہ کیا جائے اس کے گوشت کی حیثیت عقیقہ کے گوشت ہی کی

ہوگی۔ میرے ذکر کردہ مسئلہ کا مقصد یہ ہے کہ ۷ دن کے بعد جو عقیدہ کیا جائے، بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی فضیلت عقیدہ کی نہیں رہتی بلکہ عام صدقہ خیرات کی سی ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا گوشت پورے کا پورا صدقہ کرنا ضروری ہے۔

عقیدہ کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رسوم کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہیں

س..... ہلے علاقے میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس کے سر کے بال مخصوص جگہ پر اتروائیں گی اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جا کر دیں گی اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اتروانے سے پہلے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام سمجھتی ہیں اور پھر کسی دن مرد اور عورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کر لڑکے کے سر کے بال اترواتے ہیں اور بکرے کا ذبیحہ کر کے وہاں ہی گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

ج..... یہ ایک ہندوانہ رسم ہے جو مسلمانوں میں در آئی ہے اور چونکہ اس میں فساد عقیدہ شامل ہے اس لئے اعتقادی بدعت ہے۔ جو بعض صورتوں میں کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ نے دیا ہے۔ اس لئے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانتے ہیں اور منت پوری کرنے کے لئے اس مزار پر جا کر بیچے کے بال اتارتے ہیں۔ وہاں قربانی کرتے ہیں اور دوسری بہت سی خرافات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پرہیز کرنا چاہئے۔

حلال اور حرام جانوروں کے مسائل

شکار

حلال و حرام جانوروں کو شکار کرنا

- س۔ اسلام میں شکار کی اجازت ہے یعنی جانوروں کو ہلاک کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا حرام۔ اگر حلال جانور شکار کیا جائے تو اسے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
- ج۔ شکار کی اجازت ہے بشرطیکہ دوسرے فرائض سے متاثر نہ کر دے۔ حرام جانور اگر موذی ہوں تو ان کو ملنا جائز ہے۔ اگر حلال جانور بندوق سے شکار کیا گیا اور مر گیا تو حلال نہیں، لیکن اگر زخمی حالت میں ذبح کر لیا گیا تو حلال ہے۔

نشانیہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا

- س۔ جو لوگ اپنے شوق اور نشانیہ بازی کی خاطر معصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کے بدے میں ہلاکت ہو سکتی ہے کیا کتا ہے؟
- ج۔ حلال جانوروں کا شکار جائز ہے مگر مقصود گوشت ہونا چاہئے محض کھیل یا حیوانات کی ایذا رسانی ہی مقصود ہو تو جائز نہیں۔

کتے کا شکار کیا حکم رکھتا ہے

س۔ میں جمعہ ایڈیشن میں آپ کا کالم ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ بڑے غور و فکر سے پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی طرح کا ایک مسئلہ درپیش ہے اس کا حل تجویز فرمائیے۔ میرا ایک دوست ہے وہ شکار کا بہت ہی شوقین ہے اور وہ شکار شکاری کتوں کے ذریعے کرتا ہے جبکہ میں اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ وہ جنگل میں خرگوش کے پیچھے شکاری کتے لگا دیتے ہیں اور کتے اسے منہ میں دلوچ کر لے آتے ہیں اور پھر وہ تکبیر پڑھ کر اسے ذبح کرنے کے بعد پکا کر کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی رو سے کتا ایک پلید اور حرام جانور ہے لہذا اس کا کوئی مفید حل لکھئے اور یہ اخبار میں شائع کریں۔ شاید ایسا کرنے سے بہت سے انسان شکار سے باز آجائیں۔

ج۔ شکاری کتا اگر سدھایا ہوا ہو اور وہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو تو اس کا شکار حلال ہے۔ جہاں اس کا منہ لگا ہو اس کو دھو کر پاک کر لیا جائے اور اگر زندہ پکڑ لائے تو اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کر لیا جائے۔

بندوق سے شکار

س۔ اگر شکاری شکار کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس چاقو یا چھری نہیں ہے۔ وہ تکبیر پڑھ کر فلاں کر دیتا ہے اگر پرندہ مر جائے تو حلال ہو گا یا کہ حرام؟

ج۔ بندوق کے فلاں سے جو جانور مر جائے وہ حلال نہیں خواہ تکبیر پڑھ کر گولی چلائی گئی ہو۔ اگر زندہ مل جائے اور اس کو شرعی طریقہ سے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے۔

بندوق، غلیل، شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم

س۔ ”حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں سورۃ البقرہ رکوع پانچ میں آیت انما حرم علیکم المیتۃ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”مردار وہ ہے جو خود بخود مر جائے اور ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے یا خلاف شرع طریقہ سے اس کو ذبح یا شکار کیا جائے مثلاً گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کو پتھر لکڑی غلیل بندوق سے مدا جائے یا کسی عضو کو کاٹ لیا جائے یہ سب کاسب

مردار اور حرام ہے۔ " اس کے برعکس بعض مفسرین یہ تشریح بھی کرتے ہیں کہ جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر نہ ہو مثلاً وحشی جنگلی جانور یا طیور وغیرہ تو ان مذکورہ بلا کو بندوق، غلیل یا شکاری کتے سے شکار کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے تو یہ سب حلال ہیں لب سول یہ ہے کہ غلیل، بندوق یا شکاری کتے کے ذریعے جو شکار کیا جائے اور شرعی طریقہ سے ذبح کرنے سے پہلے مرجائے تو کیا یہ سب مردار اور حرام ہیں؟

ج۔ جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر ہو اس کو تو شرعی طریقہ سے ذبح کرنا ضروری ہے اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ مردار ہے۔

شکار پر اگر بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑ دیا جائے (بشرطیکہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو) اور شکاری کتا اس شکار کو زخمی کر دے اور وہ زخم سے مرجائے تو یہ ذبح کرنے کے قائم مقام ہو گا اور شکار کا کھانا حلال ہے لیکن اگر کتا اس کا گلا گھونٹ کر مار دے اسے زخمی نہ کرے تو حلال نہیں۔ اسی طرح اگر تیز دھلہ کا کوئی آلہ شکار کی طرف بسم اللہ کہہ کر پھینکا جائے اور شکار اس کے زخم سے مرجائے تو یہ بھی ذبح کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر لاشی بسم اللہ کہہ کر پھینک دی اور شکار اس کی چوٹ سے مر گیا تو وہ حلال نہیں اسی طرح غلیل یا بندوق سے جو شکار کیا جائے اگر وہ زندہ مل جائے تو اس کو ذبح کر لیا جائے۔ اور اگر وہ غلیل یا بندوق کی گولی کی چوٹ سے مرجائے تو حلال نہیں۔ خلاصہ یہ کہ غلیل اور بندوق کا حکم لاشی کا سا ہے تیز دھلہ والے آلہ کا نہیں اس سے شکار کیا ہوا جانور اگر مرجائے تو حلال نہیں۔

خشکی کے جانوروں اور متعلقات کا شرعی حکم

گھوڑا، خچر، اور کبوتر کا شرعی حکم

س..... مندرجہ ذیل جانوروں کا گوشت حلال ہے یا حرام شرعی نقطہ نگاہ سے پوری وضاحت فرمائیں۔ گدھا، خچر، گھوڑا، کبوتر جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی کبوتر حلال ہے اور گھریلو کبوتر سید ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔

ج..... گدھا اور خچر حرام ہیں، کبوتر حلال ہے خواہ جنگلی ہو یا گھریلو اور گھوڑے کے بارے میں فقہائے امت کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حلال نہیں، جمہور ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔

خرگوش حلال ہے

س..... خرگوش حرام ہے یا حلال؟ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش بالکل چوہے کی شکل کا ہے۔ اور اس کی عادتیں بھی چوہے سے ملتی ہیں یعنی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ کر کھاتا ہے۔ پاؤں کی مشابہت بھی حرام جانوروں سے ملتی جاتی ہے اور بل بنا کر رہتا ہے۔ اس لئے حرام ہے تو اس کے متعلق وضاحت فرمائیں؟

ج..... خرگوش حلال ہے۔ حرام جانوروں سے اس کی مشابہت نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر ائمہ
لرابعہ کا کوئی اختلاف نہیں۔

گدھی کا دودھ حرام ہے

س..... آج کل ہمارے یہاں جس کسی کو کالی کھانسی ہو جاتی ہے تو اسے گدھی کا دودھ پینے کا
مشورہ دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسا کر گزرتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں
گدھی کا دودھ پینا تو حرام ہے پھر کیا بطور دولئی اس کا استعمال حلال ہو جاتا ہے؟
ج..... گدھی کا دودھ حرام ہے اور دولئی کے طور پر بھی اس کا استعمال درست نہیں جبکہ حلال
دولئی سے علاج ہو سکتا ہو۔

کم عمر جانور ذبح کرنا جائز ہے

س..... اگر گھر میں بکرے اور بکریاں پلٹی ہوئی ہیں جن کی عمر چار ماہ اور چھ ماہ تک ہو یعنی وہ اتنے
بڑے نہ ہوں جن کو کاٹ کر کھایا جاتا ہو۔ اگر بیلہ ہو جاتے ہیں یا غلطی سے کوئی ایسی چیز کھا
جاتے ہیں کہ اب ان کا بیج جانا مشکل ہو تو کیا ایسی صورت میں ان کو کاٹ کر کھانا جائز ہو گا یا
ناجائز؟ ضرور لکھئے۔
ج..... ان کو شرعی طریقہ سے ذبح کر کے کھانا بااِشْبہ جائز ہے۔

دو تین ماہ کا بکری، بھیڑ کا بچہ ذبح کرنا

س..... حلال جانور مثلاً بکرے، بھیڑ، دنبے کے بچہ کو جو اندازاً دو تین ماہ کا ہو خدا کے نام پر
ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ج..... گوشت کھانے کے قتل ہو تو ذبح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کرے

س..... بقرعید پر قربانی کی گائے یا بکری کے پیٹ سے بچہ زندہ یا مردہ نکلے تو اس کو کیا کرنا

چاہئے؟ کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر زندہ نکلے تو ذبح کر کے استعمال میں لانا چاہئے اور مردہ ویسے ہی حلال ہے، کیونکہ جو حلال جانور ذبح کر دیا گیا۔ اس کے پیٹ سے علاوہ نجاست کے جو کچھ نکلے وہ سب حلال ہے۔ احکام خداوندی کی رو سے آپ اس مسئلہ کو حل فرمائیں۔

ج..... بچہ اگر زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے کھانا درست ہے اور اگر مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حلال نہیں اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک حلال ہے، احتیاطاً نہ کھانے میں ہے۔

حشرات الارض کا کھانا

س..... وہ کیڑے مکوڑے جن کو مارنا باعث ثواب ہے اور انہیں مارنے کا حکم بھی ہے مثلاً بچھو، دیمک، جوں، مکڑی، چھپکلی، مکھی وغیرہ، آج کل کی سائنس ان کیڑے مکوڑوں کو غذائیت سے بھرپور قرار دیتی ہے۔ ان مغربی سائنس دانوں کے بقول ”مستقبل کا وہ دن دور نہیں جب دودھ والے کی جگہ مکھی والا ریزمی اور سائیکل پر کھیاں بیچتا پھرے اور مرغی کی جگہ دکانوں پر تھل میں بھری ہوئی دیمک بکنا شروع ہو جائے۔ ہوٹل میں بھنی دیمک یا دیمک مصالحہ، مکڑی کا سوپ ملنا شروع ہو جائے کیا، ہلرے نبی سید المرسلین خاتم النبیینؐ نے ان مندرجہ بالا کیڑوں مکوڑوں کو بطور غذا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے؟ براہ مہربانی تفصیل سے اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

ج..... حشرات الارض کا کھانا جائز نہیں۔

خارپشت نامی جانور کو کھانا جائز نہیں

س..... صوبہ سرحد میں ایک جانور سرید (خارپشت) پایا جاتا ہے مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض حلال۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پر یہ جانور حلال ہے یا حرام؟

ج..... یہ حشرات الارض میں داخل ہے اس کا کھانا حلال نہیں۔

حشرات الارض کو مارنا

س..... جناب والا! جب کبھی حشرات الارض پر نظر پڑتی ہے ایک دل چاہتا ہے اسے مار دوں، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی جاندار ہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ اسلام کی رو سے مطلع فرمائیں کہ ہم حشرات الارض کو (بشمول سانپ، بچھو وغیرہ) ان کو بنی نوع انسان کا دشمن گردانتے ہوئے مار دیا کریں یا جانور سمجھ کر چھوڑ دیا جائے؟

ج..... موذی چیزوں کا مارنا ضروری ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو، بھڑ وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسرے حشرات الارض کو بلا ضرورت مارنا جائز نہیں۔

موذی جانوروں اور حشرات کو مارنا

س..... گھروں میں جو جانور جیسے مکڑی، لال بیک، کھنڈ، چھمچ، چھپکلی اور دیمک وغیرہ کو مار سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ گھروں کو خراب کرتے ہیں۔

ج..... موذی جانوروں اور حشرات کا مارنا جائز ہے۔

مکھیوں اور چھمچوں کو برقی رو سے مارنا جائز ہے

س..... چھمچوں اور مکھیوں کو مارنے کے لئے ایک برقی آلہ یہاں استعمال ہوتا ہے جس کے اندر ایک ٹیوب لائٹ سے روشنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک جالی میں انتہائی طاقتور برقی رو دوڑ جاتی ہے جو نہی چھمچ یا مکھی اس روشنی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس برقی رو دلی جالی سے گزرتا پڑتا ہے اس میں چونکہ انتہائی طاقتور برقی رو ہوتی ہے۔ جس کی بنا پر وہ جل جاتے ہیں۔ اس کا استعمال شرعاً کیسا ہے؟

ج..... جائز ہے۔

جانور کی کھال کی ٹوپی کا شرعی حکم

س..... حرام جانوروں کی کھالوں کی ٹوپیاں شیر، چننا، رچھ، لومڑی، گیدڑ وغیرہ کی آج کل بازاروں میں فروخت ہو رہی ہیں، ان کا لوڑھنا یا اسے پہن کر نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟

ج..... حدیث میں ہے کہ ہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لئے دباغت کے بعد ان جانوروں کی کھالوں کی ٹوپیاں پہننا، ان میں نماز پڑھنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس لئے اس کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔

کتے کے دانتوں کا ہار پہننا

س..... مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق کتے کے دانتوں کا ہار بنا کر پہننا اور ہار پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
ج..... سوائے خنزیر کے، دانت ہر جانور کے پاک ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔

سور کی ہڈی استعمال کرنا

س..... کیا ہم سور کی ہڈی استعمال کر سکتے ہیں؟
ج..... سور کی ہڈی استعمال کرنا جائز نہیں۔

حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خنزیر کے

س..... حرام جانوروں کی کھال کی مصنوعات مثلاً جوتے، ہینڈ بیگ یا لباس وغیرہ استعمال کرنا جائز ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟
ج..... جانوروں کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے، اس لئے چرمی مصنوعات کا استعمال صحیح ہے، البتہ خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی۔

دریائی جانوروں کا شرعی حکم

دریائی جانوروں کا حکم

س..... میرے کچھ دوست عرب ہیں۔ ایک روز دوران گفتگو انہوں نے بتایا کہ ”وہ لوگ سمندر سے شکار کئے ہوئے تمام جانوروں کو کھانے کے لئے حلال سمجھتے ہیں اور بلا کر اہیت کھاتے ہیں۔“ جبکہ ہم پاکستانی مچھلی اور جھینگوں کو عموماً حلال سمجھتے ہیں اور کیکڑوں، لابسٹرو وغیرہ کو بعض لوگ مکروہ سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں، برہا مہربانی آپ صحیح صورت حال سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ مزید یہ کہ کیا مچھلیوں کی ایسی قسمیں ہیں جو کھانے کے لئے جائز نہیں ہیں؟

ج..... امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے دیگر ائمہ کے نزدیک دیگر جانور بھی حلال ہیں جن میں خاصی تفصیل ہے۔ اس لئے آپ کے عرب دوست اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوں گے، مچھلیوں کی ساری قسمیں حلال ہیں مگر بعض چیزیں مچھلی سمجھی جاتی ہیں حالانکہ وہ مچھلی نہیں مثلاً جھینگے۔

پانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں

س..... یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پانی کے تمام جانور حلال ہیں اگر نہیں تو پھر کون سے حلال اور کون سے حرام ہیں؟ اسی طرح سے خشکی کے کون سے جانور اور پرندے حلال اور حرام

ہیں؟ اس کا کوئی خاص اصول ہے؟

ج..... پانی کے جانوروں میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ کوئی دریائی جانور حلال نہیں۔

جنگلی جانوروں میں دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والے اور پرندوں میں سے بچوں کے ساتھ شکار کرنے والے حرام ہیں، بقی حلال۔

جھینگا کھانا اور اس کا کاروبار کرنا

س..... جھینگا کھانا یا اس کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اسے کھانے اور کاروبار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

ج..... جھینگا مچھلی ہے یا نہیں یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے جن حضرات نے مچھلی کی ایک قسم سمجھا انہوں نے کھانے کی اجازت تو دی البتہ احتیاط اسی میں بتلائی کہ نہ کھایا جائے، اب جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے اور چونکہ جھینگا مچھلی نہیں اس لئے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہو گا البتہ بطور دوا کھانے میں یا اس کی تجلّت میں گنجائش ہوگی کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کھانا حلال ہے، اب مسئلہ یہ ہوا کہ جھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجلّت میں گنجائش ہے۔

جھینگا حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے

س..... جنگ میں آپ کے مسائل کے عنوان کے تحت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس کا جواب بھی جنگ میں شائع ہوا۔ وہ مسئلہ نیچے لکھا جاتا ہے سوال اور جواب دونوں حاضر خدمت ہیں آپ مسئلے کی صحیح نوعیت سے راقم الحروف کو مطلع فرمائیں تاکہ تشویش ختم ہو یہاں جو لوگ ابھن میں ہیں ان کی تشفی کی جا سکے؟

س..... ”(۱) کیا جھینگا کھانا جائز ہے۔

”ج..... (۱) مچھلی کے علاوہ کسی اور دریائی یا سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے اگر یہ صحیح ہے تو کھانا جائز نہیں۔“

عوام الناس ”اگر“ اور ”مگر“ میں نہیں جاتے۔ کیا ابھی تک علماء کو تحقیق نہیں ہوئی کہ جھینگا کی نوعیت کیا ہے یا تو صاف کہہ دیا جائے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے اس لئے کھانا جائز نہیں یا اس کے برعکس۔ عوام الناس علماء کے اس قسم کے بیان سے اسلام اور مسئلے مسائل سے متنفر ہونے لگتے ہیں اور علماء کا رویہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں گول مول بہتر نہیں ہے، میں نے لغت میں دیکھا تو جھینگا کی تعریف مچھلی کی ایک قسم ہی لکھی گئی ہے آخر علماء کیا آج تک یہ نہیں طے کر پائے کہ یہ مچھلی کی قسم ہے کہ نہیں مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا یوسف بنوری، مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے علماء حق کا کیا رویہ رہا کیا انہوں نے جھینگا کھایا یا نہیں اور اس کے متعلق کیا فرمایا؟ امید ہے آپ ذرا تفصیل سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے۔

ج... صورت مسئلہ میں مچھلی کے سوا دریا کالور کوئی جانور حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں۔ جھینگا کی حلت و حرمت اس پر موقوف ہے کہ یہ مچھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں، ماہرین حیوانات نے مچھلی کی تعریف میں چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ (۱) ریزہ کی ہڈی (۲) سانس لینے کے کلپھڑے (۳) تیرنے کے پتکے (۴) ٹھنڈا خون۔ چوتھی علامت عام فہم نہیں ہے۔ مگر پہلی تین علامات کا جھینگا میں نہ ہونا ہر شخص جانتا ہے۔ اس لئے ماہرین حیوانات سب اس امر پر متفق ہیں کہ جھینگا کا مچھلی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ مچھلی سے بالکل الگ جنس ہے جبکہ جو اہر اخلاطی میں تصریح ہے کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں سب مکروہ تحریمی ہیں۔ یہی صحیح تر ہے۔

”حيث قال السمك الصغار كلها مكروهة التحريم“

هو الأصح الخ (جواہر اخلاطی)

اس لئے جھینگا حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔

سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلیوں کا حکم

س..... کیا وہ مچھلیاں حلال ہیں جو مر کر سطح آب پر آجائیں یا ساحل پر پائی جائیں مردہ حالت

میں؟ نیز بڑی پھلیاں جو کہ مرکر ساحل پر پہنچ جاتی ہیں لوگ ان کا گوشت، تیل اور ہڈیاں استعمال میں لاتے ہیں تو یہ جائز ہے؟
 ج..... جو پھلی مرکر پانی کی سطح پر الٹی تیرنے لگے وہ حلال نہیں اور جو ساحل پر پڑی ہو اگر وہ متعفن نہ ہو گئی ہو تو حلال ہے۔

کیکڑا حلال نہیں

س..... کیکڑا کھانا حرام ہے یا حلال؟
 ج..... کیکڑا حلال نہیں۔

کچھوے کے انڈے حرام ہیں

س..... سنا ہے کہ کراچی میں کچھوے کے انڈے بھی مرغی کے انڈوں میں ملا کر پکتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ کیا کچھوے کے انڈے کھانا حلال ہے، یا مکروہ یا حرام؟
 ج..... یہ اصول یاد رہنا چاہئے کہ کسی چیز کے انڈے کا وہی حکم ہے جو اس چیز کا ہے، کچھوا پختہ خود حرام ہے۔ اس لئے اس کے انڈے بھی حرام ہیں اور ان کی فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں پر تعزیر جاری کرے جو لوگ بکری کی جگہ کتے کا گوشت اور مرغی کے انڈوں کی جگہ کچھوے کے انڈے کھلاتے ہیں۔

پرندوں اور ان کے انڈوں کا شرعی حکم

بگلا اور غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں

س..... کیا بگلا حلال ہے؟ برائے مہربانی ان حرام جانوروں کی نشاندہی فرمائیں جو ہلرے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی مختلف قسم کی چیزوں کا شکر کر کے کھا لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟

ج..... بگلا حلال ہے۔ اسی طرح یہ تمام غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں۔ چھوٹی چیز یا حلال ہے۔

کیوتر کھانا حلال ہے

س..... ہلرے یہاں کے کچھ لوگ کیوتر بالکل نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں اس کے کانٹے سے گناہ ہے اور کھانے سے، حالانکہ کیوتر حلال ہے۔

ج..... حلال جانور کو ذبح کرنے میں گناہ کیوں ہونے لگا۔

بطخ حلال ہے

س..... مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک، قدم اور عزیز دوست فرماتے ہیں کہ بطخ یا ”راج ہنس“ جسے بڑی بطخ یا ”قاز“ بھی کہتے ہیں کا گوشت حلال نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے،

برائے مہربانی یہ بات صحیح ہے یا غلط شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
ج..... بلخ بذات خود تو حلال ہے نجاست کھلنے کی وجہ سے مکروہ ہو سکتی ہے، سو ایسی مرغی یا بلخ
جس کی بیشتر خوراک نجاست ہو اس کو تین دن بند رکھ کر پاک غذا دی جائے تو کراہت جاتی
رہے گی۔

مور کا گوشت حلال ہے

س..... ایک دوست کہیں باہر سے مور کا گوشت کھا کر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ مور کا گوشت
حلال ہوتا ہے مگر ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ مور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔
ج..... مور حلال جانور ہے اس کا گوشت حلال ہے۔

کیا انڈا حرام ہے

س..... کچھ عرصہ پیش ماہنامہ ”زیب النساء“ میں حکیم سید ظفر عسکری نے کسی خاتون کے
جواب میں تحریر کیا تھا کہ انڈے کا ذکر صحابہ کریمؐ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلنے
میں کہیں نہیں ملتا بلکہ اسے انگریزوں نے متعارف کرایا ہے اس وجہ سے انڈا کھانا حرام ہے۔
برہم کریم اس مسئلہ کا تفصیلی حل اسلامی صفحہ میں شائع کریں۔

ج..... یقین نہیں آتا کہ حکیم صاحب نے ایسا لکھا ہو اگر انہوں نے واقعی لکھا ہے تو یہ ان کا فتویٰ
نہایت ”غیر حکیمانہ“ ہے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تو پڑھی
یا سنی ہوگی جو حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
فحص جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے
نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا پھر بکرے کی قربانی کا پھر مرغی صدقہ کرنے اور سب سے
آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا۔ اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے
اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف)

سوچنا چاہئے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈا کھانا حرام ہے تو کیا (نعوذ باللہ) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام چیز کے صدقہ کی فضیلت بیان فرمادی؟ آج تک کسی فقیہ اور
محدث نے انڈے کو حرام نہیں بتایا۔ اس لئے حکیم صاحب کا یہ فتویٰ بالکل لغو ہے۔

انڈا حلال ہے

س..... مرغی کا انڈا کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈا مرغی کا اور دیگر حلال جانوروں کا بھی نہیں کھانا چاہئے کیونکہ کسی شرعی کتاب میں انڈا کھانے کے لئے نہیں لکھا ہے۔
ج..... کسی حیوان کے انڈے کا وہی حکم ہے جو اس جاندار کا ہے۔ حلال جاندار کا انڈا حلال ہے اور حرام کا حرام۔

پرندے پالنا جائز ہے

س..... آج کل آسٹریلیا میں طوطوں کا پنجروں میں پالنا ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، آپ کے مسائل اور اس کا حل روزنامہ جنگ اقراء اسلامی صفحہ کی وساطت سے معاملے کی شرعی حیثیت واضح فرما کر مشکور فرمائیں واضح رہے کہ یہ پرندے صرف خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں اس طرح چڑیا گھروں میں جانور پنجروں میں صرف انسانی تفریح کی خاطر رکھے جاتے ہیں۔ روشنی ڈالئے، امام بخاریؒ کی کتاب ادب المفرد میں ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہؓ پرندے پالتے تھے نیز اس کتاب کا کیا مقام ہے اور اس روایت کا کیا اعتبار ہے؟
ج..... یہ روایت تو میں نے دیکھی نہیں، پرندوں کا پالنا جائز ہے البتہ ان کو لڑانا جائز نہیں۔

حلال پرندے کو شوقیہ پالنا جائز ہے

س..... کسی حلال پرندے کو شوقیہ طور پر پنجرے میں بند کر کے پالنا جائز ہے یا نہیں؟
ج..... جائز ہے بشرطیکہ بند رکھنے کے علاوہ اس کو کوئی اور ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے اور اس کی خوراک کا خیال رکھے۔

تلی، اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی حکم

حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں

س گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں، اس کی کیا وجہ ہیں؟
ج حلال جانور کی سات چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔

(۱) بہتا ہوا خون (۲) غدود (۳) مثانہ (۴) پتہ، (۵) نر کی پیشاب گاہ (۶) مادہ کی پیشاب گاہ، (۷) کپورے۔

اول الذکر کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ بقیہ اشیاء طبعاً خبیث ہیں۔ اس لئے ”ويعحرم عليهم الخبائث“ کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سات چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق ۴/۵۳۵ مراہیل ابی داؤد ص ۱۹۔ سنن کبریٰ بیہقی ۷/۱۰)

کلیجی حلال ہے

س میں بی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک اینڈ یالوجی پڑھاتے ہیں اسلامی اینڈ یالوجی والے پروفیسر بتا رہے تھے کہ قرآن شریف میں

کلبی کھانا حرام ہے۔ کلبی چونکہ خون ہے اس لئے کلبی حرام ہے اور حدیث میں کلبی کو حلال کہا ہے تو کیا واقعی کلبی حرام ہے؟
ج..... قرآن حکیم میں بتے ہوئے خون کو حرام کہا گیا ہے جو جانور کے ذبح کرنے سے بہتا ہے۔ کلبی حلال ہے۔ قرآن کریم میں اس کو حرام نہیں فرمایا گیا ہے۔ آپ کے پروفیسر صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

تلی کھانا جائز ہے

س..... اکثر شادی بیاہ وغیرہ میں جیسے ہی کوئی جانور ذبح کیا اور اس کی تلی اور کلبی وغیرہ پکا کر کھا لیتے ہیں یا اسی تلی کو آگ پر سینک کر یا علیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟
ج..... جائز ہے۔

حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے

س..... گائے یا بکرے کی بٹ (اوجھڑی) کھانا جائز ہے؟ اور اگر کھانا جائز ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ اس کے کھانے سے چالیس دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟
ج..... حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے چالیس دن دعا قبول نہ ہونے کی بات غلط ہے۔

گردے، کپورے اور ٹڈی حلال ہے یا حرام

س..... جب کہ ہلے معاشرے میں لوگ بکرے کا گوشت عام کھاتے ہیں۔ اور لوگ بکرے کے گردے بھی کھاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ گردے انسان کے لئے حرام ہیں یا حلال؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بکرا حلال ہے کپورے حلال نہیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ مکڑی بھی حلال ہے؟ آپ کی بڑی مریانی ہوگی۔

ج..... گردے حلال ہیں۔ کپورے حلال نہیں ٹڈی دل جو فصلوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے وہ حلال ہے مکڑی حلال نہیں ہے۔

بکرے کے کپورے کھانا اور خرید و فروخت کرنا

س..... کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹلوں میں کئی لوگ کھاتے ہیں۔

ان کا اور بیچنے والوں کا عمل کیسا ہے؟

ج..... بکرے کے خالص کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے اور جو حکم کھانے کا ہے وہی کھلانے اور بیچنے کا بھی ہے اس لئے بازار اور ہوٹل میں اس کی خرید و فروخت افسوسناک غلطی ہے۔

کتا پالنا

کتا پالنا شرعاً کیسا ہے

س..... سوال حذف کر دیا گیا۔

ج..... جاہلیت میں کتے سے نفرت نہیں کی جاتی تھی۔ کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تمدن کی بنا پر کتے سے بہت مانوس تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لئے حکم فرما دیا کہ جہاں کتا نظر آئے اسے مار دیا جائے۔ لیکن یہ حکم وقتی تھا بعد میں آپؐ نے ضرورت کی بنا پر صرف تین مقاصد کے لئے کتا رکھنے کی اجازت دی۔

یا تو شکر کے لئے۔ یا غلہ اور کھیتی کے پھرے کے لئے یا ریوڑ کے پھرے کے لئے (اگر مکان غیر محفوظ ہو تو اس کی حفاظت کے لئے رکھنا بھی اسی حکم میں ہو گا) ان تین مقاصد کے علاوہ کتا پالنا صحیح نہیں۔ انگریزی معاشرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اب بھی کتے سے نفرت نہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی ناپسندیدگی کے علاوہ بھی شوق سے کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو کاٹ لے یا باؤلا ہو جائے اور آدمی کو پتہ نہ ہو تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کا لعب اپنے اندر ایک خاص زہر رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے جھوٹے برتن کو سلت دفعہ دھونے اور ایک دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ نجس برتن تو

تین دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے بقی کتابیں العین نہیں، اگر اس کا جسم خشک ہو اور کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔

کتاب پالنا اور کتے والے گھر میں فرشتوں کا نہ آنا

س..... میں آپ سے کتاب پالنے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے اس سے فرشتے گھر پر نہیں آتے۔ میں لوگوں کے اس نظریہ سے کچھ مطمئن نہیں ہوں آپ مجھے صحیح جواب دیں۔

ن..... کتاب پالنا ”شوق“ کی چیز تو ہے نہیں البتہ ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شوق سے کتا پالنے کی تو ممانعت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت کے لئے یا کھیت کی یا مویشی کی حفاظت کے لئے یا شکار کی ضرورت کے لئے کتاب پالے تو اس کی اجازت ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں کتاب یا تصویر ہو اس میں رحمت کافرشتہ نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرتؐ سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے آنحضرتؐ کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ آپؐ نے دیکھا کہ آپ کی چار پائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا اس کو اٹھوایا گیا اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپؐ نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپؐ کی چار پائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب یا تصویر ہو۔

(مشکوٰۃ باب التصاویر ص ۳۸۵)

کیا کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس کا پالنا کیوں منع ہے

س..... میں نے آپ کے اس صفحے میں پڑھا تھا کہ چاہے کتنا ہی اہم معاملہ ہو اگر گھر میں کتا ہو گا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا کتے کی موجودگی میں گھر میں نماز ہو

جلئے گی اور قرآن کریم کی تلاوت جائز ہوگی۔ ہمارے گھر میں قریب سب ہی لوگ نمازی ہیں اور صبح صبح قرآن کی تلاوت بھی کی جلتی ہے۔ یہ چھوٹا سا کتابچہ حدیث پر ہے اور نجاست نہیں کھاتا ہم مجبور ہو کر لاتے ہیں۔

براہ مہربانی یہ بھی بتائیں کہ آخر ہمارے دین میں کتے جیسے وفادار جانور کو ”گھر سے کیوں نکالا گیا ہے۔“ میں نے سنا ہے کہ کتاب دراصل انسانی مٹی سے بنا ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دھنی پر شیطان نے تمھو کا تھا تو وہاں سے تمام مٹی نکل کر پھینک دی گئی۔ اور پھر اسی سے بعد میں کتاب بنایا گیا۔ شاید اسی وجہ سے یہ بچلہ انسان کی طرف دوڑتا ہے پاؤں میں لوٹتا ہے۔ اور انسان بھی اس سے محبت کئے بغیر نہیں رہ سکتا!

ج..... جہاں کتاب ہو، وہاں نماز اور تلاوت جائز ہے، یہ غلط ہے کہ کتاب انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتاب وفادار تو ہے مگر اس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی وفاداری پر پانی پھیر دیتی ہیں ایک تو یہ کتے وغیرہ کا تو وفادار ہے لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں۔ دوسرے اس کے منہ کا لعاب ناپاک اور گندہ ہے اور وہ آدمی کے بدن یا کپڑے سے مس ہو جائے تو نماز غلط ہو جاتی ہے، اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آدمی کو منہ ضرور لگاتا ہے، اس لئے جس نے کتاب پال رکھا ہو اس کے بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا زہن مشکل ہے۔ تیسرے کتے کے لعاب میں ایک خاص قسم کا زہر ہے جس سے بچنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتاب منہ ڈال دے سلت مرتبہ دھونے اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجنے کا حکم فرمایا ہے اور یہی وہ زہر ہے جو کتے کے کاٹنے سے آدمی کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، چوتھے کتے کے مزاج میں گندگی ہے جس کی علامت مردہ خوری ہے اس لئے ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتاب پالے۔ ہاں! ضرورت اور مجبوری ہو تو اجازت ہے۔

کتا کیوں نجس ہے جب کہ وہ وفادار بھی ہے

س..... کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ ایک فرمانبردار جانور ہے۔ سور کے نجس ہونے کی تو ”اخلاہ جہاں“ میں سیر حاصل بحث پڑھ چکی ہوں لیکن کتے کے بدے میں لاعلم ہوں۔ خدا کے حکم کی قطعیت لازم ہے۔ لیکن پھر بھی ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں جن

کے جواب کے لئے کسی عالم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

ج..... ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لئے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کتا نجس کیوں ہے بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ کہا جائے کہ مرد مرد، کیوں ہے؟ عورت، عورت کیوں ہے؟ انسان، انسان کیوں ہے؟ اور کتا، کتا کیوں ہے؟ جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں، نہ اس میں ”کیوں“ کی گنجائش ہے، اسی طرح خالق فطرت کے اس بیان کے بعد کہ کتا نجس ہے، اس کا نجس ہونا بھی کسی دلیل و وضاحت کا محتاج نہیں، دنیا کا کون عاقل ہو گا جسے پیشاب پاخانہ کی نجاست دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہو۔ لیکن دور جدید کے بعض وہ دانشور جن کو یہ سمجھانا بھی آج مشکل ہے کہ انسان، انسان ہے بندر کی اولاد نہیں۔ عورت، عورت ہے مرد نہیں، وہ اگر پیشاب کو بھی آب حیات اور داروئے شفا بتائیں، اور گندگی میں بھی وٹامن بی اور سی کا سراغ نکل لائیں ان کو سمجھانا واقعی مشکل ہے۔ رہا یہ کہ کتا تو وفادار جانور ہے اس کو کیوں نجس قرار دیا گیا؟ اس سوال کو اٹھانے سے پہلے اس بات پر غور کر لینا چاہئے کہ کیا کسی چیز کا پاک یا ناپاک ہونا فرما برداری اور بے وفائی پر منحصر ہے؟ یعنی یہ اصول کس فلسفہ کی رو سے صحیح ہے کہ جو چیز وفادار ہو وہ پاک ہوتی ہے۔ اور جو بے وفا ہو وہ ناپاک کہلاتی ہے؟

اس کے علاوہ اس بات پر غور کرنا ضروری تھا کہ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا؟ کسی چیز کی صرف ایک آدھ خوبی کو دیکھ کر اس کے بدے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ وفاداری ایک خوبی ہے، جو کتے میں پائی جاتی ہے (اور جس سے سب سے پہلے خود انسان کو عبرت پکڑنی چاہئے تھی) لیکن اس کی اس ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاست فطرت کو نمایاں کرتے ہیں، اس کا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے برسرِ پیکر رہنا اس کا مردار خواری کی طرف رغبت رکھنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھا جانا وغیرہ، ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کر اس کی وفاداری سے وزن کیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے؟ اور یہ کہ کیا واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں؟

یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو آدمی خوراک کے طور پر استعمال

کرتا ہے ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے پاک چیزوں کو انسان کے لئے حلال کیا ہے، اور ناپاک چیزوں کو اس کے لئے حرام کر دیا ہے، تاکہ ان کے نجس اثرات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں۔ اور اس کے اخلاق و کردار کو متاثر نہ کریں۔ خنزیر کی بے حیالی اور کتے کی نجاست خوری ایک ضرب المثل چیز ہے۔ جو قوم ان گندنی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گی اس میں نجاست اور بے حیالی کے اثرات سرایت کریں گے جن کا منہلہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے۔ اس لئے کہ صحبت و رفاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا ایک موثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت و رفاقت آدمی کو نیک بناتی ہے اور بد کی رفاقت سے بدی آتی ہے، یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت و رفاقت تک محدود نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف و اخلاق انسان میں منتقل ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی ممانعت فرمادی ہے کیونکہ کتے کی مصاحبت و رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست و گندگی کا وصف منتقل ہوگا۔

اور اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ جب کتے سے ”بے تکلفی“ بڑھے گی تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ وہ آدمی کی بے خبری میں اس کے کبڑوں اور برتنوں میں منہ ڈال دے گا اور اندرونی نجاست کے ساتھ ساتھ ظاہری نجاست بھی اس کو استعمال کرنا پڑے گی۔

ایک اور سبب یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مملک ہوتے ہیں اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جاہر ہونا از بس مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کر دیتے ہیں۔ پس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مملک اثرات سے محفوظ کر دیا۔

مسلمان ملک میں کتوں کی نمائش

س..... گزشتہ دنوں اخبار جنگ اور نوائے وقت میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان میں کتوں کی نمائش ہوئی اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے حصہ لیا۔ اور ایک کتے نے اپنی مالکن کے ساتھ وہ حرکت کی جس سے سب شرمائے، کیا کتوں کو پالنا اور ان کے مقابلہ حسن کا انعقاد کرنا جائز ہے؟ مفصل جواب تحریر کریں۔

ج..... استفتاء میں اخبارات کے حوالہ سے جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعی ایک غیور مسلمان کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو کتوں سے بہت محبت ہو کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ ابتداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے سات دفعہ دھویا جائے، کتا ذلیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں سے ہے جو کہ اپنے اوصاف مذمومہ کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے چہ جائے کہ ان کی پرورش کی جائے اور ان کی نمائش کے لئے باقاعدہ محفل منعقد کی جائے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لئے سخت وعید آئی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ:

”جس گھر میں کتے اور جانداروں کی تصاویر ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“

بہر حال یہ جانور بڑا ذلیل، حریص ہوتا ہے پس جب کتے کے ایسے اوصاف ہیں تو جو شخص اسے پالتا ہے اور اس کے ساتھ محبت و مخالطت رکھتا ہے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ کتے کی سب سے بری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی برادری یعنی کتوں سے نفرت کرتا ہے اسی وجہ سے جب ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک دوسرے پر بھونکندا شروع کر دیتے ہیں یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو کہ کتا پالتا ہے یعنی اس کو بھی اپنے بھائی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اقوام دنیا میں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہر حال اہل یورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعہ سے خوب لگایا جاسکتا ہے کہ جب انگلستان کی مشہور

خاتون ”سزائم سی و اہل“ بیمار ہوئی تو اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام املاک اور جائیداد کتوں کو دے دی جائے۔ خاتون کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اب اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں۔ اس جائیداد سے کتوں کی پرورش افزائش نسل ایک ٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ خدا اور رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اغیار کی تقلید نہ کریں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔

کتہ رکھنے کے لئے اصحاب کھف کے کتے کا حوالہ غلط ہے

س اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دوسرے یہ کہ ایک گھر جو کہ خاصا اسلامی (بظاہر) ہے گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں اور بعض افراد توجیح بھی کر آئے ہیں اس کے باوجود گھر میں ایک کتا ہے جو کہ گھر میں بہت آزادانہ طور پر رہتا ہے تمام گھروالے اسے گود میں لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اوپر سے دوسرے افراد کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا پاک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ اصحاب کھف کے کتے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا گیلا ناپاک ہے سو کھا پاک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم لوگوں کو اس بارے میں صحیح طور پر معلوم ہو۔

ج اسلام میں گھر کی یا کھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت یا شکر کی ضرورت کے لئے کتا پالنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن صحیحین کی مشہور حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مشکوٰۃ ص ۳۸۵ میں صحیح مسلم کے حوالے سے ام المومنین حضرت میمونہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی افسردہ اور غمگین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات جبرئیل علیہ السلام نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے نہیں۔ (اس کا کوئی سبب ہوگا ورنہ) بخدا! انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر یکایک آپ (صلی اللہ علیہ

وسلم) کو کتے کے پلے کا خیل آیا جو آپؐ کے تخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلا گیا۔ پھر جگہ صاف کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہاں پانی چھڑکا۔ شام ہوئی تو جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی کہ آپؐ نے گزشتہ شب آنے کا وعدہ کیا تھا (مگر آپؐ آئے نہیں)۔ انہوں نے فرمایا ہاں! وعدہ تو تھا مگر ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اس سے اگلے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ یہ حکم فرمایا کہ چھوٹے بلح کی حفاظت کے لئے جو کتا پالا گیا ہو اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور بڑے بلح کی حفاظت کے لئے جو کتا رکھا گیا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔

کتے سے پیار کرنا اور اس کو گود میں لینا، جیسا کہ آپؐ نے سوال میں ذکر کیا ہے کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہو اس سے کسی سچے مسلمان کو کیسے الفت ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں کتے کے منہ سے رال چپکتی رہتی ہے اور ممکن نہیں کہ جو شخص کتے کے ساتھ اس طرح اختلاط کرے اس کے بدن اور کپڑوں کو کتے کا نجس لعاب نہ لگے۔ اس کے کپڑے کبھی پاک نہیں رہ سکتے اور نجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے جس شخص کو کتا کاٹ لے اس کے بدن میں یہی زہر سرایت کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو سلت مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجھا جائے۔ یہ حکم اس کے زہر کو دور کرنے کے لئے ہے۔ کتے سے اختلاط کرنا اس زمانے میں انگریزوں کا شعلہ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

آنکھوں کا عطیہ اور اعضاء کی پیوند کاری

آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیسا ہے

س..... دکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسلام میں کیا یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی نابینا آدمی کو لگا دی جائیں؟

ج..... کچھ عرصہ پہلے مولانا مفتی محمد شفیعؒ اور مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ نے علماء کا ایک بورڈ مقرر کیا تھا۔ اس بورڈ نے اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی دیا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ ”اعضاء انسانی کی پیوند کاری“ کے نام سے چھپ چکا ہے۔

شاید یہ کہا جائے کہ یہ تو دکھی انسانیت کی خدمت ہے اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں اس قسم کی دلیل پیش کرنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعتاً اس کو انسانیت کی خدمت اور کلمہ ثواب سمجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم اللہ! آگے بڑھئے اور اپنی دونوں آنکھیں دے کر انسانیت کی خدمت کیجئے اور ثواب کمائیے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک ایک آنکھ ہی دیجئے۔ انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور ”مساوات“ کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالباً اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ زندہ کو تو آنکھوں کی خود ضرورت ہے جبکہ مرنے کے بعد وہ آنکھیں بیکار ہو جائیں گی۔ کیوں نہ ان کو کسی دوسرے کام کے لئے وقف کر دیا جائے۔

بس یہ ہے وہ اصل نکتہ، جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ یہ نکتہ اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں۔ بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی) کے انکار پر مبنی ہے۔

اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آدمی زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کے آئل اس جہاں میں ظاہر نہیں ہوتے۔ زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہو گا اور یہ دائمی اور ابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باقی رہتا ہے مگر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اب اس پر غور کرنا چاہئے کہ کیا آدمی کو دیکھنے کی ضرورت صرف اسی زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل و فہم کا آدمی بھی اس کا جواب یہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لوازمات کی ضرورت ہے اسی طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب یہ بات بھی طے ہوئی کہ جو شخص آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دو میں سے ایک بات کہی جاسکتی ہے یا یہ کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا یا یہ کہ وہ ایٹم و قربانی کے طور پر اپنی بینائی کا آلہ دوسروں کو عطا کر دینا اور خود بینائی سے محروم ہونا پسند کرتا ہے۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا۔ لہذا ایک مسلمان اگر آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کارانہ طور پر اندھا ہونا پسند کرتا ہے۔ بلاشبہ اس کی یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا ایثار ہے، مگر ہم اس سے یہ ضرور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باختیار خود اندھا ہوا قبول فرما رہے ہیں تو اس چند روزہ زندگی میں بھی یہی ایثار کیجئے اور اس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظام نہ کیجئے۔

ہلری اس تنقیح سے معلوم ہوا ہو گا کہ :-

۱..... آنکھوں کا عطیہ دینے کے مسئلہ میں اسلامی نقطہ نظر سے مرنے سے پہلے اور بعد کی حالت یکساں ہے۔

۲..... آنکھوں کا عطیہ دینے کی تجویز اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ حیات بعد الموت کے انکار کا نظریہ اس کی بنیاد ہے۔

۳..... زندگی میں انسانوں کو اپنے وجود اور اعضاء پر تصرف حاصل ہوتا ہے اس کے باوجود اس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ قانوناً صحیح ہے نہ شرعاً، نہ اخلاقاً۔ اسی طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً درست ہے نہ اخلاقاً۔ بقدر ضرورت مسئلہ کی وضاحت ہو چکی (تاہم مناسب ہو گا کہ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کر دیئے جائیں۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت إن رسول اللہ ﷺ

قال: «كسر عظم الميت ككسره حياً» (رواه مالك ص ۲۲۰،

أبو داود ص ۴۵۸، ابن ماجہ ۱۱۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”میت کی ہڈی توڑنا، اس کی زندگی میں ہڈی توڑنے کے مثل ہے۔“

عن عمرو بن حزم قال ”رأنی

النبی ﷺ متکئاً علی قبر“ فقال: «لا تؤذ صاحب هذا

القبر أو لا تؤذہ» رواہ أحمد

(مسند أحمد، مشکاة ص ۱۴۹)

عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوں تو آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”قبر والے کو ایذا نہ دے۔“

عن ابن مسعود ”أذى المؤمن في موته كأذى في

حياته“ (ابن أبي شيبه حاشية مشكاة ص ۱۴۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
”مومن کو مرنے کے بعد ایذا دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں
ایذا دینا۔“

حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ آتا ہے کہ وہ
ہجرت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کسی
جماد میں ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، درد کی شدت کی تاب نہ لا کر انہوں نے
لپٹا ہاتھ کاٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کے رفیق نے
کچھ دنوں کے بعد ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں
مگر ان کا ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے جیسے زخمی ہوتا ہے۔ ان سے حل
احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری بخشش فرمادی۔ اور
ہاتھ کے بدلے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو نے خود بگاڑا ہے اس
کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔

ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ میت کے کسی عضو کو کاٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی
زندگی میں کاٹا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عضو آدمی نے خود کاٹ ڈالا ہو، یا اس کے
کاٹنے کی وصیت کی ہو وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی جگہ اور عضو عطا
کر دیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا یہ استدلال ختم ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کے
عطیہ کی وصیت کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو اور آنکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اس کو نئی آنکھیں عطا کر دے۔ مگر اس کے

جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو بھی نئی آنکھیں عطا کر سکتے ہیں، لہذا آپ

اس ”کر سکتے ہیں“ پر اعتماد کر کے کیوں نہ اپنی آنکھیں کسی ٹائیٹا کو عطا کر دیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اس ٹائیٹا کو بھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھر اس کیلئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کیوں فرماتے ہیں؟

خلاصہ یہ کہ جو شخص مرنے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو مانتا ہو اس کے لئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ اور جو شخص حیات بعد الموت کا منکر ہو اس سے اس مسئلہ میں گفتگو کرنا بیکار ہے۔

آنکھوں کا عطیہ کیوں ناجائز ہے، جبکہ انسان قبر میں گل سڑ جاتا ہے

س..... آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ لیکن چند الجھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جو اب دے کر شکر یہ کا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعد انسان کا سدا کا سدا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم ان میں مل جاتا ہے بس انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبرستان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دوسری قبر بنا دی جاتی ہے۔ اس لئے اگر آنکھوں کو مرنے کے بعد کسی زندہ شخص کو دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں پھلے ہوئے انسان کو دوسری زندگی عطا کریں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کر دیں گے؟ (نعوذ باللہ)۔

ج..... جی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز یا اختیار خود ضائع کی ہو وہ نہ دی جائے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کر دیں یا گناہ کی سزا دے کر وہ چیز عطا کر دیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ مگر ہم تو قانون الہی کے پابند ہیں۔ اس جرأت پر اپنی آنکھیں پھوڑ لینا کہ اللہ تعالیٰ اور دے دے

گا، حماقت ہے۔ باقی یہ خیال غلط ہے کہ قبر میں جسم بالکل معدوم ہو جاتا ہے جسم مٹی بن جاتا ہے اور مٹی کے ان ذرات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہو جائیں) روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِ محشر سے پہلے پہلے) عذاب و راحت کا سلسلہ رہتا ہے۔

س..... گزارش ہے کہ ہر انسان اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ مردہ جسم کا قرنیہ جو مردہ کیلئے بیکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت دوسرے زندہ کی آنکھ میں منتقل کر دی۔ یہ زندہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ گویا ایک امانت دوسری امانت میں منتقل ہو گئی۔ اور اس عمل سے وہ زندہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے لگا اور اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ ظاہر آتو یہ نہایت ہی نیک کام ہے اور جب یہ آدمی مرے گا تو یہ قرنیہ بھی واپس دفن ہو جائے گا۔ اور جس سے یہ قرنیہ مستعد لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرنیہ اجازت سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ انسان ہمدردی کے تحت اجازت دیتا ہے اس سے تو امانت امانت ہی رہی۔ علماء کے فیصلے سے اپنی تسلی چاہتا ہوں۔

ج..... اس سلسلہ میں صحیح فیصلہ تو علماء کرام ہی کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کے فیصلے پر اعتماد کرنا چاہئے۔ آنکھ اگر امانت الہی ہے تو ہمیں اس امانت میں تصرف کا حق بھی باذن الہی ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ بحث یہ ہے کہ کیا اس تصرف کا حق شریعت نے دیا ہے؟ علماء امت کی رائے یہ ہے کہ شرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

س..... بزرگوارم آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز لکھا ہے۔ چند دن قبل روزنامہ ”نوائے وقت“ میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعمال بھی جائز ہے۔ ویسے بھی۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ اطاعت کیلئے کم نہ تھے کروہین

کے پیش نظر سیکڑوں ہزاروں ٹائیلوں کو بینائی مل جائے تو اسلام کو اس خدمتِ خلق سے منع نہیں کرنا چاہئے۔

ج..... ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ میں دوسرے حضرات بھی مجھ سے متفق ہوں۔ ”درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو“ کوئی شرعی قاعدہ نہیں۔ اور یہ کہنے کی میں جرات نہیں کر سکتا کہ اسلام کو فلاں چیز سے منع کرنا چاہئے، فلاں سے نہیں۔ عقل کو حاکم سمجھنا اہلسنت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

لاش کی چیر پھاڑ کا شرعی حکم

س..... کیا سائنسی تحقیق کیلئے اسلامی شریعت کی رو سے لاشوں کی چیر پھاڑ جائز ہے؟ کیا اس سے لاشوں کی بے حرمتی کا احتمال تو نہیں، جبکہ لاشوں میں مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں اور لاشیں بالکل تنگی ہوتی ہیں اور چیرنے پھاڑنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ اگر بے حرمتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیا لڑکیوں کو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ اور پھر مردوں کی موجودگی میں یہ کام کرنا جائز ہے بصورت دیگر کیا سزا ہے؟

ج..... لاشوں کی چیر پھاڑ شرعاً حرام ہے۔ خصوصاً اجنس مخالف کی لاش کی بے حرمتی اور بھی سنگین جرم ہے پھر لڑکوں لڑکیوں کے سامنے اور بھی قبیح ہے۔ گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے۔ اور جب تک یہ نہ ہو اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے استغفر کرتے رہنا چاہئے۔

چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچہ کو آپریشن کے ذریعے نکالنا

س..... اسلامی عقیدہ کے مطابق ۱۲۰ دن میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاندار شکر ہوتا ہے۔ یعنی ۱۲۰ دن میں ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے میں جان آجائے گی۔ جبکہ میڈیکل تصویر کے لحاظ سے بھی ۱۲۰ دن کے بعد بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بیلری کی وجہ سے یا دل کا ذرہ پڑنے کی وجہ سے حاملہ عورت ۶ ماہ کے حمل میں وفات پا جاتی ہے جبکہ بچے کی پیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے۔ اب اگر بچے کو آپریشن کے ذریعے مردہ ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شاید وہ بچ جائے لیکن اگر ماں کے پیٹ میں رہنے دیا جائے اور

مردہ عورت کو دفنایا جائے تو جاندار بچے کو بھی زندہ درگور کر دیا گیا۔ اب اس صورت میں کہ اگر عورت ۶ ماہ کے حمل میں وفات پا جائے تو اس بچے کا کیا بنے گا جو مل کے پیٹ میں پرورش پارہا تھا؟

ج..... اگر اس کا وثوق ہو کہ بچہ زندہ ہے اور یہ کہ اگر آپریشن کے ذریعے بچے کو نکلا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعے بچے کو نکل لینا صحیح ہے۔

خون کے عطیہ کا اہتمام کرنا اور مریضوں کو دینا شرعاً کیسا ہے

س..... ہم لوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور چونکہ تیسرے اور چوتھے سال سے ہملا تعلق براہ راست مریضوں کی دیکھ بھل سے ہو جاتا ہے۔ جس میں ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے مریض غرت کی وجہ سے اپنا علاج معالجہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے اور نہ ہی دوائیں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت ”پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن“ (مریضوں کی امدادی جماعت) کے نام سے بنائی ہے۔ جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیں خریدتے ہیں اور پھر خود مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔ اب ہلری اس انجمن نے اپنے کالج میں ”بلڈبنک“ بنانا شروع کیا ہے۔ جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تاکہ جاں بلب مریضوں کو خون پہنچا سکیں۔ اس کا طریقہ کلر یہ ہو گا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار سے خون لے کر اپنے بنک میں رکھ لیا کریں گے اور اس مریض کے نمبر کا خون اس مریض کو مہیا کر دیا کریں گے۔ کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کیلئے خون جمع کرنا اور پھر مریضوں کو مہیا کرنا شریعت کے مطابق درست ہے یا نہیں اور ہم طلبہ کو اس کام کا ثواب ملے گا؟

ج..... اضطراب کی حالت میں مریض کی جان بچانے کیلئے خون دینا جائز ہے۔ اور اسی ضرورت کے پیش نظر خون کا مہیا رکھنا اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اور خدمت خلق جبکہ حد جواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے ثواب کا کام ہے۔

قسم کھانے کے مسائل

قسم کھانے کی مختلف صورتیں

کونسی قسم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا

س..... سنا ہے کہ قسم کی کئی قسمیں ہیں۔ کفارہ کونسی قسم میں لازم آتا ہے؟
ج..... قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔

اول یہ کہ گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلاً قسم کھا کر یوں کہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا۔ حالانکہ اس نے کیا تھا۔ محض الزام کو ٹالنے کے لئے جھوٹی قسم کھالی، یا مثلاً قسم کھا کر یوں کہا کہ فلاں آدمی نے یہ جرم کیا ہے، حالانکہ اس بے چارے نے نہیں کیا تھا۔ محض اس پر الزام دھرنے کے لئے جھوٹی قسم کھالی۔ ایسی جھوٹی قسم ”بیمین غموس“ کہلاتی ہے، اور یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا وہیل بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دن رات توبہ و استغفار کرے اور معافی مانگے، یہی اس کا کفارہ ہے اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں۔

دوم یہ کہ کسی گزشتہ واقعہ پر بے علمی کی وجہ سے جھوٹی قسم کھالے، مثلاً قسم کھا کر کہا کہ زید آگیا ہے، حالانکہ زید نہیں آیا تھا۔ مگر اس کو دعو کہ ہوا، اور اس نے یہ سمجھ کر کہ واقعی

زید آیا ہے جعلی قسم کھالی۔ اس پر بھی کفارہ نہیں اور اسکو ”بیمین لغو“ کہتے ہیں۔
سوم یہ کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھالے، اور پھر قسم
کو توڑ ڈالے۔ اسکو ”بیمین منعقدہ“ کہتے ہیں، ایسی قسم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔

نیک مقصد کے لئے سچی قسم کھانا جائز ہے

س..... سچ کوچ ٹیٹ کرنے کے لئے جھوٹ کو جھوٹ ٹیٹ کرنے کے لئے، ایک حق ایک خیر
کو شر سے بچانے کے لئے، ذلیل کو ذلیل شریف کو شریف ٹیٹ کرنے کے لئے، ظالم کو ظالم،
مظلوم کو مظلوم ٹیٹ کرنے کے لئے قرآن پاک کی قسم کھانا یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر حق اور سچ کا
ساتھ ساتھ صحیح ہے؟
ج..... سچی قسم کھانا جائز ہے۔

قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یا بلا رکھے قسم اٹھانا

س..... الف نے قرآن پاک کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آج کے بعد
رشوت نہیں لوں گا۔ ب نے قرآن پاک کی غیر موجودگی میں قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ میں
آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا۔ کیا ان دونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟
ج..... کوئی فرق نہیں۔ قرآن پاک کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔

جانبین کا جھگڑا ختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر رقم اٹھا

لینا

س..... جانبین میں اختلاف کے بعد الزام اتارنے کے لئے رواج ہے کہ قرآن پاک پر اتنی رقم
رکھ دیا ہوں تو اٹھالے۔ دوسرا فوراً اٹھا لیتا ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ ایسا معاملہ از روئے شرع جائز
ہے یا نہیں؟ اگرچہ جھوٹا ہو؟ رکھنے والا بری ہو جاتا ہے۔ اور اٹھانے والا خدا نخواستہ جھوٹا ہو تو
شریعت میں یہ کس سزا کا مستحق ہے؟

ج..... قرآن کریم پر رقم رکھنا خلاف ادب ہے۔ البتہ اگر رفع نزول کی یہ صورت ہو سکتی ہو کہ جس شخص پر الزام ہے وہ رقم قرآن مجید کے پاس رکھ دے اور مدعی سے کہا جائے کہ اگر واقعی یہ تمہارا حق ہے تو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ رقم اٹھاؤ، رقم اٹھانے والا اگر جھوٹا ہو گا تو اس پر وبال پڑے گا۔

قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو گناہ ہو گا نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو

س..... آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ہمارے برادری کے لوگ زیادہ تر فیصلے قرآن پاک پر کرتے ہیں کچھ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں مگر فیصلے کرنے والے کو اس کا بالکل علم نہیں ہوتا؟ تو کیا اس کا گناہ فیصلے کرنے والے پر بھی ہو گا جبکہ اسے اس کا بالکل علم نہیں ہوتا کہ گواہ یا ملزم نے غلط قسم کھائی ہے۔

ج..... فیصلہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں پر گناہ ہے۔ مگر برادری کے لوگوں کو چاہئے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں خیال ہو کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول دیا اس سے ہاتھ نہ رکھوائیں۔

لفظ ”بخذا“ یا ”واللہ“ کے ساتھ قسم ہو جائے گی

س..... میں نے ایک کاروبار شروع کیا اور میں نے اپنے ایک دوست سے باتوں باتوں میں بے اختیار طور پر یہ کہہ دیا کہ بخذا اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوا تو میں یہ کاروبار بند کر دوں گا۔ میرا قسم کھلنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن غلطی سے میرے منہ سے بخذا کا لفظ نکل گیا۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے لیکن میں نے یہ کاروبار بند نہیں کیا ہے۔ کیا میں نے قسم توڑ دی ہے؟ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نیز کیا ”واللہ“ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے؟

ج..... لفظ ”بخذا“ کہنے سے قسم ہو گئی۔ اور چونکہ آپ نے قسم توڑ دی اس لئے قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہے۔ اور وہ ہے دس مختلفوں کو دو مرتبہ کھانا کھلانا۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین

روزے رکھنا۔ لفظ ”والدہ“ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔

رسول پاک ﷺ کی قسم کھانا جائز نہیں

س..... گزارش ہے کہ میری والدہ نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں سینما کی چوکھٹ پر قدم رکھوں تو مجھے رسول پاک ﷺ کی قسم۔ اب وہ یہ قسم توڑنا چاہتی ہے۔ اس کا کفارہ کیا ادا کیا جائے گا؟
ج..... اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اور ایسی قسم کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں بلکہ اس سے توبہ کرنا لازم ہے۔

”یہ کروں تو حرام ہے“ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے۔

س..... میں نے دو مختلف مواقع پر شدید غصے اور اشتعال میں آکر قسم کھالی ہے کہ میں یہ (یعنی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت) اگر کھوں تو حرام کھوں گا مگر بعد میں بصد اصرار میں نے گوشت کھایا۔ اسی طرح تقریباً ۲ ماہ پہلے ایک دن میں نے غصے میں بیوی کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پر حرام مگر پھر بعد میں تناول کر لیا۔ اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کیونکر ادا ہوگا؟ نیز دونوں قسموں کا علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا ایک ہی کفارہ؟
ج..... دونوں قسموں کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے۔ قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اگر ہر محتاج کو صدقہ کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دی جائے تب بھی درست ہے۔

کافر ہونے کی قسم کھانا

س..... اگر ایک آدمی یہ بولے کہ میں کافر ہوں اگر میں نے یہ کام پھر کیا۔ اور وہ کام پھر وہ آدمی کرے تو کیا وہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے یا کافر؟
ج..... اس سے کافر نہیں ہوتا۔ البتہ ان الفاظ سے قسم ہو جاتی ہے اس لئے قسم توڑنے کا

کفارہ ادا کرنا لازم ہے اور ایسی گندی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ اس لئے اس شخص کو اپنی اس قسم پر توبہ کرنی چاہئے۔

جھوٹی قسم کا کفارہ استغفار ہے

جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں

س..... قرآن شریف کے سامنے میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی کیونکہ میری زندگی کا مسئلہ تھا۔ اس کے لئے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے معاف فرما دیں؟

ج..... قسم کھا کر اگر آدمی قسم توڑ ڈالے تو اس کا تو کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر جھوٹی قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام کیا، حلاکتہ نہیں کیا تھا۔ یا یہ کہ میں نے یہ نہیں کیا حالانکہ کیا تھا تو اس کا کفارہ سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں۔

کسی حقیقی مجرم کے خلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا

س..... میں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے کہنے پر ایک مجرم کے خلاف گواہی دی۔ حالانکہ میں گواہ نہیں تھا۔ لیکن اس نے جرم کیا ضرور تھا۔ اور ثبوت بھی ہے۔ وہ مجرم رکتے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور میرے دوست نے ہی اسے گرفتار کیا تھا۔ اس کام کے لئے مجھے عدالت میں خدا کی قسم کھانی پڑی جو کہ جھوٹی تھی۔ کیا اس رویہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا، اور اگر ہوا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟

ج..... وہ شخص اگرچہ مجرم تھا مگر آپ چونکہ چشم دید گواہ نہیں تھے، اس لئے آپ کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہئے تھی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کا کفارہ توبہ و استغفار کے سوا کچھ نہیں۔

جھوٹی قسم اٹھانا سخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے

س..... آج سے تقریباً اسل پہلے میں نویں یا دسویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا۔ امتحان کے سلسلے میں مجھے شی کورٹ جانا پڑا اور وہاں پر حلف نامہ بھرا تھا امتحان دینے کے سلسلے میں اور مجھے یاد نہیں کہ اس حلف نامہ میں کیا لکھا تھا آیا کہ حلف نامہ میں صحیح باتیں لکھوائی تھیں یا غلط یاد نہیں؟

ابھی تقریباً دو ماہ ہوئے میں نے نیا شناختی کارڈ بنوایا ہے۔ شناختی کارڈ کے فارم میں لیک جگہ حلف نامہ ہے جس میں لکھا ہے کہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے یا نہیں.....؟ میں نے لکھ دیا کہ نہیں بنوایا ہے۔ حالانکہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے اس لحاظ سے حلف نامہ میں غلط بیانی سے کام لیا۔ اس لحاظ سے جو غلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنی غلطی کس طرح سے دور کروں چونکہ مجھے حلف نامہ کی اہمیت کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا۔

ج..... جھوٹی قسم اٹھانا بہت سخت گناہ ہے اس سے خوب ندامت کے ساتھ توبہ کرنا چاہئے۔ یہی اس کا کفارہ ہے۔

جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے

س..... اگر کوئی شخص جذباتی ہو کر غصے میں یا جن بوجھ کر قرآن کی قسم کھالے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟

ج..... جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے اس کا کفارہ توبہ و استغفار ہے۔ اور اگر یوں قسم کھالی کہ فلاں کام نہیں کروں گا۔ اور پھر قسم توڑ دی تو دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر نہیں کھلا سکتا تو تین دن کے روزے رکھے۔

جبراً قرآن اٹھانے کا کفارہ

س..... ڈر یا خوف سے جھوٹا قرآن مجید اٹھوانے کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ اور کیا قرآن مجید اٹھوانے والے کو بھی گناہ ہوگا؟

ج..... جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم اٹھانا بڑا سنگین گناہ ہے۔ توبہ و استغفار سے یہ گناہ معاف کرانا چاہئے یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور قرآن اٹھوانے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔

سودا بیچنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا

س..... یہ جو ہمارے اکثر گھرانوں میں بات بے بات قسم خدا، قسم قرآن کی کھاتے ہیں چاہے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی، لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے تو مہربانی ہوگی کہ ان سچی جھوٹی قسموں کی سزا کیا ہے۔ ہمارے اکثر تاجر حضرات جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ مثلاً کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ بھی اپنا مال بیچنے کے لئے پانچ منٹ میں تقریباً کتنی ہی قسمیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھلا ایمانداری کا بھلا ہے چاہے وہ بھلا سچا ہو یا جھوٹا اور اکثر اسی بھلاؤ میں کمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر تھوڑا نقصان اٹھا رہے ہیں خدا کی قسم ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی قسم ہم نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا۔ حالانکہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تاجر حضرات ہمارے لئے نقصان اٹھائیں اور کلروں میں گھومیں۔ جواب ضرور دیں۔

ج..... جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی گھو اس کی عادت پڑ گئی ہو تو اس کو توبہ کرنی چاہئے۔ اور اپنی اصلاح کرنی چاہئے۔ سودا بیچنے کے لئے قسم کھانا اور بھی برا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تاجر لوگ بد کلروں کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو خدا سے ڈرے، اور غلط بیانی سے باز رہے۔

زبردستی قرآن اٹھوانے والے بھائی سے قطع تعلق کرنا

س..... بچوں کی شادی کی بات کے سلسلے میں میرے بڑے بھائی نے مجھ سے زبردستی قرآن

شریف اٹھوایا ہے جب کہ میں نے انہیں ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات میں نے نہیں کی ہے تو وہ اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں تم نے ہزار لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی تہملے گھر میں یعنی تہملی بچی سے نہیں کروں گا حالانکہ کہ یہ بات میں نے بخدا کسی سے بھی نہیں کہی ہے لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر مان بھی لیا کہ میں نے یہ بات ہزار لوگوں میں کہی ہے تو کوئی ایک بھی گواہ لے کر آؤ اور اس کے سامنے مجھے جھوٹا کرواؤ۔ لیکن وہ ایک بھی گواہ نہیں لائے اور مجھے کہا کہ میں گواہ نہیں لاتا اگر تم قرآن شریف اٹھا کر قسم نہیں کھاؤ گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم جھوٹے ہو اور ایسی باتیں کہیں کہ مجھے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ قرآن شریف اٹھا کر اپنی سچائی کو ثابت کر سکوں۔ لہذا مجبوراً قرآن شریف اٹھا کر اپنی سچائی ثابت کر دی پھر میں نے یہ کہا کہ اب تو میں نے سچائی ثابت کر دی اب رشتہ ہو گا یا نہیں؟ تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ رشتہ نہیں ہو گا اور مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میں ہر عید پر اور کبھی کبھی ان کے گھر چلا جاتا ہوں لیکن وہ ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کی رو سے یہ بتائیں کہ کیا میں نے انتہائی مجبوری میں قرآن شریف اٹھا کر کوئی غلطی کی ہے جو کہ میں نے صرف اور صرف اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے اٹھایا تھا اور کیا یہ ان کا اقدام درست تھا جب کہ یہ معاملہ گفت و شنید کے ذریعے بھی حل ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی سننا گوارا نہ کیا تو اس کے بارے میں بھی لکھیں کہ ذرا اسی بات پر قرآن شریف اٹھوانا کیسا ہے اور اس کی سزا کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔

ج..... انہوں نے آپ کو قرآن مجید اٹھانے پر جو مجبور کیا یہ ان کی غلطی تھی۔ لیکن اگر آپ نے سچائی پر قرآن مجید اٹھایا ہے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ ان کا آپ سے قطع تعلق کر لینا بھی ان کی غلطی ہے کیونکہ رنجش کی وجہ سے اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر لینا بڑا سنگین گناہ ہے۔ جس کا وہیل دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا ہو گا۔ بہر حال اگر وہ آپ سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آپ ان سے قطع تعلق نہ کریں اور ان کی برائی بھی نہ کریں وہ خود اپنے کئے کا پھل پائیں گے۔

قسم توڑنے کا کفارہ

قسم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگانا رکھنا ضروری ہے

س..... قسم توڑنے کے کفارہ میں تین روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا فاصلہ سے رکھے جاسکتے ہیں؟

ج..... بعض روایات میں کفارہ قسم کے روزوں کو پے درپے مسلسل رکھنے کا حکم آتا ہے اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے ائمہؒ کا بھی ان روزوں میں یہی مذہب ہے کہ ان روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری ہے۔

قسم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفہ وقفہ سے دے سکتے ہیں

س..... قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا ہے اب مشکل یہ ہے کہ دس مسکین بیک وقت ملتے نہیں۔ تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ دو چار دن کے وقفے سے چند مسکین کو آج کھلا دیا اور چند کو کچھ دن بعد؟ اس طرح دس مسکینوں کا دو وقتہ میزان وقفوں کے ساتھ پورا کر دیں تو یہ جائز ہو گا کہ نہیں؟

ج..... اس طرح بھی درست ہے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مسکین کو دو وقتہ کھلائیں مثلاً اگر دس محتاجوں کو ایک وقت کا کھلایا، اور دوسرے دس محتاجوں کو دوسرے وقت کا کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہو گا۔

(الجوهرة النيرة ص ۲۵۲ ج ۲)

قسم کے کفارے کا کھانا بیس تیس مسکینوں کو اکٹھے کھلانا دینا

س..... آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ بتایا ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دیگ پکا کر ایک ہی وقت میں تیس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے؟ ج..... جی نہیں! اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا شرط ہے۔ اگر بیس آدمیوں کو ایک ہی وقت کھلایا یا دس محتاجوں کو ایک وقت اور دوسرے دس کو دوسرے وقت کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوا، بلکہ جن دس محتاجوں کو ایک وقت کھلایا انہی کو دوسرے وقت کھلانا لازم ہے۔ ہاں! یہ جائز ہے کہ دس محتاجوں کو دو دن صبح کا یا دو دن شام کا کھانا کھلایا دے۔

نابالغ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں

س..... تقریباً دس بارہ سال کی عمر میں، میں نے قسم توڑی تھی۔ آیا اس کا کفارہ مجھ پر لازم آتا ہے؟ ج..... نابالغ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں۔ پس اگر تو آپ قسم کھاتے وقت نابالغ تھے تو آپ کے ذمہ کفارہ نہیں، اور اگر بالغ تھے (کیونکہ بارہ سال کا لڑکا بالغ ہو سکتا ہے) تو کفارہ ادا کیجئے۔

مختلف قسمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

قسم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا
س..... اگر کوئی شخص تصدا یا مجبوراً قرآن شریف اٹھا کر قسم کھالے کہ میں ایسی غلطی نہیں

کرونگا۔ اور یہ قسم وہ لوگوں کے مجبور کرنے پر کھاتا ہے تو کیا اس قسم کو توڑنے کے لئے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا کوئی اور طریقہ ہے؟
 ج..... قسم خواہ از خود کھلائی ہو یا کسی کے مجبور کرنے سے، اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے اور وہ ہے دس مختہوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو تین دن لگاتار روزے رکھے۔

قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے

س..... میں نے قسم کھلائی ڈیڑھ سل تک سگریٹ نہیں پیوں گا لیکن کچھ عرصہ بعد میں نے ریڈیو پروگرام میں پوچھا کہ میری یہ قسم کس طرح ختم ہو سکتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ ۶۰ غریبوں کی دعوت کریں یا ۳ روزے رکھیں تو میں نے ۳ روزے رکھے اور اس کے بعد سگریٹ پینا شروع کر دی تو کیا یہ میری قسم ٹوٹ گئی یا مجھے پھر ۶۰ غریبوں کی دعوت کرنی ہوگی؟
 ج..... قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد لازم آتا ہے۔ آپ نے جب قسم توڑ دی تب کفارہ لازم آیا۔ قسم کا کفارہ دس مختہوں کو کھانا کھلانا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین روزے رکھنا۔

ایک مہینے کی قسم کھلائی اور مہینہ گزرنے کے بعد وہ کام کر لیا

س..... ایک شخص نے قسم کھلائی کہ ایک مہینے تک فلاں چیز نہیں کھلاؤں گا۔ کیا ایک مہینے کے بعد اگر کھالے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ اور اگر وہ چیز کئی دفعہ کھلائی تو ایک مرتبہ کفارہ دینا پڑے گا یا جتنی مرتبہ کھلائی اتنے کفارے دینے پڑیں گے؟
 ج..... اگر مہینے کے اندر اندر وہ چیز کھلائی تب تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر مہینہ گزر گیا اور وہ چیز نہیں کھلائی تو قسم پوری ہوگئی۔ بعد میں اگر کھائے تو کفارہ لازم نہیں۔ اسی طرح جب ایک بار قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ واجب ہو گیا۔ اس کے بعد اس قسم کی پابندی لازم نہیں۔ اس لئے کئی بار کھانے سے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

جھوٹی قسم کیلئے قرآن ہاتھ میں لینا

س..... اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھالے اس طرح کہ ہاتھ میں قرآن بھی لے لے، تو اس کا

کفارہ کیا ہوگا؟

ج..... صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے تو قسم نہیں ہوتی۔ اگر اس کے ساتھ زبان سے بھی قسم کھائی ہو تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس محتاجوں کو دو دفعہ کھانا کھلائے۔ یا تین دن کے لگانا روزے رکھے۔

قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قسم بھی ہو جاتی ہے

س..... میرے ایک دوست نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہار گئی تو میں ٹی وی پر کرکٹ دیکھنا چھوڑ دوں گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہار گئی مگر میرا دوست ٹی وی دیکھتا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ پہلے کفارہ ادا کریں پھر ٹی وی دیکھیں مگر میرے دوست نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھائی اور زبانی قسم نہیں ہوتی۔

ج..... اس کی قسم ٹوٹ گئی اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔

قرآن پر ہاتھ رکھ کر خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا

س..... اگر ایک مسلمان آدمی قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا لیکن وہ شخص وہی گناہ دوبارہ کر لیتا ہے اور اس طرح وہ قسم یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا کیا ایسے شخص کی نجات ممکن ہے یا نہیں؟

ج..... اس شخص کو توبہ کرنی چاہئے اور خوب گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے اور قسم جو اس نے توڑ دی ہے اس کا کفارہ لازم ہے کہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہر محتاج کو سات آٹھ روپے نقد دیدے۔ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں نجات کی امید ضرور رکھنی چاہئے۔

خدا تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سنگین غلطی ہے

س..... آج سے چار سال قبل میں نے کسی بات پر ”قرآن مجید“ اٹھا لیا تھا۔ یعنی یہ

کہ ”قرآن حکیم“ پر ہاتھ رکھ کر عہد کر لیا تھا کہ فلاں بات اب نہیں کروں گا۔ لیکن پھر غفلت میں وہ بات کر بیٹھا اور مسلسل چار سال تک کرتا رہا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاشی بے آواز ہے۔ اب مجھے اس گناہ عظیم کی سزا ملنا شروع ہو گئی ہے تو خیل آیا۔ بہر حال میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں وہ بڑا بخشنے والا رحیم اور کریم ہے اب میں سخت نادم ہوں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہوں، آپ صرف اتنا بتادیں کہ اس قسم کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ میں ان دنوں سخت پریشان ہوں آپ جلد از جلد اخلا کے ذریعے جواب سے نوازیں اور مجھ گناہ گار کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ عظیم کو معاف کرے اور مجھ پر کرم کرے۔

ج..... خدا تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سنگین بات ہے شکر کیجئے کہ آپ کو اس کی سزا نقد مل گئی اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگئے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کیجئے اور قسم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دو وقت کھانا کھلانا اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔

گناہ نہ کرنے کی قسم کا توڑنا

س..... میں نے قرآن مجید کی قسم کھائی تھی کہ میں کوئی گناہ کام زندگی بھر نہیں کروں گا مگر میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر سخت گناہ تو نہ ہو گا اور اس کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟
ج..... اگر آپ نے برا کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو قسم توڑنا بہت بری بات ہے اور اگر توڑ دیں گے تو کفارہ لازم ہو گا۔ یعنی تین دن کے روزے رکھنا یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا۔

کسی کام کو باوجود نہ کرنے کی قسم کھانے کے عہد یا سہواً کر لینا

س..... اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ فلاں کام نہیں کروں گا مگر عہد یا سہواً کام کر جائے جس کا نہ کرنے کا عہد لیا ہو یا قسم کھائی ہو۔ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہئے؟ اگر کفارہ ہو تو کیا کرنا چاہئے؟

ج..... اس پر قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہے۔ دس محتاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلا دے۔ (یا اس کے بجائے ہر محتاج کو صدقہ فطری مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دے) اگر اس کی ہمت نہ ہو تو تین دن کے پے در پے روزے رکھے۔

کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنا

س..... اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے یا صرف توبہ کرنے سے عہد توڑنے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ کیا ہم کفارے میں کھانا کھلانے کے مساوی رقم کسی مسکین کو دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا؟

ج..... اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا قسم اور نذر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کام کے نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور پھر اس عہد کو توڑ دیا جائے تو قسم توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ دس مسکینوں کو دو دفعہ کھانا کھلانے کے بجائے ہر محتاج کو صدقہ فطری مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلو گندم یا اسکی قیمت) دینا بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک مسکین کو پورے کفارے کی رقم یکمشت دینا کافی نہیں، بلکہ دس مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔ اگر دس دن تک ایک مسکین کو ایک ایک دن کی رقم یا غلہ دینا رہے تو یہ جائز ہے۔

تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا

س..... میں نے تین مختلف مواقع پر قسمیں اٹھائیں تھیں کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تیسری قسم تو ایک غلط کام سے توبہ کرنے کی اٹھائی تھی کہ نہیں کروں گا لیکن پھر سرزد ہو گیا۔ یہ مستقل عزائمی کی کمی کئے۔ بہر حال اب بتائیے کہ

(۱) میں ان قسموں کا کفارہ کتنا ادا کروں؟

(۲) اگر قسم توڑنے کا کفارہ ساٹھ آدمیوں کو ایک وقت کا کھانا کھانا ہے تو کیا میں کھانا کھلانے

کے بجائے روپے دے دوں؟

(۳) اگر روپے دوں تو تین قسموں کے کتنے بنیں گے؟ اور یہ کہ کسی ایک نادر کو دے دوں یا

مختلف نادروں کو دینا ضروری ہے؟

ج..... آپ نے تین بد قسم کھا کر تو زدی اس لئے تین قسموں کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے۔ ہر قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے پس آپ کے ذمہ تیس محتاجوں کا کھانا ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو ہر فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یعنی پونے دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مستحق نہ ملے تو کسی دینی مدرسے میں اتنی رقم جمع کر دیجئے۔

بیٹے کو گھر سے نکالنے کی قسم توڑنا شرعاً واجب ہے

س..... زاہد کو اسکا والد گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے مگر زاہد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زاہد کے والد کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور وہ صرف قرآن مجید اٹھا کر کہتے ہیں اگر میرا بیٹا میرے گھر کے کسی فرد سے کوئی تعلق رکھے گا تو میں گھر کو چھوڑ جاؤں گا۔ اب مجبوراً زاہد کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اب جس سلسلہ میں زاہد کو گھر سے نکلا گیا اس میں سراسر قصور زاہد کے والد ہی کا تھا وہ کچھ جذباتی اور جلد غصہ میں آنے والے شخص ہیں۔ برادری کے باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصور زاہد کے والد کا ہی ہے جبکہ زاہد معصوم ہے اور زاہد کے والد وہی ہیں۔ اب زاہد چاہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے مل لیا کرے مگر اس طرح اس کے والد کی قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اسکا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آیا زاہد اپنے گھر پھر واپس جاسکے گا یا کم از کم اپنی والدہ سے ملاقات کر لے گا؟

ج..... زاہد کے والد کی قسم غلط ہے اور ایسی قسم کا توڑ دینا از روئے حدیث واجب ہے۔ اس لئے زاہد کو چاہئے کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے ملے اور زاہد کا باپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تو اب کیا کرے

س..... میں نے اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے قسم کھائی جس کے الفاظ یہ ہیں میں نے اپنے بھائی سے کہا ”اگر میں تم سے آج کے بعد بات کروں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہوگی۔“ یہ میرے منہ کے الفاظ ہیں جس پر میں آج شرمندہ ہوں اور میں اپنے بھائی سے بات نہ کرنا چاہتا ہوں۔ ج..... بھائی سے بات کرنے پر بیوی کو ایک رجعی طلاق ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ

عدت پوری ہونے تک وہ اسکی بیوی ہے۔ عدت کے اندر جب جی چاہے اس سے میل بیوی کا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یا زبان سے کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لیتا ہوں اس کو ”رجوع“ کرنا کہتے ہیں۔ اگر اس نے عدت ختم ہونے تک رجوع نہ کیا تو اب نکاح ختم ہو گیا، اب اگر دونوں پھر مل بیٹھنا چاہیں تو دوبارہ باقاعدہ نکاح کرنا ہوگا۔ مگر حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔

شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تو شادی کر کے کفارہ ادا کرے

اس..... مسئلہ یہ ہے کہ زید نے قرآن شریف پر غصہ کی حالت میں ہاتھ رکھ کر بلکہ قرآن شریف اٹھا کر قسم کھائی کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مگر بعد میں اس غلطی پر پشیمانی ہوئی کیا اس کا کفارہ ہے؟

ج..... نکاح کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے اس کی طاقت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھے۔

قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قسم کا کفارہ

اس..... ایک لڑکی نے مجھ سے محبت کی تھی۔ میں بھی اسے بے انتہا چاہتا تھا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں اس کو چاہتا ہوں۔ لہذا ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے۔ بہر حال میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور پھر اس نے بھی مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی اور پھر لڑکی نے شادی کے بعد مجھ سے نفرت کا اظہار کیا جس سے میرا دل بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا۔ لہذا اب آپ یہ تحریر کر دیں کہ میں قسم کے کفارہ کو کس طرح ادا کروں جب کہ میں پانچ وقت کی نماز کا پابند بھی ہوں اور خدا سے میں معافی کا طلب گار بھی ہوں۔

ج..... یہ تو اچھا ہوا کہ ”ناجائز محبت“ نفرت سے بدل گئی دونوں اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں یعنی دس محتاجوں کو دو وقت کھانا کھلائیں، یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلو گیوں) یا نقد قیمت ہر مسکین کو دے دیں۔ اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھیں، اور خدا تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔

ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی قسم کھائی تو اب اس سے شادی

کیسے کریں

س..... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نہایت مجبوری کے تحت اپنے ماموں زاد بھائی کے سامنے یہ قسم کھالی تھی کہ ”میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری بہن ہوں اور بہن بن کر رہوں گی اور بہن کے تمام حقوق پورے کروں گی۔“ یہ بات کئی سال پہلے کی ہے اب میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ میرے ماں باپ میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں سخت پریشان ہوں کیونکہ میں قسم توڑنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ قسم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور آپ یہ بھی بتادیں کہ قسم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا بہت سخت گناہ ہوگا؟ مجھ پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟

ج..... آپ پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں، آپ ماموں زاد سے شادی کر کے قسم توڑ دیں۔ اس کے بعد کفارہ ادا کر دیں۔

غلط قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں

س..... ہلاری بیچک کی یونین کے صدر نے ہمیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ادھر ہلاری یونین کے ہی کچھ لوگوں پر تنقید کرنے لگا کہ وہ یہ یہ کرتے ہیں پھر اچانک ہی وہ اٹھے اور قرآن شریف لے کر آئے اور ہم سب سے حلف اٹھوایا کہ ہم سب اس کو ہی ووٹ دیں گے اب جبکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہلاری یونین کا صدر جموٹا ہے اور انتظامیہ سے ملا ہوا ہے اور دوسرا روپ صحیح ہے اور جلد ہی ایکشن بھی ہونے والے ہیں اب میں اور میرے کچھ ساتھی پریشان ہیں کیونکہ ہم سے اس نے دعا سے قرآن پر حلف لیا ہے اب اگر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، دوسری طرف قرآن شریف کا مسئلہ ہے۔ برائے صریحی ہمیں اس کا شرعی حل بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ حلف توڑنے کی صورت میں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

ج..... ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ”جب تم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر دیکھو کہ دوسری صورت بہتر ہے (یعنی اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے) تو جو کام بہتر ہو کر لو اور اپنی قسم (کے توڑنے) کا کفارہ ادا کر دو۔“ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۹۶)

یہ حدیث شریف آپ کے سوال کا جواب ہے۔ آپ لوگ اپنی قسم توڑ دیں اور قسم

کے کفارے ادا کریں۔ قسم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ۳ روزے رکھ لئے جائیں۔

صحیح قسم پر قائم رہنا چاہئے

س..... ہم ۲۰ ساتھی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ہم سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی فیکٹری کے حکام سے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں اپنے ساتھیوں کا کسی وجہ سے ساتھ نہ دے سکا۔ اب میں ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں۔

ج..... فیکٹری والوں سے صحیح بات کا مطالبہ جائز ہے اور غلط بات کا مطالبہ درست نہیں۔ اگر کسی صحیح بات کے کرنے کی آدمی قسم کھالے تو اس کو کرنا چاہئے۔ اگر نہ کرے تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہے یعنی دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔ اور اگر کسی غلط بات پر قسم کھائی ہو تو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔

کمپنی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے

س..... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی والوں نے ہم سے ٹھیکے پر کام کروانا چاہا۔ ہم سب ورکروں نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹھیکے پر کام نہیں کرے گا۔ مگر بعد میں ہم سب کو ٹھیکے (کنٹریکٹ) پر کام کرنا پڑا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم پاکستان جا کر اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں اس کفارہ کو کس طرح ادا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کفارہ کے پیسے کسی مستحق کو دوں مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں کفارہ کے کتنے روپے ادا کروں؟

ج..... جتنے لوگوں نے عہد کر کے توڑا ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ دس دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں یا ہر مسکین کو صدقہ فطری کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت ادا کریں۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی قیمت کے تقریباً آٹھ روپے فی مسکین بنتے ہیں اگر ایک محتاج کو دس دن کھانا کھلا دیں یا

ہر دن صدقہ فطر کی رقم اسکو دیدیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسکو دس دن کے کھانے کی رقم یکمشت دیدی تو صرف ایک دن کا کھانا شکر ہوگا۔ نو دن کا دمہ رہے گا۔

”تمہاری چیز کھاؤں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں“ کہنے سے قسم

س..... میں ایک کلرپوریشن میں کام کرتا ہوں۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک سیکشن میں دو کمرے ہیں۔ ہم لوگ دو کمروں میں بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں کسی کے ہاں کوئی خوشی ہو تو مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دوسرے کمرے والوں نے روپے جمع کر کے مٹھائی تقسیم کی۔ انہوں نے اپنے لئے چم چم مٹھائی منگوائی اور ہمارے لئے گلاب جامن کے ڈبے بھیجے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں نے اس سے جو کہ بڑا پنا ہوا تھا کہا، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لئے پسند کرے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز ہونی چاہئے۔ اس میں بات بڑھ گئی تو میں نے غصہ میں اس کی قسم کھالی کہ تمہارے کمرے کے کسی بھی آدمی کی تقسیم کردہ کوئی چیز کھاؤں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں۔ اس بات کو تقریباً ۳ سال گزر چکے ہیں اس دن سے وہ لوگ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لئے دیتے ہیں میں نہیں کھاتا۔ اس بات پر وہ لوگ سب ناراض ہوتے ہیں اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ قسم نہ کھاتا۔ برائے مہربانی اس قسم کا شرعی طور پر حل بتائیں۔ اس کا توڑ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر کس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے کفارہ کیا ہے؟

ج..... آپ نے بڑی غلط قسم کھالی اس قسم کو توڑ دیجئے۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ قسم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دو وقت کھانا کھلانا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔

درزی سے کپڑے نہ سلوانے کی قسم کا کیا کروں

س..... ایک دن میں نے ایک جوڑا کپڑا اور ایک واسٹ درزی کو سلوائی کے لئے دیا۔ وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اس نے کپڑے اور واسٹ دونوں اتنے خراب سی کر دیئے کہ میں نے سخت غصے میں قسم کھالی کہ اس درزی سے عمر بھر میں کوئی چیز نہیں سلواؤں گا۔ وہ درزی ہماری دکان میں ہے۔ اس لئے اس سے سلوانے پر مجبور ہوں۔

ج..... درزی سے کپڑے سلوائیجئے۔ اس طرح قسم ٹوٹ جائے گی پھر کفارہ ادا کر دیجئے۔

کن الفاظ سے قسم نہیں ہوتی

غیر اللہ کی قسم کھانا سخت گناہ ہے

س..... میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے سوا اور بہت سی قسمیں بھی اٹھالیتے ہیں۔ مثلاً تم کو میرے سر کی قسم، تم کو میری قسم یا تم کو اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کی قسم وغیرہ۔ کیا اس قسم کی قسم جائز ہے؟

ج..... خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔ مثلاً یوں کہا کہ باپ کی قسم! رسول کی قسم، کعبہ کی قسم! اولاد کی قسم! بھائی کی قسم! یا اگر کسی اور کی قسم کھائی تو شرعاً یہ قسم نہیں ہوتی۔ البتہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اس لئے قرآن کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔

دل ہی دل میں قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی

س..... میں نے دل میں قسم کھائی تھی اور دل میں وعدہ کیا تھا کہ ایسا نہیں کروں گا مگر کر لیا تو اب اس پر کفارہ کیا ہے؟

ج..... دل میں عہد کرنے سے نہ قسم ہوئی نہ کوئی کفارہ لازم آتا ہے نہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ جب تک کہ قسم کے الفاظ زبان سے ادا نہ کرے۔ اس لئے اس معاملہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ ہوا کہ آپ نے دل میں ایک ارادہ کیا تھا جو پورا نہیں ہو سکا۔

تمہیں خدا کی قسم کہنے سے قسم لازم نہیں ہوتی

س..... ایک شخص نے مجھ سے اپنا کام کرانے کیلئے بہت زور ڈالا اور اللہ کی قسم دی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہے۔ لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں نے باوجود اس کے قسم دلانے کے اس کا کام نہیں کیا۔ کیا مجھے اس شخص نے جو اللہ کی قسم دلائی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ میں نے اپنی زبان سے اللہ کی قسم نہیں کھائی؟

ج..... صرف دوسرے کے کہنے سے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، قسم لازم نہیں ہوتی جب تک

اس کے کہنے پر خود قسم نہ کھائے۔ پس اگر آپ نے خود قسم نہیں کھائی تھی تو آپ کے ذمہ کفارہ نہیں اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی تو کفارہ لازم ہے۔

کسی دوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے قسم نہیں ہوتی

س..... میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میری بیوی نے پابندی عائد کر دی۔ ایک روز خدا کی قسم کا واسطہ دے کر ایک سگریٹ دیا۔ میں نے دوبارہ مانگا تو انکار کر دیا کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اب میں نے سگریٹ نوشی شروع کر دی ہے اس لئے کہ اگر نہ پیوں تو دوسری بیلریاں عود کر آنے کا خدشہ ہے۔ مہربانی فرما کر آپ فتویٰ دیجئے کہ اس قسم کی لغو قسم کا کفارہ ہوتا ہے یا نہیں؟

ج..... کسی کے یہ کہنے سے کہ ”تم کو خدا کی قسم“ اس پر قسم لازم نہیں ہوتی، جب تک خود قسم نہ کھائے پس اگر آپ کی بیوی کے قسم دلانے پر آپ نے قسم نہیں کھائی تھی تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی اور وہ توڑ ڈالی تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کیجئے۔ یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا۔ اور جس کو اتنی مقدور نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔

بچوں کی قسم گناہ ہے اس سے توبہ کرنی چاہئے

س..... میری بیوی اور سالی میں ایک بہت ہی معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا اس دوران غصہ کی حالت میں میری بیوی نے میرے بچوں کی قسم کھائی کہ آئندہ میں اپنے میکے نہیں آؤں گی (جبکہ میرے دو ہی بچے ہیں) اب وہ اپنی قسم پر پشیمان ہے اور اپنے میکے جانا چاہتی ہے۔ آپ بتائیں اس قسم کا کتاب و سنت کی رو سے کیا کفارہ ہو گا اور وہ کس طرح ادا کیا جائے تاکہ یہ قسم ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنے میکے جانا شروع ہو جائے؟

ج..... بچوں کی قسم کھانا گناہ ہے اس سے توبہ کی جائے اور یہ قسم لازم نہیں ہوتی نہ اس کے کفارے کی ضرورت ہے۔ اس لئے میکے جاسکتی ہے۔

بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں

س..... میرے بھائی نے انتہائی غصے کی کیفیت میں اپنے پانچ بچوں کی قسم کھائی تھی لیکن اب وہ قسم توڑ دی ہے۔ برائے مہربانی یہ فرمائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہئے۔ نیز جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کریں یا ان کی جانب سے کوئی دوسرا فرد بھی کر سکتا ہے؟

ج..... قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھلائی جاتی ہے بچوں کی جن کی قسم کھانا جائز نہیں نہ اس سے قسم ہوتی ہے۔ مگر غیر اللہ کی قسم کھانے پر اس کو توبہ و استغفر کرنا چاہئے۔

بیٹے کی قسم کھانا جائز نہیں

س..... الف نے اپنی ماں کے جبراً کہنے پر اپنے بیٹے ب کی قسم کھائی کہ وہ (الف) اپنے چچا سے کبھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ الف کا اپنے چچا اور ان کے اہل و عیال سے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیا الف کی اپنے چچا سے میل جول کرنے پر قسم ٹوٹ گئی؟ اگر ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ب (الف کے بیٹے) کی صحت، زندگی اور عافیت پر کوئی زک آنے کا اندیشہ تو نہیں؟ کیونکہ الف نے بیٹے کی قسم کھائی اور پھر توڑ دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب سے خوفزدہ ہے۔

ج..... بیٹے کی قسم کھانا ہی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور چچا سے قطع تعلق بھی حرام ہے۔ الف والدہ کے کہنے سے دو ناجائز باتوں کا مرتکب ہوا۔ اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور چچا کے ساتھ قطع تعلق ختم کر دے۔ الف کے بیٹے پر انشاء اللہ کوئی زد نہیں آئے گی۔

”تمہیں میری قسم“ کہنے سے قسم نہیں ہوتی

س..... محترم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تمہیں میری قسم ہے اگر تم فلاں کام کرو، یا یہ کہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور بیٹا اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟

ج..... ”تمہیں میری قسم“ کہنے سے قسم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ”دودھ نہیں بخشوں گی“ کے لفظ سے بھی قسم نہیں ہوتی۔ اس لئے اگر اس شخص نے اپنی والدہ کے حکم کے خلاف کیا تو قسم نہیں ٹوٹی، نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے البتہ اس کو اپنی والدہ کی نافرمانی کا گناہ ہوگا۔ بشرطیکہ والدہ نے جائز بات کہی ہو۔

قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی

س..... میں اپنی بیوی کو کچھ رقم دیتا ہوں۔ رقم دینے میں کچھ تاخیر ہو گئی میری بیوی نے غصے میں آکر کہا آئندہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی سانسے قرآن پڑا ہے (اشارہ کر کے) اور قرآن شریف سانسے موجود تھا۔ آیا یہ قسم ہو گئی اور اگر اس قسم کو میری بیوی توڑ دے تو کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟

ج..... قرآن کریم کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی۔

”اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں“ سے قسم نہیں ہوتی

س..... میں عرصہ دراز سے ایک گناہ میں مبتلا تھا بلکہ اب بھی شاذ و نادر مرتب ہو جاتا ہوں۔

اس گناہ سے بچنے کے لئے متعدد بد توبہ کی لیکن وقتی طور پر سہی کوئی کلر گر ٹیٹ نہ ہوئی۔ آخر

ایک دن قسم اٹھائی کہ اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا تو یوں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ

زنا کیا ہے کچھ عرصہ یہ قسم بحال رہی۔ بد قسمتی سے پھر اس گناہ کا مرتب ٹھہرا اور اس طرح پھر

اپنی پرانی روش پر اتر آیا۔ عجیب بات ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد نادوم ہوا اور آئندہ نہ کرنے

کا عہد کیا۔ بلکہ اپنی طرف سے سچی توبہ کی لیکن بار آور ٹیٹ نہ ہوئی۔ لہذا ایک تو دعا فرمائیں اللہ

تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ دوسرے نہ کرنے کی توفیق بخشے۔ مزید قسم توڑنے کا کیا کفارہ ادا کرنا

پڑے گا؟ سنا ہے آسان کفارہ ۶۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے

ساتھ مسکین تو اکٹھے نہیں کئے جاسکتے اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی دینی مدرسہ میں

اس کھانے کے عوض رقم ادا کی جاسکتی ہے؟ رقم کتنی ہونی چاہئے؟

ج..... ”اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں“ ان بیوہ الفاظ سے قسم نہیں ہوتی، نہ

اس پر کوئی کفارہ لازم ہے، ان گندے الفاظ سے توبہ کرنی چاہئے۔ البتہ اس سے پہلے آپ نے

جتنی مرتبہ قسمیں کھا کر توڑیں ان کا ہر ایک کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے۔

غیر مسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ نہیں

س..... میں ایک غیر مسلم ہونے کے ناتے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ازراہ کرم جواب اخذ

میں یا براہ راست مجھے بھیجئے۔

سوال یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی سے ۵۰ روپیہ لئے تھے اس نے مجھے مقررہ تاریخ تک لوٹا

دینے کو کہا لیکن میں کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ پیسے نہیں لوٹا سکا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ان

کو یہ پیسے کسی کفارہ کے ساتھ واپس کر دوں۔ واضح رہے کہ میں نے ان کو مقررہ تاریخ تک پیسے

لوٹا دینے کی قرآن شریف کی قسم کھائی تھی۔ آپ اسلام کی رو سے اس سوال کا جواب

دیں۔

ج..... آپ اصل رقم واپس کر دیں تاریخ مقررہ پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ذمہ کوئی

کفارہ نہیں۔ آپ نے جو قسم کھائی تھی اور وہ قسم آپ پوری نہیں کر سکے اس کا کفارہ آپ کے

ذمہ میں کوئی ہے تو ادا کر دیجئے۔ دین اسلام کی رو سے آپ کے ذمہ اس کا بھی کوئی کفارہ

نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قسم توڑتا تو اس کے ذمہ قسم توڑنے کا کفارہ لازم آتا۔

آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک نظر میں

جلد اول

جلد دوم
وضو کے مسائل، غسل و تیمم، پاکی سے متعلق صورتوں کے مسائل، نماز کے مسائل، جمعہ و عیدین کے مسائل

عقائد، اجتہاد و تقلید، محاسن اسلام، غیر مسلم سے تعلقات، غلام و غلامہ رکھنے والے فرستے، جنت و دوزخ، توہم پرستی

جلد چہارم

حج و عمرہ کے مسائل، زیارتِ روضہ اطہر مسجد نبویؐ، عیدین، منورہ قرآنی، حقیقہ، حلال اور حرام جانور، جسم کھانے کے مسائل

جلد سوم

نماز تراویح، غسل نمازیں، ہیئت کے احکام، قبروں کی زیارت، ایصالِ ثواب، قرآن کریم، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، ہنت و صدقہ

جلد ششم

تجارت یعنی خرید و فروخت اور منت و اجرت کے مسائل، قسطنطنیہ کا کاروبار، قرض کے مسائل، وراثت اور وصیت

جلد پنجم

شادی بیاہ کے مسائل، طلاق و طلع، عدت، بان و نقد، پرورش کا حق، عائلی قوانین وغیرہ۔

جلد ہفتم

پرودہ، اخلاقیات، رسومات، معاملات، سیاست، تعلیم اور وظائف، چانزدہ، چانزدہ، جہاد اور شہید کے احکام

جلد ہشتم

نام تصور، رازمی، جسمانی وضع قطع، لباس کھانے پینے کے شرعی احکام، والدین، اولاد اور بچہ دہیوں کے حقوق، تبلیغ دین، کھیل کود، موسیقی، ڈانس، خانگانی منصوبہ بندی، تصوف

جلد نهم

مذہب و عقیدہ، کچھ مذاہب کے بارے میں مدارس و مساجد کی حیرت انگیز کا حکم، علمی دنیا سے معاشرتی باگڑ، مسئلہ حیات انہی

جلد دہم

ڈاؤن کا نظریہ اور اسلام، اعضاء کی بیحد کاری، خودکشی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم، کنکلیٹ لیسر کی صورت میں وضو کا حکم، القرآن ریسرچ سینٹر کا شرعی حکم وغیرہ۔

18- سلام سب مارکیٹ، پورے ٹاؤن کراچی
ڈپارٹمنٹ نمبر پر ملی نمائش ایم۔ ایس۔ جناح روڈ کراچی
فون: 7780337 7780340 گیس

مکتبہ بنیادی